

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَنَّانِ
الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِرَسُولِهِ الْمُسْتَمْسِكِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَنَّانِ
الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِرَسُولِهِ الْمُسْتَمْسِكِ

کہ دینِ مانِعتِ آقرانِ بل
ایر و منان تحفہ عجائب و صدیہ غرائب الی اللہ
مقبول بابرکات شاہ کوئین حضرت محمد رسول اللہ
مُسکَلِیْ بِہُ

صَّحْبَةُ الرَّسُولِ

المجلد الثانی والمشرود ۲۲

فِي مَعْجَزَاتِهِ وَخَوَاقِيهِ ﷺ

از تصنیف جناب شیخ مخدوم عبدالرشید صاحب فرزند شاہ عبدالرحمن

حضرت خواجہ نوبگان خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبہ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِقُدْرَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ بِبَرَکَةِ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بظہیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قدرت کے اور بظہیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ بِهَبِیْبَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ بِکِرَامَةِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کے اور بظہیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہیبت کے اور بظہیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ بِسِیَّاسَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کرامت کے اور بظہیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نگہبانی و نگرانی کے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مُلْکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝

تمام تمنا میں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بہت رحمت والا مہربان۔ روز جزاء کا مالک ہے۔

اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ

ان صفات محققہ والے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں ہمیں راہ راست پر چلا راہ

الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝ اللّٰهُمَّ

ان کی جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔ اے اللہ

صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ خَتَمَ اللّٰهُ

رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے دل نور پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی

قَلْبَهُ بِخَاتَمِ مَنْ نُورِ اللّٰهِ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ اسْتَشْفٰی

نورانی مہر کے ساتھ۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ شفا پائی

مِنْ فَضْلِ وَصُوْرَتِهِ مَا یَزِیْدُ مِنَ الْفَیْنِ وَنَبَتْ تَحْتَ جَبِیْنِهِ

آپ کے فضل کے بچے ہوئے پائی سے دو ہزار سے زائد حضرات نے اور آگاہ سبزہ ان کی جبین اقدس کے نیچے

الْکَلَاءِ ۝ وَاَنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْحَجْرُ الْجَلْمُودُ وَلَمَسْ بِكَفِّهِ ضَرْعٌ

اور موم ہو گیا آپ کے قدم اقدس کے نیچے سخت پختہ اور آپ نے چھوا اپنی ہتھیلی سے

شَاةٌ أُمَّرٌ مَعْبِدٌ فَعَادَ ضَرْعَهَا أَحْفَلٌ مَا يَكُونُ وَأَجُودَ اللَّهُمَّ صَلِّ

آہ معبد کی بکری کے ٹخنوں کو تو ہو گئے بھر پور دودھ کے ساتھ اور بہت عمدہ تمام اوقات سے۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَوَى الْفَأْوَ نِصْفَ أَلْفٍ مِّنْ سَبَلٍ وَرَوَى

فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے سیراب فرمایا پندرہ سو صحابی کو بچے کچھے قلیل پانی سے اور سیراب فرمایا

الرَّكْبَ بَعْدَ التَّهْلِ بِالْعَلَلِ وَخَاطِبُهُ الْبُعَيْرُ وَكَلِمَةُ الذِّئْبِ وَطِرَازُ

سواروں کی جماعت کو پہلی بار پینے کے بعد دوسری بار پلا کر اور کلام کیا آپ کے ساتھ اونٹ نے اور گفتگو کی آپ سے بھیڑیے نے اور

عَرْشِ الرَّحْمَنِ بِلَا امْتِرَاءٍ وَتَحَرَّكَ بِهِ جَبَلٌ جِرَاءَ اللَّهِ صَلَّى عَلَى

عرش رحمن کے نقش و نگار نے بلا تشک و شبہ اور جھومنے لگا آپ کی تشریف آوری اکی وجہ سے کہ حرام۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا شَرِبَ ابْنُ سَنَانٍ دَمَهُ يَوْمَ أَحْدَلَمُ تَعَدُّ

سیدنا محمد پر کہ جب پیابا ملک بن سنان خدری نے آپ کے رزم سے بننے والے خون کو احد کے دن تو کبھی نہ لوٹی

عَلَيْهِ ضَرَارَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَلِمَتُهُ الْحِصِّيَّ وَرَأْيَهَا وَاجَابَتُهُ لِمَا

ان پر ان کی مضر بیماری بعد ازاں اور کلام کیا آپ سے تپ نے اور آپ نے اس کو دیکھا اور اس نے قبول کیا جو

أَمْرَهَا بِهِ وَنَهَاها وَأَخْبَرْتَهُ فَرَسُ التُّعْمَانِ الْبَلْقِيَّ أَنَّ مَنْ أَمِنَ

آپ نے حکم فرمایا اور منع کیا اور عرض کی آپ کو نعمان کی چٹلی گھوڑی نے کہ جو شخص بھی آپ پر ایمان

بِهِ لَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَدَلَّ الذِّئْبُ عَلَيْهِ الرَّاعِيَ وَحَرَّكَهُ لِلْقُدُومِ

لائے گا نہ گمراہ ہو گا اور نہ بد بخت رہے گا اور آپ کی طرف رہنمائی کی بھیڑیے نے چرواہے کو اور آپ کی خدمت میں حاضر

عَلَيْهِ مِنْ مَكَّةَ وَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْأَسَدَ بِالسَّلَامِ مَعَ سَفِينَةَ الْهُمَامِ

ہونے پر آنا وہ کیا مکہ سے اور بھیجا اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف شیر کو ساتھ سلامتی کے بلند ہمت سفینہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَظْهَرَ

اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے ذریعے ظاہر فرمائے

اللَّهُ بِهِ مِنَ الْمُعْجَزَاتِ وَالْكَرَامَاتِ وَالْخَوَارِقِ الْعَادَاتِ وَصَلِّ

اللہ تعالیٰ نے معجزات و کرامات اور خلاف معمول افعال و اعمال اور رحمت نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَتْهُ نَاقَتُهُ الْعَضْبَاءُ وَنَصَرَ بِرِيحِ

سیدنا محمد پر جن سے کلام کیا ان کی اونٹنی عضباء نے اور جنہیں مدد دی گئی باد صبا کے

الصَّبَا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَهُ الْحَجْرُ الْأَسْوَدُ وَأَقْرَأَ

ساتھ - اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جن سے حجر اسود نے کلام کیا اور آپ کی

بِرِسَالَتِهِ وَوَحَّدًا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَهُ جَبَلٌ تَبِيرٌ

رسالت کا اقرار کیا اور توحید کا - اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جن سے کلام کیا کوہ تبیر اور

وَجِرَاءُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رُمِيَتْ الْكُثُومُ فِي نَحْرِهَا

کوہ جراء نے اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر گر چوٹ لگی کثوم کو سینہ میں اور

وَبَصَقَ عَلَيْهَا فَبِرَاتٌ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَتْهُ الشَّاةُ

آپ نے اس پر لعاب ذہن ڈالا تو وہ ندرست ہو گئی اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن سے کلام کیا

الْمَسْرُومَةُ وَسَمَّى اللَّهُ أُمَّةً مَرْحُومَةً وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

زہر آلود بکری نے اور اللہ نے نام دیا آپ کی اُمت کو اُمت مرحومہ کا - اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ الْوَحُوشُ تَبْدَأُ نَاقَتَهُ بِالْكَلَامِ وَتُخْبِرُهَا أَنَّهَا

محمد پر کہ جنگلی جانور ابتداء کرتے تھے ان کی اونٹنی کے ساتھ کلام میں اور اسے خبر دیتے تھے کہ وہ

لَهُ وَظَلَلَتْهُ الْعِمَامُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ تَلْتَمَسُ مِنْهُ الْأَمَانَ وَالْبَرَكَاتُ وَ

آپ کی سواری بنے گی اور سایہ کیا آپ پر بادلوں نے فتح مکہ کے دن در آنجا لیکر طلب کرتے تھے آپ سے امان و برکت اور

كَانَ يُعْطَى عَطَاءً مَنْ لَا يَخْشَى فَاقَةَ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ عطا دیتے تھے اتنا ایسے شخص کے جسے فاقہ سے اندیشہ نہ ہو اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي رَجَفَ الْمُنْبَرُ تَحْتِ أَقْدَامِهِ شَوْقًا لِكَلَامِهِ وَإِعْلَامًا بِهِ وَبَيْتٌ

کہ جھومنے لگا منبر شریف آپ کے قدموں کے نیچے آپ کے کلام اور تعلیم کی شوق میں اور اظہار کیا آپ کے سامنے

لَهُ الْبُعَيْرُ أَشْوَاقَهُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَكَى إِلَيْهِ الْبُعَيْرُ

اونٹ نے اپنے شوق و ذوق کا اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کی بارگاہ میں اونٹ نے شکایت کی

وَأَعْتَرَفَ بِكَثْرَةِ الْعَمَلِ وَقِلَّةِ الْعَلْفِ وَاسْتَأْذَنَتْهُ الشَّجَرَةُ أَنْ

اور اقرار کیا عمل کی کثرت اور چارہ کی قلت کا اور اذن طلب کیا ان سے درخت نے ان کی طرف

تَمِيلَ نَحْوَهُ وَتَنْظُرَهُ وَشَهِدَ بِتَصْدِيقِهِ قَبْرُ الزَّادِ وَسُؤْيُقُهُ وَ

مائل ہونے اور انہیں دیکھنے کا۔ اور گواہی دی ان کی صداقت کی زادراہ والی کھجوروں اور ستونے اور

صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَهِدَالَهُ بِرِسَالَةِ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ مَلِكِ

رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کے ملک جبار کا رسول برحق ہونے کی گواہی دی رات کے موکل

اللَّيْلِ وَمَلِكِ النَّهَارِ وَكَلَّمَتْهُ صَخْرَةٌ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ حِينَ صَعِدَا

فرشتے نے اور دن کے موکل فرشتہ نے اور کلام کیا ان سے بیت المقدس کے پتھر نے جبکہ آپ نے اس پر

عَلَيْهَا وَجَلَسَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَادَاهُ اللَّهُ بِأَحِبِّ

قدم رکھا اور تشریف فرما ہوئے اس پر اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہیں ندا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں محبوب ترین

الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ وَمَا اسْتَقْبَلَهُ حَجْرٌ وَلَا مَدَارٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا اسْلَمَ عَلَيْهِ

نام کے ساتھ اور نہ سامنے آیا آپ کے کوئی پتھر اور ٹھوسا اور نہ درخت مگر آپ کو سلام پیش کیا

وَلَمَّا شَرَدَ لَهُ الْبُعَيْرُ وَانْتَضَرَهُ حَبْسَتُهُ بِخَطَايِمِهِ الشَّجَرَةُ وَلَمَّا

اور جب بھاگ گیا آپ کا اونٹ اور آپ نے اس کا انتظار کیا تو اسے اس کی مہار کے ذریعے روک لیا درخت نے اور

وَضَعُ يَدَاهُ بِطَعَامِ الْجَفْنَةِ وَهُوَ قَلِيلٌ كَانَ النَّاسُ يَتَعَاقِبُونَ

اور جب آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا پیالے والے قلیل طعام پر تو صحابہ کی جماعتیں یکے بعد دیگرے اس کو کھاتی رہیں

عَلَيْهِ إِلَى اللَّيْلِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا اتَتْهُ الْبُعَيْرُ

رات تک اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کی خدمت میں اونٹنی حاضر ہوئی

تَشَكُّوا الظِّمَاءَ وَضَرَّهَا فَارَوَاهَا وَأَمْرُوتَهُ مِنْ تَدْيِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَبْلَ

پیاس اور اس کے مہر کی شکایت کرتے ہوئے تو آپ نے اس کو سیراب فرمایا اور اس نے آپ کو اپنے دودھ سے سیراب کیا اور اس

ذَلِكَ لَهَا فِيهِ قَطْرَةٌ وَأَشْبَعَ مِائَةٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ مِنْ قَدَحٍ

قبل اس کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا اور سیر فرمایا اہل صفہ کے سو افسراد کو ایک پیالہ

وَاحِدًا وَصَحِيفَةً وَأَشْبَعَ أَرْبَعَمِائَةَ رَاكِبٍ أَوْ زَادَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَمْدَادٍ

یا صحنک سے اور سیر فرمایا چار سو بلکہ ان سے بھی زائد سواروں کو چار سیر سے

وَأَشْبَعَ ثَمَانِ عِيَالٍ مِّنْ كَتِفِ مَعْرَ أَوْ شَاةٍ وَأَشْبَعَ جَيْشَهُ بِصَاعٍ

اور سیر فرمایا آٹھ مخناجوں کو بکری کے شانے سے اور سیر فرمایا اپنے لشکر کو ایک صاع (چار سیر کا پیمانہ)

مِّنْ تَمْرٍ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي آمَنَ عَلَى دُعَائِهِ الْجِدَارُ

کھجوروں سے۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کی دعویٰ پر آمین کہی دیوار نے

وَخَائِطُ الْبَيْتِ وَالْدَّارُ وَتَقَلَ عَلَى شَجَّةِ ابْنِ أُنَيْسَةَ فَكَانَ الْبَرُّ

اور مکان کی چار دیواری اور حویلی نے اور آپ نے لعاب دہن ڈالا ابن انیسہ کے زخم پر تو ہو گئی تندرستی

أُنَيْسَةَ وَتَقَلَ عَلَى يَدِ ابْنِ عَقَالٍ وَأَسْرَعُ فَعَادَتْ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ

عجوار اس کی اور ابن عقال کے ہاتھ پر لعاب دہن ڈالا تو جلد ہی ہو گیا خوب تر

قَبْلَ أَنْ تُقَطَّعَ وَرَأَى فِي بَطْنِ صَبِيٍّ تَغَشَّى فَذَهَبَ دَأْبُهُ مِنَ الْحَشَا

کٹنے سے پہلے کی حالت سے بھی اور دم فرمایا بچے کے پیٹ پر جسے غشی طاری ہوتی تھی تو دور ہو گئی اس کی بیماری آنٹوں

وَلَمَسَ سَوْطَ عَامِرٍ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَكَانَ نُورًا وَاضِحًا وَالثَّنَاوَلَمَّا نَضَحَ

سے۔ اور چھو عامر کی چھڑی کو دائیں ہاتھ سے تو ہو گیا اس کا نور واضح روشن والا۔ اور جب چھڑکا

فِي وَجْهِهِ زَيْنَبُ الْمَاءِ كَانَتْ يُرَى وَجْهَهَا كَالْبَدْرِ فِي الظُّلَمَاءِ وَلَمَسَ

حضرت زینب کے چہرے پر پانی تو اس کا چہرہ چمکھیں کے چاند کی طرح معلوم ہوتا تاریک رات میں اور چھوا

ضِرْعَ شَاةٍ عَجْفَاءٍ فَدَسَّ لَبْنُهَا مِنْ حَيْثُ وَوَقَّا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

لاغر و ناتراں بکری کی شیردانی کو تو اسی وقت جاری ہو گیا اس سے دودھ اور بہت زیادہ ہو گیا۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا مَسَّ الْقِنُوبِ بَيْنَانِهِ أَشْرَمَ مِنْ عَامِهِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ

محمد پر کہ جنہوں نے چھوا کھجور کے خوشہ کو اپنی انگلیوں کے سروں سے تو وہ اسی سال پھلدار ہو گیا بغیر موسم کے

وَمَسَّ عَلَى رَأْسِ قَيْصَرَ بَيْنَانِهِ فَعَادَ أَطْوَلَ أَقْرَانِهِ وَتَقَلَ عَلَى

اور مس فرمایا چھوئے قدوائے کے سر کو انگلیوں کے سروں سے تو ہو گیا اپنے ہمعصروں سے دراز تر اور لعاب دہن ڈالا

ذِرَاعِ ابْنِ حَاطِبٍ فَكَانَ مَا بِهِ مِنَ الْحَرَقِ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ وَ

ابن حاطب کی کلانی پر تو ان کی جلن ہو گئی مانند کل گذشتہ کے - اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَسَحَ بِيَدِهِ رَأْسَ الْأَقْرَعِ فَنَبَتَ مِنْ

رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے مسح فرمایا اپنے ہاتھ مبارک گینے کے سر تو اس کے بال اگل آئے

حَيْنَهُ شَعْرَةٌ وَأَسْرَعُ وَحَزَنٌ يَعْفُورٌ لِمَوْتِهِ وَجَزَعٌ وَمَاتَ بَعْدَ

اور بہت جلد ہی اگلے اور غمزہ ہو گیا یعفور آپ کا گدھا آپ کے وصال کی وجہ سے اور بے صبر ہو گیا اور آپ کے بعد

بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَسَمَّ بَطْنَ

تیسرے یا چوتھے دن مرگیا اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے ہاتھ پھیرا

عَقِبَهُ ابْنُ فَرْقِدٍ فَعَادَ بِرِيحَةٍ أَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ وَأَجُودَ وَمَسَحَ

عقبہ بن فرقہ کے پیٹ پر تو اس کی مہک کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہو گئی اور مجنوں بچے کے

رَأْسِ صَبِيٍّ مَجْنُونٍ فَكَانَتْهُ مَا بِهِ لَمْ يَكُنْ وَزَيْدٌ لَهُ سَاعَةٌ فِي النَّهَارِ

سر پر ہاتھ پھیرا تو گویا وہ کبھی مجنون ہوا ہی نہیں تھا اور زیادہ کر دی گئی آپ کے لیے ایک ساعت دن میں -

وَكَانَ الظُّلُّ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ وَكَانَ إِذَا أَحْدَثَ فِي نَكَانٍ وَنَهَضَ

اور سایہ (درختوں کا) ادھر ہی پھر جاتا تھا جہاں آپ پھرتے تھے اور جب کسی جگہ پر قضاے حاجت فرماتے اور فارغ ہو کر آتے

تَبْلَعُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْأَرْضُ وَتَفْجَرُ مِنْهُ الْإِيْمَانُ وَأَعْطَى قَلْبَ الْأَعْيَانِ

تو نکل جاتی زمین اسے جو برآمد ہوتا اور آپ سے ایمان و ایقان کا چشمہ چھوٹا اور آپ کو قلب ماہیات کا معجزہ عطا کیا گیا -

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْحَمَ النَّاسَ بِالنَّاسِ وَأَسْتَسْقَى عُمَرُ

اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جو سب لوگوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں اور باران رحمت طلب کی حضرت عمرؓ نے

بَعْدَهُ بَعْدَهُ الْعَبَّاسُ وَذَلِكَ الْأَسَدُ بِالْحَقِيقِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ عَلَى الطَّرِيقِ

آپ کے بعد آپ کے چچے حضرت عباس کے ساتھ اور شیر نے رہتالی کی آپ کے بعض صحابہ کو راستہ کی

وَقِيلَ فِيهِ لِلْكَسْرَى فِي التَّوْمِ وَهُوَ فِي غَشَاوَةٍ إِخْلَعُ مَا فِي يَدِكَ

اور آپ کے متعلق کسریٰ کو خواب میں کہا گیا جبکہ وہ پردہ و حجاب میں تھا - چھوڑ دے جو تیرے قبضہ میں ہے

لصاحب الهراوة وخاطبه يعفور مبتدياً لم يطأ اباي غير الانبياء

صاحب عصا نبی اکرم کے لیے اور کلام کیا آپ سے یعفور گدھے نے پہل کرتے ہوئے کہ میرے آباء پر نہ سوار ہوئے مگر انبیاء

ولمّا قصر دون قامتہ الجدار اذ تفعت عتباته له واستدار

اور جب کوتاہ ہو گئی آپ کے قدر عمارت کے مقابل مکان کی دیوار تو بلند ہو گئی اس کی چوٹیں اور مڑ گئیں اور

وركب الفرس القطوف جهاراً فعاد بعد بحراً لا يجار وصل على

سواری فرمائی چھوٹے قدموں والے گھوڑے پر تو ہو گیا وہ اس کے بعد دریا کی روانی والا جس کی برابری نہیں کی جاسکتی تھی۔ اور صلوات نازل

سیدنا محمد الذي نحس بعير جابر القطوف بعصاه فما

فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بھڑی سے چمکا دیا حضرت جابر کے کم رفتار اونٹ کو تو کوئی اونٹ

دناہ يعير بعد ذلك ولا قصاه وقال لفرسه قف لاركع فلم

اس کے قریب نہ پہنچ سکا اس کے بعد اور نہ اسے پیچھے چھوڑ سکا اور آپ نے گھوڑے کو فرمایا اڑ کے رہنا تاکہ میں نماز پڑھ لوں تو اس نے

تحرك حافراً ولم ترفع حتى ركع وشكى اليه البعير المصروع

اپنا سسم بھی نہ ہلایا اور نہ اٹھایا حتیٰ کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے اور شکایت کی آپ کی خدمت میں زمین پر گرے ہوئے اونٹ

مصابه من البرد والجوع وصل على سيدنا محمد الذي لمّا

نے سردی اور بھوک کی اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جب آپ

ركب جمار سعيد بن عبادة زال عنه قطافه وما اعتاده وكان

سوار ہوئے سعید بن عبادہ کے سمت رفتار گدھے پر تو اس کی سستی اور سابقہ عادت جاتی رہی اور آپ

يوجه يعفور الى اصحابه فيقرع الباب برأسه وانيابه واذا

بیچتے یعفور کو اپنے صحابہ کرام کی طرف تو وہ ان کا دروازہ کھٹکھٹاتا اپنے سر اور دانتوں سے اور جب

رأه الداجن في البيت برك واذا خرج لعب وتحرك واخبرته

دیکھتا آپ کو گھر کا پالتو جانور تو بیٹھ جاتا اور جب آپ نشتر لے جاتے تو کھینتا اور دوڑتا بھاگتا اور خبر دی آپ کو

الشاة وهو سالك إنما اخذت بغير اذن مالك ولما مس

(مذکورہ مطلوبہ) بکری نے جبکہ آپ جا رہے تھے کہ وہ حاصل کی گئی ہے مالک کی اجازت کے بغیر اور جب ہاتھ پھیرا

جَابِرُ بْنُ سَمْرَةَ عَادَ رِيحَهُ أَجُودَ مِنْ الْمَسْكِ وَأَعْطَرَهُ وَصَلَ عَلَى

جابر بن سمرہ پر تو ان کی مہک کستوری سے بھی عمدہ اور زیادہ خوشبودار ہو گئی۔ اور رحمت نازل فرما

سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الَّذِي تَفَلَّ فِي عَيْنِ عَلِيٍّ وَهِيَ رَمْدٌ فَكَانَتْهَا لَمْ تَرْمُدْ

سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے لعاب دہن ڈالا حضرت علیؑ کی آنکھ پر جو کہ بیمار تھی تو گویا وہ کبھی بیمار ہوئی ہی نہ تھی

وَسَلَّتْ عَنْ جُرْحٍ عَائِدٍ بِيَدِهِ وَلَمَسَ فَعَادَتْ لَهُ عَرَّةٌ كَفَرَّةٌ

اور خون صاف کیا اپنے دست اقدس سے عائد کے زخم جبین سے اور چھو اتر ہو گئی ان کی جبین میں سفیدی مانند

الْفَرَسِ وَتَفَلَّ فِي أَثَرِ سَهْمِ ابْنِي قَتَادَةَ فَمَا أَحْسَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا

گھوڑے کی سفیدی کے اور لعاب دہن ڈالا القوادہ کے زخم پر تو نہ محسوس کیا انہوں نے درد اس کے بعد اور نہ

عَادَلَهُ وَتَفَلَّ فِي عَيْنِ فُذَيْكٍ وَهِيَ بَيْضَاءُ فَعَادَتْ أَحْسَنَ

لوثا۔ اور لعاب دہن ڈالا فذیک کی آنکھ پر جو بے نور ہو چکی تھی تو وہ ہو گئی دوسری سے بھی

عَيْنِيهِ وَأَرْضِي وَتَفَلَّ عَلَى سَاقِ ابْنِ الْحَكَمِ يَوْمَ خُنْدَقِ

محبصورت اور پسندیدہ تر اور لعاب دہن ڈالا ابن الحکم کی پینڈلی پر خندق کے دن

فَعَادَتْ أَجُودَ مَا كَانَتْ وَأَطْلَقَ وَكَانَ إِذَا اعْتَرَضَتْهُ شَجَرَةٌ فِي الْمَضِيقِ

تو وہ پہلے سے عمدہ اور چمکی ہو گئی اور جب تنگ راستہ میں درخت سامنے آتا تو وہ

تَنَحَّتْ لَهُ عَنِ الطَّرِيقِ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَسَمَّ عَيْنَ

آپ کی خاطر راہ سے ہٹ جاتا اور رحمت کاملہ نازل فرماتا سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے ہاتھ پھیرا

قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ مَرَّاتٍ فَكَانَ يُنْظَرُ فِي وَجْهِهِ كَالْمِرْآتَةِ وَنَزَّوْدَ

قوادہ بن ملحان کی آنکھ پر کئی مرتبہ تو ان کے چہرے میں آئینہ کی مانند اشیاء دیکھی جاتی تھیں اور نازد راہ

بَعْضُ أَصْحَابِهِ مَاءً حَسَنًا فَرَادَ لَهُمْ مِنْ بَدَا طَاهِرًا وَكَبْنَاوَلْنَا

کے طور پر دیا بعض صحابہ کو اچھا پانی تو زیادہ کیا اس نے انہیں پاکیزہ مٹھن اور دودھ کے طور پر

أَرَادَ نَحْرُ بَدْنَاتِهِ وَابْتَدَأَ كُنَّ يَزِدُّ حَمْنًا عَلَيْهِ بِأَيْتِهِنَّ يُبْدَأُ

اور جب ارادہ فرمایا اپنے اونٹ قربان کرنے کا اور آغاز کیا تو وہ آپ پر ازوحام کرتے تھے کہ اس کے ساتھ

وَكَانَ الْعُشْبُ يَنْبُتُ بَيْنَ يَدَيْ نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ وَمَاتَتْ بِمَوْتِهِ

آغاز کیا جائے اور سبز گھاس اُٹتا تھا آپ کی اونٹنی عضباء کے آگے اور وہ مر گئی آپ کے وصال پر

حُزْنًا عَلَيْهِ وَكَرْبًا وَلَمَّا قَدَّغَتْ سَاقُ ابْنِ عَمْرِو صَاحٍ يَا مُحَمَّدُ

رج و کرب کی وجہ سے اور جب سُن ہو گئی حضرت عبد اللہ بن عمر کی پنڈلی تو پکارا انہوں نے یا محمد

فَإِنْ جَبَرَ وَكَانَ يَتَّقِلُ فِي أَفْوَاهِ الْمَرَاحِضِ فَيَجْزِيهِمْ ذَلِكَ إِلَى

تو وہ درست ہو گئی اور آپ لعاب دہن ڈالتے شیر خوار بچوں کے منہ میں تو کفایت کرتا انہیں آپ کا لعاب دہن

الْحُلُولِ فِي الْمَضَاجِعِ وَرَدَّ يَمِينُ مَعْوِذٍ بَعْدَ الْقَطْعِ وَرَدَّ سَاقُ

نوا بگاہوں میں اور آپ نے حضرت معوذ کے کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنی جگہ درست کر دیا اور ابن اکوع

ابْنُ الْأَكْوَعِ بَعْدَ الصَّدْعِ وَمَسَّ لِسَانُهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلْنَا

کی پنڈلی کو زخمی ہونے کے بعد درست فرما دیا اور چوسا آپ کی زبان مبارک کو حضرت حسن و حسین نے علانیہ

فَلَمْ يَشْتَكِ عَطْشًا زَمْنَا وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا شَكِيَ

تو نہ شکایت کی پیاس کی عرصہ تک۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جب شکایت کی ان

إِلَيْهِ أَبُو طَالِبٍ الظُّلْمَا ضَرَبَ الْأَرْضَ بِعَقِبِهِ فَأَنْفَجَرَ الْمَاءُ وَ

سے جناب ابوطالب نے پیاس کی تو اپنی ایڑی زمین پر ماری پس پانی پھوٹ نکلا اور

كَانَ إِذَا مَشَى عَلَى الْقِتَادِ عَادَتْ تَحْتِ قَدَمِهِ كَالْبَهَادِ وَرَأَتْ

جب آپ چلتے کانٹوں پر تو ہوجاتے آپ کے قدموں کے نیچے ریشمی بچھونے کی مانند۔ اور دیکھ لی

عَائِشَةُ الْإِبْرَةَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ الْبَهِيمِ بِنُورٍ وَجْهَهُ الْكَرِيمِ وَنَادَى

حضرت صدیق نے سوئی رات کی تاریکی میں آپ کے چہرہ مکرم کے نور میں اور آواز دی

عَلَى أُمَّ أَيُّوبَ وَهِيَ مَكْسُورَةٌ فَقَامَتْ تَسْعَى إِلَيْهِ وَهِيَ مَجْبُورَةٌ

ام ایوب کو جب کہ اس کے پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے تو بھڑی ہوئی دوڑتے ہوئے اس کے پاس جا کر تندرست ہو چکی تھی

وَصَلَّى عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَبْرَأَ بِشِقِّ حَبِيبٍ بِالْمَسْحِ وَأَمَّنَ

اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے تندرست فرما دیا حضرت حبیب کے سپلو کو ہاتھ پھیر کر اور امان دی

خَائِفَةٌ يَوْمَ الْفَتْحِ وَسَامِي وَجُوهَ قُرَيْشٍ بِالْتُّرَابِ فَانْهَزَمُوا

اپنے سے خوفزدہ لوگوں کو فتح مکہ کے دن اور قریش کے مومنوں پر مٹی پھینکی پس وہ بھاگ گئے

بَعْدَ ضَرْبِ الرِّقَابِ وَرَدَّ اللَّهُ الرَّمْلَ تَحْتَ أَقْدَامِ أَصْحَابِهِ

بعض کی گردنیں کٹانے کے بعد اور کر دیا اللہ تعالیٰ نے ریت کو آپ کے صحابہ کے قدموں کے نیچے

صَلْدًا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ الْأَرْضُ جُلًّا لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ وَلَا تَهْتَدِي وَ

سخت پتھر کی مانند بعد اس کے اس پر قدم نہیں ٹھرتے تھے اور نہ راہ چل سکتے تھے اور

سَكَبَ فَضْلٌ وَضُوءٌ فِي بَيْرِ قَبَا فَتَفَجَّرَ مَا بَئِهَا بَعْدَ التَّرْعِ وَ

پلٹا بچا ہوا وضو کا پانی بیر قبا میں تر ابلنے لگا اس کا پانی اور

رَبَا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا وَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ

بڑھنے لگا حالی ہو جانے کے بعد۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جو اپنے ہاتھ مبارک کو کھانے میں رکھتے

وَكَبَّرَ عَادًا أَكْثَرَ مَا كَانَ وَأَوْفَرُ وَحَنَّتْ إِلَيْهِ النَّوْقُ وَإِلَيْهِ الْحِدَاةُ

اور تکبیر کہتے تو وہ پہلے سے زائد اور وافر ہو جاتا اور شوق کا اظہار کیا آپ کی طرف اونٹنیوں نے اور آپ کی طرف ہدیٰ

تَسْوِقٌ وَسَمِعَ تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ بِالتَّحْقِيقِ وَهُوَ يُوَادُّ الْعَقِيقَ

خوان چلاتے تھے اور سنی آپ نے آسمان کے فرشتوں کی تسبیح قطعی طور پر جب کہ وادی عقیق میں تھے۔

وَيُسْتَسْقَى بِوَجْهِهِ الْغَمَامُ وَكَانَ يُسْتَشْفَى بِلَمْسِهِ مِنَ السَّقَامِ

اور بارش طلب کی جاتی تھی بادلوں سے آپ کے چہرہ اقدس کے طفیل اور آپ کے ہاتھ لگانے سے شفا حاصل کی جاتی تھی بیماریوں

وَالْأَلَامِ وَكُلُّ دَابَّةٍ رَكِبَهَا لَمْ تَهْرَمْ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

سے اور دردوں سے اور جس سواری پر آپ سوار ہوئے وہ بڑھی نہ ہوئی اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

غَسَلَ قَدَمَيْهِ بِأَمْلَحِ الْمِيَاهِ فَعَادَ أَعْدَابَ مَا فِي الْأَرْضِ وَأَحْلَاهُ وَ

قدم مبارک دھوئے پانی سے تو وہ زمین کے بشریں تر پانیوں سے ہو گیا اور

كَانَ إِذَا اسْتَرْبَهَنَدِيلُ يَدَيْهِ لَمْ تَعُدْ النَّارُ عَلَيْهِ وَكَانَ الدُّبَابُ لَا يَقَعُ عَلَى نَبِيِّهِ

آپ جب اپنا ہاتھ مبارک دسترخوان سے پونچھتے تو آگ اس پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی اور مکھی آپ کے کپڑوں پر نہیں

وَسَمِعَ وَجَنَّةَ الْحَجْرِ حِينَ أُلْقِيَ فِي السَّقَرِ وَسَمِعَ عَوَاءَ الْكُفَّارِ وَهُمْ فِي الدَّرَكِ

بیٹھتی تھی اور سنا آپ نے پتھر کے گرنے کی آواز کو جو جہنم میں پھینکا گیا تھا اور سنی کفار کی بیچخ و بیکار جب کہ وہ جہنم

الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَ إِلَيْهِ هُودٌ تَعَذُّبٌ فِي

کے پچلے طبقہ میں تھے اور رحمت نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے ہود کے عذاب تہور کو سنا

قُبُورِهَا قَبْلَ يَوْمِ نُشُورِهَا وَسَمِعَ صَاحِبَ الْقَبْرِ يَقُولُ عَذَّبْتُ فِي الْغَيْبَةِ

ان کے بھلنے سے پہلے اور قبر والوں کو کہتے سنا کہ میں غیبت اور پیشاب کی وجہ سے

وَالْبَوْلِ وَسَمِعَ حُرُوكَةَ بَابِ الْجَنَّةِ حِينَ حَرَكَةُ الرَّضْوَانِ وَسَمِعَ كَلَامَ النَّارِ

عذاب دیا گیا ہوں اور سن لی جنتوں کے دروازے کی آواز جیکر ہلایا اسے رضوان نے اور سنا آگ کے کلام

وَالْجَنَّةِ تَطْلُبُ كُلُّ وَاحِدٍ مَلَأَهَا مِنَ الرَّيْسِ وَالْجَنِّ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور جنت کے کلام کو جن میں سے ہر ایک طلب کرتی تھی اپنا ہر کیا جانا جنوں اور انسانوں کے ساتھ اور رحمت نازل فرما سیدنا

الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ لَهُ مَلَائِكَةً يَصَلُّونَ عَلَيْهِ وَيُوقِرُونَهُ فَإِذَا انْشَقَّتْ مِنْهُ

محمدؐ پر جن پر تو نے صلوات بھیجنے کے لیے اور تو قبر کیلئے ملائکہ پیدا فرمائے کہ جب زمین قبر آپ پر سے الگ ہوگی

الْأَرْضُ يَقْفُونَهُ لِحَشْرِ وَيَقْدُمُونَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ اللَّهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلِكٍ

تو کھڑا کریں گے آپ کو حشر کے لیے اور آگے چلیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار فرشتے مقرر فرمائے

يُحْفُونَ بِقَبْرِهِ وَعَفَرَ اللَّهُ لِمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَلَوْ مَرَّةً فِي عُمُرِهِ لِقَوْلِهِ عَزَّ

جو آپ کی قبر انور کا احاطے کے رہتے ہیں اور اللہ بخشتا ہے اسے جو آپ پر درود بھیجے اگرچہ عمر میں ایک مرتبہ واسطے اس قول

وَجَلَّ إِظْهَارِ الْقُدْرَةِ فِي الْعِبَادِ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى

باری تعالیٰ کے آپ کی قدر و منزلت بندوں میں ظاہر کرنے کیلئے بیشک جس ذات نے فرض کیا آپ پر قرآن آپ کو لوٹانے والا ہے

مَعَادٍ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَهُ جَبَلٌ تُبَيْرٌ وَجِرَاءٌ وَلَهَا رَهِيَّتٌ

مقام بازگشت کی طرف اور صلوات نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جن سے کلام کیا کوہ تبیر و حراء نے اور جب چوٹ لگی

الْكَلْتُومُ فِي نُحْرِهَا فَبَصَقَتْ عَلَيْهَا فَبَرَّتْ وَكَلِمَتُهُ الشَّاةُ الْمَسْمُومَةُ وَكَانَتْ

کلتوم کو سینہ میں تر آپ نے دم کیا پس وہ فوراً تندرست ہو گئی۔ اور کلام کیا آپ سے زہر آلود بکری نے اور

الْوَحُوشُ تَبْدَأُ نَاقَتَهُ بِالْكَلَامِ تُخْبِرُهَا أَنَّهُ لَهٗ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ

جنگلی جانور آپ کی اونٹنی کے ساتھ کلام میں پہل کرتے جبکہ اسے خبر دیتے تھے کہ وہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ و

السَّلَامُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ظَلَّتْهُ الْغَمَامُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ

السلام کی سواری ہوگی۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جن پر سایہ کیا بادل نے فتح مکہ کے دن ان

تَلَّتِيسُ مِنْهُ الْأَمَانُ وَالْبُرْكََةُ وَسَجَفَ الْمَثْبِرُ تَحْتَ أَقْدَامِهِ

سے اتنا سس کرتے ہوئے امان و برکت کا اور جھوما منیر شریف آپ کے قدموں کے نیچے

شَوْقًا لِّلْكَلَامِ وَإِعْلَامِهِ وَابْتِثَّ لَهُ الْبُعَيْرُ اشْوَاقَهُ وَكَانَ يُعْطَى

آپ کے کلام اور تعلیم کے شوق میں اور ظاہر کیا آپ سے اونٹ نے اپنے شوق و ذوق کو اور آپ عطا فرماتے

عَطَاءً مَنْ لَا يَخْشَى فَاقَةَ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

تھے مانند اس شخص کے جو نافر سے اندیشہ نہ رکھتا ہو۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کی خدمت میں

شَكَى إِلَيْهِ الْبُعَيْرُ وَاعْتَرَفَ بِكثْرَةِ الْعَمَلِ وَقِلَّةِ الْعَلْفِ وَ

اونٹ نے شکایت کی اور اعتراف کیا کام کی کثرت اور چارہ کی کمی کا اور اذن

اسْتَأْذَنَتْهُ الشَّجَرَةُ أَنْ تَمِيلَ نَحْوَهُ وَتَسْتُرَهُ وَشَهِدَ بِتَصْدِيقِهِ

طلب کیا ان سے درخت نے ان کی طرف مائل ہونے کا اور انہیں چھپانے کا اور گواہی دی آپ کی صداقت کی

تَمْرُ الزَّادِ وَسَوِيْقُهُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَتْهُ صَخْرَةٌ

زادراہ والی بھجوروں اور ستونے اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جن سے کلام کیا

بَيْتِ الْمَقْدَسِ حِينَ صَعِدَ عَلَيْهَا وَجَلَسَ وَلَمَّا شَرَدَ لَهُ الْبُعَيْرُ

بیت المقدس کے پتھر نے جب آپ اس پر چڑھے اور نشتر لیت فرما ہوئے اور جب آپ کا اونٹ بھاگا

وَأَنْتَظَرَهُ حَبْسَتَهُ بِحِطَامِهِ الشَّجَرَةُ وَلَمَّا وَضَعَتْ يَدَهُ بِطَعَامِ

اور آپ نے اس کا انتظار کیا تو روکا اسے درخت نے اس کی مہار کے ساتھ اور جب اپنے ہاتھ مبارک کو پیالہ

الْجَفْنَةِ وَهُوَ قَلِيلٌ كَانَ النَّاسُ يَتَعَاقِبُونَ عَلَيْهِ إِلَى اللَّيْلِ وَ

کے قلیل طعام پر تو لوگ کے بعد دیگے کھانے کے لیے اس پر بیٹھے رہے رات تک۔ اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا أَتَتْهُ الْبُعَيْرُ تَشَكُّو وَالظَّمَاءُ

رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کی بارگاہ میں اونٹنی آئی پیاس کی شکایت کرتے ہوئے

وَضَرَّهَا فَأَرُوَاهَا وَأَدْوَتْهُ مِنْ ثَدْيِهَا وَلَمْ تُكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ لَهَا

اور اس کے ضرر کی تر آپ نے اسے سیراب فرمایا اور اس نے آپ کو اپنے ٹھنوں سے جبکہ قبل ازیں ان

فِيهِ قَطْرَةٌ وَأَشْبَعَ مِائَةً مِّنْ أَهْلِ الصَّفَةِ مِنْ قَدَحٍ وَوَاحِدٍ

میں قطرہ بھر دودھ نہیں تھا اور سیر فرمایا سواہل الصفہ کو (دودھ کے) چھوٹے پیالے یا

أَوْ صَفْحَةٍ وَأَشْبَعَ أَرْبَعِمِائَةً سَرَاكِبٍ أَوْ نَرَادٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَمْدَادٍ

بڑے سے اور سیر فرمایا چار سو سواروں کو بلکہ زیادہ کو چار سیر سے۔

وَأَشْبَعُ ثَمَانِ عِيَالٍ مِّنْ كَتِفٍ مَعَزٍ أَوْ شَاةٍ وَأَشْبَعُ جَيْشَهُ

اور سیر فرمایا آٹھ فقراء کو بکری کے شانے سے اور سیر فرمایا اپنے لشکر کو

بِصَاعٍ مِّنْ تَمْرٍ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي آمَنَ عَلَى دُعَائِهِ

ایک صاع کھجوروں سے۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کی دعا پر آمین کہی

الْجِدَارُ وَحَابِطُ الْبَيْتِ وَالِدَّارُ وَتَقَلَ عَلَى شَجَّةِ ابْنِ أُنَيْسَةَ

دیوار نے اور مکان کی چار دیواری نے اور حویلی نے اور لعاب دہن ڈالا ابن انیسہ کے زخم

فَكَانَ الْبَرُّ أُنَيْسَةَ وَتَقَلَ عَلَى يَدِ ابْنِ عِقَالٍ وَأَسْرَعَ فَعَادَتْ

پر تو تندرستی اس کی مونس و عنقار بن گئی۔ اور لعاب دہن ڈالا ابن عقال کے ہاتھ پر اور سرعت سے چل دیے

أَحْسَنَ مَا كَانَتْ قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ وَرَمَقِي بَطْنِ صَبِيٍّ تَغْشَى فَذَهَبَ

تو وہ اس سے بھی بہتر ہو گیا جس طرح کٹنے سے قبل تھا اور دم فرمایا بچے کے پیٹ پر جس کو غشی طاری ہوتی تھی تو دور ہو گئی

دَائُهُ مِنَ الْحَشَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَسَّ سَوْطَ عَامِرٍ

اس کی بیماری اتر گئی۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے چھوا عامر کی چھڑی کو

بِيَدِهِ الْيَمِينِي فَكَانَ نُورُهُ وَاجِزَ السَّنَا وَلَمَّا مَسَّ الْقَنُوبِ بِنَانِهِ

اپنے دائیں ہاتھ سے تو اس کا نور واضح روشنی والا ہو گیا اور جب کھجور کے خوشہ کو اپنی انگلیوں سے چھوا



أَثْبَرُ مِنْ عَامِهِ مِنْ غَيْرِ أَوَانِهِ وَلَهَا نَضَحَ فِي وَجْهِ زَيْنَبِ الْمَاءِ

تو وہ اسی سال پھلدار ہو گیا بغیر موسم کے۔ اور جب پانی کی کلی پھینکی حضرت زینب کے منہ پر

كَانَ يُرَى وَجْهَهَا كَالْبَدْرِ فِي الظُّلْمَاءِ وَلَمْ يَسْ ضَرْعَ شَاةٍ عَجْفًا

تو نظر آتا تھا ان کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند تاریکی میں اور ہاتھ پھیرا لاغر بکری کے تھنوں پر تو

قَدَّرَ لَبْنَهَا مِنْ حَيْثُ وَوَقَّا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اُتْرَ آيَا اس کا دودھ اسکی وقت اور بہت زیادہ ہو گیا۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

تَفَلَّ عَلَى ذِرَاعِ ابْنِ حَاطِبٍ فَكَانَ مَابِهِ مِنَ الْحَرْقِ كَأَمْسِ

عاب دہن ڈالا ابن حاطب کی کلائی پر تو اس کی جلن اور سوزش ہو گئی مانند گل گذشتہ کے۔

الذَّاهِبِ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِ قَصِيرٍ بِنَارِهِ فَعَادَ أَطْوَلَ أَقْرَانِهِ

اور ہاتھ پھیرا کوتاہ قامت کے سر پر تو وہ ہو گیا دراز قامت اپنے ہمعصروں سے اور ہاتھ

وَمَسَحَ بِيَدِهِ رَأْسَ الْأَقْرَعِ فَنَبَتَ مِنْ حَيْثُ شَعْرُهُ وَأَسْرَعَ

پھیرا گئے کے سر پر تو اُسے اسی وقت بال اس کے اور جلد نمودار ہوئے۔

وَمَسَحَ بَطْنَ عُقْبَةَ بْنِ فَرْقِدٍ فَعَادَ رِيحُهُ أَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ

اور ہاتھ پھیرا عقبہ بن فرقہ کے پیٹ پر تو ہو گئی اس کی خوشبو کستوری سے بھی باکیسزہ اور

وَأَجُودَ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَانَ الْحَجْرُ تَحْتِ

عمدہ۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کی کنیوں کے نیچے پھتر

مَرْفَقِيهِ وَكَلِمَتُهُ عَضْبَاءٌ وَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ وَمَسَحَ رَأْسَ صَبِيٍّ

نرم ہو گیا اور کلام کیا آپ سے عضباء اوٹھنی نے اور سلام پیش کیا اور ہاتھ پھیرا جنون بچے کے

مَجْنُونٍ فَكَانَتْهُ مَابِهِ لَمْ يَكُنْ وَبَرِيْدًا لَهُ سَاعَةٌ فِي النَّهَارِ وَكَانَ

سر پر تو گویا اسے کبھی جنون لاحق ہی نہ ہوا تھا۔ اور زیادہ کی گئی آپ کے لیے ایک ساعت دن میں اور پھرتا

الظِّلُّ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ وَكَانَ إِذَا أَحْدَثَ فِي مَكَانٍ وَنَهَضَ

خفا سا یہ آپ کے ساتھ جہر بھی آپ پھرتے۔ اور جب کسی مکان میں قضائے حاجت فرماتے اور اُٹھتے تو تنگل جاتی



تَبْلَعُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْأَرْضُ وَ تَفْجَرُ مِنْهُ الْإِيْمَانُ وَأَعْطَى قَلْبَ

زمین اسے جو برآمد ہوتا اور چپٹہ پھوٹا آپ سے ایمان کا اور عطا کیا گیا آپ کو معجزہ قلب

الْأَعْيَانِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَزَنَ يَعْفُورٌ لِمَوْتِهِ وَ

ماہیات کا۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ غمگین اور بے صبر ہوا یعفور آپ کے وصال کی وجہ سے اور

جَزَعٌ وَمَاتَ بَعْدَهُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَاسْتَسْقَى عُمَرُ بَعْدَهُ

مرگیا آپ کے وصال شریف کے بعد تیسرے یا چوتھے دن اور باران رحمت طلب کی حضرت عمر نے آپ کے بعد

بِعَمِّهِ الْعَبَّاسِ وَدَلَّ الْأَسَدُ بِالتَّحْقِيقِ بَعْضَ أَصْحَابِهِ عَلَى

آپ کے چچے حضرت عباس کے توسل سے اور رہنمائی کی قطعی طور پر شیر نے آپ کے صحابی کی

الطَّرِيقِ وَلَمَّا بَعَثَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ إِلَى الرُّومِ أَصْبَحَ يَتَكَلَّمُ

راستہ کی اور جب بھیجا آپ نے بعض صحابہ کو اہل روم کی طرف تو وہ ان کی زبان میں کلام

بِلِسَانِ الْقَوْمِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قِيلَ فِيهِ لِكِسْرَى

کرنے کے۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کے حق میں کسری سے کہا گیا

فِي النَّوْمِ وَهُوَ فِي عَشَاوَةٍ إِخْلَعَهَا فِي يَدِكَ لِصَاحِبِ الْهَرَاوَةِ

نیند میں جبکہ وہ محاب و پردہ میں تھا جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ صاحب ہراوہ کے لیے چھوڑے

وَخَاطَبَهُ يَعْفُورٌ مُبْتَدِيًا لَمْ يَطَأْ أَبَائِي غَيْرَ الْأَنْبِيَاءِ وَلَمَّا قَصُرَ

اور آپ سے کلام کیا یعفور نامی گدھے نے پہل کرتے ہوئے نہ سوار ہوا میرے آباء پر کوئی سوائے انبیاء کے اور جب کوتاہ

دُونَ قَامَتِهِ الْجِدَارِ ارْتَفَعَتْ عَتَبَاتُهُ لَهُ وَأَسَدٌ أَرَوْرَكَبَ الْفَرَسِ

ہوگئی آپ کے قدرے مقابل مکان کی دیوار تو بلند ہوگئی اس کی چوٹیں آپ کے لیے اور مڑ گئیں اور سوار ہوئے کوتاہ گام

الْقَطُوفِ جَهَارًا فَعَادَ بَعْدُ بَحْرًا الْأَيْجَارُ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

گھوڑے پر تو وہ اس کے بعد دریا کی روانی والا ہو گیا جس کی زقار میں ہمسری نہیں کی جاسکتی تھی اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي نَحَسَ بَعِيرًا بِرِ الْقَطُوفِ بِعَصَاهُ فَمَا دَنَاهُ بَعِيرٌ بَعْدَ

جنہوں نے چھڑی سے چوکا دیا جابر کے سمت زقار اونٹ کو تو کوئی اونٹ اس کے قریب نہ ہوا بعد اس کے

ذَلِكَ وَلَا قِصَاةً وَقَالَ لِفَرَسِهِ قِفْ لَا رُكْعَ فَلَمْ تَحْرِكْ حَافِرًا

اور نہ اس سے بڑھا اور فرمایا اپنے گھوڑے کو تو ٹھہرتا کہ میں نماز پڑھ لوں تو اس نے سم نہ ہلایا

وَلَمْ تَرْفَعْ حَتَّى رَمَعَكَ وَلَمَّا رَكِبَ جِمَادُ سَعِيدٍ بَنَ عَبَادَةَ زَالٍ

اور نہ اٹھایا تا آنکہ آپ نماز سے فارغ ہوئے، اور جب سوار ہوئے سعید بن عبادہ کے گدھے پر تو زائل ہو گئی

عَنْهُ قِطَافَةٌ وَمَا عَتَادَةٌ وَصَلَّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اس کی سست زنجاری اور سابقہ عادت - اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو

كَانَ يُوجِّهُهُ يَعْفُورًا إِلَى أَصْحَابِهِ فَيَقْرَعُ الْبَابَ بِرَأْسِهِ وَأَنْيَابِهِ

بھیجتے تھے یعفور کو اپنے صحابہ کی طرف تو کھٹکھٹاتا تھا ان کے دروازے کو اپنے سر اور دانتوں سے

وَإِذَا رَأَى الدَّاجِنُ فِي الْبَيْتِ بَرَكٌ وَإِذَا خَرَجَ لَعَبٌ وَتَحْرِكُ

اور جب دیکھتا آپ کو پالتو جانور گھر میں تو بیٹھ جاتا اور جب آپ تشریف لے جاتے تو کھیلتا اور جنبش کرتا

وَإَخْبَرْتُهُ الشَّاةُ وَهُوَ سَأَلْتُ أَنْهَا أَخَذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِ

اور خبر دی آپ کو بخری نے جب کہ آپ چل رہے تھے کہ اسے حاصل کیا گیا ہے مالک کی اجازت کے بغیر

وَشَكَّى إِلَيْهِ الْبَعِيرُ الْمِصْرُوعَ وَمَتَابِهِ مِنَ الْبُرْدِ وَالْجُوعِ وَصَلَّ

اور شکایت کی آپ کی بارگاہ میں گرے ہوئے اونٹ نے سردی اور بھوک کی - اور رحمت نازل فرما

عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا مَسَّ خَدَّ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ عَادَ

سیدنا محمد پر جنہوں نے ہاتھ پھیرا جابر بن سمرہ کے رخسار پر تو ہو گئی

بِرِيحَةٍ أَجُودَ مِنَ الْمِسْكِ وَأَعْطَرَكَا وَتَقَلَّ فِي عَيْنِ عَلِيٍّ وَ

اس کی مہک کستوری سے بھی پاکیزہ تر اور زیادہ مسطر اور لعاب دہن ڈالا حضرت علی کی آنکھوں میں جو

هِيَ رَمْدٌ فَكَأَنَّهَا لَمْ تَرْمُدْ إِذَا أَبَدًا وَسَلَّتْ عَنْ جُرْحِ عَائِدٍ

کہ بیمار تھی تو گویا وہ کبھی بیمار ہوئی ہی نہ تھی اور پونجھا عائد کے زخم سے خون

بَيِّدَهُ وَلَمَسَ فَعَادَتْ لَهَا عُرَّةٌ كَعُرَّةِ الْفَرَسِ وَتَقَلَّ فِي أَثَرِ

اپنے ہاتھ مبارک سے اور ہاتھ لگایا تو ہو گیا زخمی چہرہ سفید مانند گھوڑے کی سفیدی کے اور لعاب دہن ڈالا



سَهُمْ أَبِي قَتَادَةَ فَمَا أَحْسَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا عَادَلَهُ وَتَقَلَّ

البرقاده کے تیر دالے زخم میں تو انہوں نے کبھی درد محسوس نہ کیا اور نہ لڑھا وہ درد اور لعاب دہن والا

فِي عَيْنِ قُدَيْكٍ وَهِيَ بَيْضَاءُ فَعَادَتْ أَحْسَنَ عَيْنِيهِ وَأَرْضِي

فدیک کی آنکھ میں جبکہ وہ سفید ہو چکی تھی تو وہ ہو گئی دوسری سے بھی حسین اور پسندیدہ۔

وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا شَرِبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بَوْلَهُ

اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جب پیا ابن الزبیر نے ان کا پیشاب

وَاحْتَقَلَ وَجَدَاهُ أَطْيَبَ مِنَ الْمَسْكِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَعْطَى

اور سیر ہو گئے تو پایا اسے کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار اور شہد سے زیادہ شیریں اور عطا کیا

الْعَصَا لِعَكَّاشَةَ الْقَانِعِ فَعَادَتْ فِي يَدِهِ سَيْفًا قَاطِعًا وَمَسَحَ

تفاعت پیشہ عکاشہ کو عصا (میدان بدر میں) تو وہ ان کے ہاتھ میں نیز دھار تلوار بن گیا اور ہاتھ پھیرا

رَأْسَ عَمِيرِ بْنِ سَعْدٍ بِلَا أَرْتِيَابٍ فَمَاتَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً وَ

عمیر بن سعد کے سر پر بلا ریب تو وہ اسی سال کی عمر میں فوت ہوئے اور

مَا شَابَ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرِبَ الصَّرِيرُ بَوْلَهُ

ان کے بال سفید نہ ہوئے۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا پیشاب ایک نابینا نے پیا

وَاعْتَدَا فَلَمْ يَشْكِ الصَّرَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَدًا وَأَنْهَلَ الْمَزْنَ بِدُعَائِهِ

اور اسے غذا بنایا تو نہ شکایت کی اندھے پن کی اس کے بعد کبھی اور برسوں آپ کی دعا سے

وَاعْتَى الْعَفَاةَ بَنُو آلِهِ وَعَطَائِهِ وَخَتَمَ اللَّهُ قَلْبَهُ بِخَاتَمِ مَنْ تَوَّابٍ

اور بے نیاز فرمایا سوالیوں کو اپنے جو دو عطا سے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل زور پر نورانی مہر لگائی

وَضَمَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ إِلَى التُّحُورِ وَالصُّدُورِ وَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ الْغَزَالَةُ

اور لگایا انہیں ملائکہ نے اپنے سینوں اور چھاتیوں سے اور سلام پیش کیا انہیں ہرنی نے

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْحَجْرُ وَسَعَتْ إِلَيْهِ عَلَى سَاقِهَا الشَّجَرُ وَسَجَدَتْ لَهُ

اور سلام پیش کیا پتھر نے اور دوڑے ان کی طرف درخت اپنی جڑوں پر اور سجدہ کیا انہیں

الشَّجَرَةَ بِالشَّامِ وَحَيَاةِ اللَّهِ بِالتَّحِيَّةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

درختوں نے سفر شام کے دوران اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تحیہ سلام دیا۔ اور رحمت نازل فرمائی سیدنا محمد پر

الَّذِي انشَقَّ لَهُ الْقَمَرُ فَلَقْتَيْنِ وَاسْتَسْقَى مِنْ فَضْلِ وَصُورِهِ مَا

جن کے لیے چاند دو ٹکٹ ہو گیا اور سیراب فرمایا اپنے وضو کے پانی سے

يَزِيدُ عَلَى الْفَيْنِ وَأَخْبَرْتَهُ فَرَسُ التُّعْمَانِ الْبُلْقَاءَنَّ مَنْ أَمِنَ بِهِ لَا

دو ہزار سے زائد افراد کو اور عرض کیا آپ سے نعمان کی چٹنی گھوڑی نے کہ آپ پر ایمان لانے والا نہ

يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَدَلَّ الذِّئْبُ عَلَيْهِ الرَّاعِيَ وَحَرَكَهُ الْمَقْدُومُ عَلَيْهِ

گمراہ ہو گا اور نہ بد بخت۔ اور بھیڑیٹے نے چرواہے کو آپ کی طرف رہنمائی کی اور آپ کی خدمت میں آنے پر

مِنْ مَكَّةَ وَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْأَسَدَ بِالسَّلَامِ مَعَ سَفِينَةِ الْهَمَامِ

آبادہ کیا مکہ مکرمہ سے۔ اور بھیجا آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے شیر کو ساتھ سلامتی کے بلند ہمت سفینہ کے ہمراہ

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَهُ أَبُو الْكَلَابِ شَرُّشَرًا وَأَخْبَرَكَ

اور رحمت نازل فرمائی سیدنا محمد پر جن سے کلام کیا کتوں کے باپ شر شر نے اور بتلایا کہ

أَنَّهُ لَيَنْهَشُ فِي النَّاسِ مَنْ سَبَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَكَلَّمَهُ الْمَيْتُ

وہ لوچتا ہے لوگوں میں سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے سب بکنے والوں کو اور کلام کیا آپ کے مرد مرنے

بِلِسَانِهِ وَأُحْيِيَ بَعْدَ مَا أُدْبِرَ جَرِي فِي الْكَفَانِهِ وَكَلَّمَ الْعِظَمَ الرَّمِيمِ

اپنی زبان کے ساتھ اور زندہ کیا گیا بعد پیٹے جانے کے کفن میں۔ اور آپ نے بوسیدہ ہڈی کے ساتھ کلام کیا تو اس نے

فَجَاوَبَهُ بِأُذُنِ اللَّهِ الْعَلِيمِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُوتِيَ

جواب دیا آپ کو اللہ علیم کے اذن سے۔ اور صلوات نازل فرمائی سیدنا محمد پر جن کی بارگاہ میں لایا گیا

بِعَلَامِ آبَائِكُمْ فَكَلَّمَهُ مِنْ حِينِهِ فَتَكَلَّمَ الْأَسَدُ وَالتُّعْبَانُ وَ

گونگا لڑکا اور اس سے کلام فرمایا تو وہ فوراً بولنے لگا اور آپ سے کلام کیا شیر نے اور اژدہا نے اور

رَأَتْهُ خَدِيجَةُ حِينَ قَدِمَ مَعَ الْعَيْدِ وَمَلَكَانَ يُظَلِّلُنِيهِ مِنْ حَرِّ

دیجھا آپ کو حضرت خدیجہ نے جبکہ قافلہ تجارت کے ساتھ لوٹے در آنجا لیکر آپ پر دو فرشتے سایہ کئے ہوئے تھے

الْهَجِيرَةَ وَأَعْطَى لِعَلِيِّ فَصَّا يَنْقُشُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَوَجَدَ بَعْدَ

دوپہر کی گرمی کی وجہ سے اور عطا فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نیکینہ کہ اس میں لا الہ الا اللہ نقش تو پایا

النَّقْشِ فِيهِ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اس میں اس کے بعد محمد رسول اللہ (لکھا ہوا) اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

تَفَلَّ عَلَي سَاقِ ابْنِ حَكِيمٍ يَوْمَ خَنْدَقٍ فَعَادَتْ أَجُودَ مَا كَانَتْ

لعاب دہن ڈالا ابن حکیم کی پنڈلی پر خندق کے دن تو وہ پہلے سے عمدہ ہو گئی اور اس کا

وَأُطْلِقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ قَتَادَةَ بْنِ مَلْحَانَ مَرَّاتٍ فَكَانَ يُنْظَرُ فِي

بندھن ٹوٹ گیا اور ہاتھ پھیرا قتادہ بن ملحان کے چہرے پر کئی بار تو ان کے چہرے میں اشیاء دیکھی

وَجْهَهُ كَالْمِرْآةِ وَنَزَّ وَدَبَعُضَ أَصْحَابِهِ مَاءً حَسَنًا فَزَادَ لَهُمْ نَبْدًا

جاتی تھیں مانند آئینہ کے اور زودراہ میں دیا بعض صحابہ کو اچھا پانی تو اس نے زیادہ کیا ان کے لیے

طَاهِرًا وَوَلَبْنَا وَكَانَ الْعُشْبُ يَثْبُتُ بَيْنَ يَدَيْ نَاقِيَةِ الْعَضْبَاءِ

پاکیزہ مکھن اور دودھ اور گھاس اتنا تھا آپ کی اونٹنی عضباء کے آگے۔ اور وہ

وَمَا تَتْ بِمَوْتِهِ حُزْنًا عَلَيْهِ وَكَرْبًا وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مر گئی آپ کے وصال پر غم و اندوہ سے۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي لَهَا فِدَا غَتِ سَاقِ ابْنِ عَمْرٍ صَاحِ يَامُحَمَّدًا فَابْجُرُ وَكَانَ يَنْفُلُ

کہ جب ٹوٹی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی پنڈلی تو انہوں نے پکارا یا محمد تو وہ جڑ گئی اور آپ لعاب دہن

فِي أَفْوَاهِ الْمَرَاضِعِ فَيَجْزِيهِمْ ذَلِكَ إِلَى الْحُلُولِ فِي الْمَضَاجِعِ وَفَضَّ

ڈالتے شیر خوار بچوں کے منہ میں تو وہ کفایت کرتا انہیں بستروں پر بیٹھنے تک اور چوسا آپ

لِسَانَهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلْنَا فَلَمْ يَشْتَكِيَا عَطْشًا زَمْنَا وَلَمَّا

کی زبان مبارک کو حضرت حسن و حضرت حسین نے علانیہ تو نہ شکایت کی پیاس کی عرصہ تک۔ اور جب

شَكَى إِلَيْهِ أَبُو طَالِبٍ الظَّمَاءَ ضَرَبَ الْأَرْضَ بِعَقْبِهِ فَأَنْفَجَرَ الْمَاءُ

آپ سے شکایت کی جناب ابوطالب نے پیاس کی تو آپ نے ایڑی زمین پر ماری پس پانی پھوٹ نکلا۔

وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي إِذَا امْشَى عَلَى الْقَتَادِ عَادَتْ تَحْتِ

اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو محبوب کانٹوں پر چلتے تو وہ ہو جاتے آپ کے

قَدَمِهِ كَالْفَرَاشِ الْهَادِرِ وَرَأَتْ عَائِشَةُ الْإِبْرَةَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ

قدموں کے نیچے بچھائے ہو بچھونے کی مانند اور دیکھ لی حضرت عائشہ نے سوئی سخت تاریک رات میں

الْبَيْهِيمِ بَنُوهُ وَجْهَهُ الْكَرِيمِ وَنَادَى عَلَى أُمِّ أَبِي أَيُّوبَ وَهِيَ مَكْسُورَةٌ

آپ کے چہرہ نور کے نور میں اور آواز دی آپ نے ام ایوب کو جبکہ اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں

فَقَامَتْ تَسْعَى إِلَيْهِ وَهِيَ مَجْبُورَةٌ وَسَادَّ يَمِينُ مَعْوِذٍ بَعْدَ الْقَطْعِ

تو وہ اٹھی دوڑتی ہوئی طرف آپ کے در آنجا ایک تندرست بھٹی اور اپنی جگہ پر لگا دیا آپ نے حضرت معوذ کا دایاں ہاتھ کٹنے کے

وَسَادَّ سَاقَ ابْنِ الْأَكْوَعِ بَعْدَ الصَّدْعِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

بعد (میدان بدر میں) اور لوٹائی ابن اکوع کی پینڈلی کٹنے کے بعد۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

أَبْرَى بِشِقِّ خَيْبٍ بِالْمَسْحِ وَأَمَّنْ خَائِفَهُ يَوْمَ الْفَتْحِ وَرَفَى وَجُوهَ

درست فرمایا خیب کے پہلو کو ہاتھ پھیر کر اور امان دی آپ سے خوفزدگان کو فتح مکہ کے دن اور قریش کے مونوں

قُرَيْشٍ بِالتُّرَابِ فَانْهَزَمُوا بَعْدَ ضَرْبِ الرَّقَابِ وَرَدَّ اللَّهُ الرَّمْلَ

پر مٹی پھینکی تو وہ شکست کھا گئے بعض کے قتل ہونے کے بعد اور کر دی اللہ نے ریت

تَحْتَ أَقْدَامِ أَصْحَابِهِ صُلْدًا أَبْعَدَ أَنْ كَانَتْ أَرْجُلُهُمْ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ

آپ کے قدموں کے نیچے سخت پتھر کی مانند بعد اس کے کہ قدم اس پر جتے نہیں تھے

وَلَا تَهْتَدِي وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا وَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ

اور نہ راہ چل سکتے تھے۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جو اپنا ہاتھ کھانے پر رکھتے اور

وَكَبَّرَ عَادَ أَكْثَرُ مَا كَانَ وَأَوْفَرَ وَسَكَبَ فَضْلًا وَضُوءِيهِ فِي بَيْرٍ قُبَا

اللہ اکبر کہتے تو وہ پہلے سے زائد اور وافر ہو جاتا اور آپ نے پلٹا اپنے وضو کا پانی تباہ لے کنوئیں میں

فَتَفَجَّرَ مَا نَهَا بَعْدَ التَّرْبَعِ وَمَرَّ بِأَوْحَتْ إِلَيْهِ التُّوقُ وَإِلَيْهِ الْحُدَاةُ

تو جوش کے ساتھ نکلنے لگا اس کا پانی خالی ہو چکنے کے بعد اور بڑھ گیا اور شوق سے ماہل ہوئیں آپ کی طرف اونٹنیاں

تَسُوْقُ وَكَانَ يُسْتَشْفَى بِمَسِّهِ مِنَ السَّقَامِ وَالْأَلَامِ وَكُلُّ دَجَنَةٍ حَلِيهَا

اور آپ کی طرف حدی نبوان چلا تے تھے اور آپ کے ہاتھ لگنے سے شفا حاصل ہوتی بیماریوں اور درووں سے اور جس تاریخ

لَمْ تَطْلَمْ وَكُلُّ دَابَّةٍ رَكِبَهَا لَمْ تَهْرَمْ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي غَسَلَ قَدَائِيهِ

رات میں آپ تشریف فرما ہوتے وہ تاریخ نہ رہتی اور جس سواری پر سوار ہوتے بڑھی نہ ہوتی۔ اور رحمت نازل فرماتا سیدنا محمد پر جنہوں نے قدم دھوئے

بِأَمْلَحِ الْمِيَاهِ فَعَادَ أَعْدَابُ مَا فِي الْأَرْضِ وَأَحْلَاهُ وَكَانَ إِذَا اسْتَحْرَبَ بِمَنْدِيلٍ

انتھائی کھاری پانی کے ساتھ تو وہ زمین کے تمام پانیوں سے بیٹھا اور شیریں ہو گیا اور جب کسی رومال سے

يَدَيْهِ لَمْ تَعُدَّ النَّارُ عَلَيْهِ وَوَقَفَ جَبْرَائِيلُ بِبَابِهِ وَكَانَ الذِّيَابُ لَا يَقَعُ

ہاتھ پر نہ جھٹے تو آگ اس پر تجاوز نہ کرتی اور جبرائیل آپ کے در اقدس پر کھڑے رہتے اور کبھی نہ بیٹھتی تھی

عَلَى بَدَانِهِ وَثِيَابِهِ وَسَمِعَ وَجَنَّةَ الْحَجْرِ حِينَ الْفَتَى فِي السَّفَرِ وَسَمِعَ عَوَاءَ

آپ کے بدن اور کپڑوں پر اور سنا آپ نے پتھر کے گرنے کی آواز کو جبکہ جینا گیا جہنم میں اور سنا کفار کا شور و غل

الْكُفَّارِ وَهُمْ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَ

جبکہ وہ جہنم کے پختے طبقہ میں تھے۔ اور رحمت نازل فرماتا سیدنا محمد پر جنہوں نے سنا

إِلَى يَهُودٍ تَعْدَابُ فِي قُبُورِهَا قَبْلَ يَوْمِ نُشُورِهَا وَسَمِعَ صَاحِبَ الْقَبْرِ

یہود کو عذاب دئے جاتے ہوئے قبروں میں حشر سے قبل اور سنا قبر والے کو

يَقُولُ عَذَابْتُ فِي الْغَيْبَةِ وَالْبَوْلِ وَسَمِعَ حَرَكَةَ بَابِ الْجَنَانِ حِينَ حَرَكَهُ

یہ کہتے کہ میں غیبت اور پیشاب کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہوں اور سنی آواز جنت کے دروازے کی جگہ سے حرکت

الرِّضْوَانِ وَسَمِعَ كَلَامَ النَّارِ وَالْجَنَّةِ تَطْلُبُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مَلَاهَا مِنَ الْإِنْسِ

دی رضوان نے اور سنا دوزخ اور جنت کا کلام جبکہ ہر ایک طلب کر رہی تھی اپنی پیری انسانوں

وَالْجِنِّ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ

اور جنوں کے ساتھ۔ اور رحمت کاملہ نازل فرماتا سیدنا محمد پر کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں ستر ہزار فرشتے

يُحْفُونَ بِقَبْرِهِ وَعَفَرَ اللَّهُ لِمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَلَوْ مَرَّةً فِي عُمُرِهِ وَكَانَ

جو آپ کی قبر انور کا طواف کرتے ہیں اور مغفرت فرمائی آپ پر صلوٰۃ بھیجنے والے کے لیے اگرچہ عمر بھر ایک مرتبہ بھیجے اور آپ

يَسْمَعُ أَذَانَ جِبْرِئِيلَ فِي السَّمَاءِ وَكَانَ يَبْصُرُ خَلْفَهُ وَأَمَامَهُ وَهَمِنْ الْغَزَالَةِ

سننے تھے جبرئیل علیہ السلام کی آذان آسمان سے۔ اور دیکھتے تھے پیچھے اور آگے کیساں اور سامنے ہوئے ہرنی کے لیے

لِرِضَاءِ أَوْلَادِهَا فَوْقَتْ بَعْدَهَا وَمِعَادِهَا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اولاد کو دودھ پلانے کے لیے تو اس نے پورا کیا اپنا عمدہ پیمانہ۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي نَبَعَ الْمَاءَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ وَكَانَ يَسْمَعُ صَرِيرَ الْأَقْلَامِ فِي اللَّوْحِ

جن کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹے اور سننے تھے قلموں کے چلنے کی آواز اپنے کانوں سے لوح

الْمَحْفُوظِ بِمَسَامِعِهِ وَرَدَّ عَيْنَ قَتَادَةَ بَعْدَ الْعَيْ وَالْعَبِي وَأَمَّنْتُ أُسْكُفَةَ الْبَابِ

محفوظ میں۔ اور لوٹائی حضرت قتادہ کی آنکھ بے نور ہونے کے بعد اور امین کسی دروازے کی دہلیز نے

عَلَى دُعَائِهِ وَكَانَ إِذَا رَامَ الْحَدَاثَ أَثْبَتَتْ الشَّجَرُ وَالْحَجَرُ سُرًّا مِّنْ وَرَائِهِ

آپ کی دعا پر اور آپ جب ارادہ فرماتے قضا نے حاجت کا تو درخت اور پتھر پردہ قائم کرتے آپ کے پیچھے سے

وَأَنْجَحُ النَّاسِ إِرْبًا وَكَانَ يَرَى فِي الظُّلْمَةِ كَمَا يَرَى فِي الضِّيَاءِ وَجَاءَهُ

اور آپ کامیاب ترین تھے تمام انسانوں سے از روئے حاجت کے اور آپ دیکھتے تھے تاریکی میں جیسے دن کی روشنی میں اور

جِبْرَائِيلُ بِطَبِقٍ مِّنَ الْجَنَّةِ بِالْعِنَبِ وَالرَّمَّانِ وَكَانَ يَأْكُلُ طَعَامَ الْجَنَّةِ

لائے جبرئیل آپ کے پاس جنت کے طباق میں انگور اور انار اور آپ جنت کا کھانا دُنیا میں کھاتے

فِي الدُّنْيَا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَهُ الزَّرَّاءُ وَأَشْبَعُ الْفَأْمِ مَنْ

تھے۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جن سے کلام کیا (کبریٰ کے بھنے ہوئے) بازو نے اور سیر فرمایا ہزار صحابی کو

صَاعٍ وَكَلَّمَتْهُ النَّاقَةُ الْمُتَوَقَّةُ وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا غَيْرُ مَسْرُوقَةٍ وَكَلَّمَتْهُ

صاع (چار سیر) سے اور کلام کیا آپ سے بندھی ہوئی افضلی نے اور بتلایا کہ وہ چرائی ہوئی نہیں ہے۔ اور کلام کیا آپ سے

الْمَوْودَةُ وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا مَعْقُودَةٌ فِي الْهَوَاءِ وَجَاءَ بِخُبُونِهَا وَلَحْمِ

زندہ درگور کی ہوئی بچی نے اور بتلایا کہ وہ ہوا میں بندھی ہوئی ہے۔ اور بتلایا فرمائی روٹیاں اور بھنا

مَشْوِيٍّ لِأَقْرَبَائِهِ وَحَالَ الصَّفَايِينَةَ وَبَيْنَ أَعْدَائِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ہوا گشت اپنے اقرباء کو اور حامل ہوا کو صفا آپ کے اور دشمنوں کے درمیان۔ اے اللہ صلوات

وَسَلَّمَ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ الْكُفَّارُ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ جن کی خاطر کفار

مُعْشِيًا عَلَيْهِمْ فَمَا أَفَاقُوا حَتَّىٰ قُضِيَتِ الصَّلَاةُ وَرَجَعُوا إِلَىٰ أَهْلِهِ

عشی کی حالت میں گرے رہے اور ہوش میں نہ آئے یہاں تک کہ آپ نے نماز پوری کر لی گئی اور لوٹے اپنے اہل کی طرف

وَضْرَبَ مَقْتُولًا بِقَضِيبٍ فَقَامَ وَأَخْبَرَ عَنْ قَاتِلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور مارا ایک مقتول کو چوبیس سے تڑوہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا قاتل بتلا دیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يَتَدَخَّلُ لَهُ الشَّجَرُ لِضَيْقِ السَّبِيلِ فَيُوسِعُ

فرما سیدنا محمد پر جن کی راہ سے درخت ہٹ جاتے تھے راستہ کی تنگی کی وجہ سے اور راستہ کشادہ

الطَّرِيقِ وَخَرَّتْ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ بِإِشَارَتِهِ الْأَصْنَامُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کر دیتے تھے۔ اور گر پڑے فتح مکہ کے موقع پر بت آپ کے اشارہ کی وجہ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَادَتْهُ ظَبِيَّةٌ فِي سَكَّةٍ

سیدنا محمد و آل محمد پر جنہیں بناء دی ایک بہرنی نے مدینہ کے کوچوں میں سے

مَنْ سَكَتِ الْمَدِينَةَ فَقَالَتْ بِلِسَانٍ فَصِيحٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ایک کوچ میں سے پس کہا فصیح زبان کے ساتھ یا رسول اللہ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بِيَمِينِهِ سَمِعَ أَبُو

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے یمن و بکرت سے سن لی جناب ابو

سُفْيَانَ قِرَاءَةَ الطُّيُورِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سفیان نے پرندوں کی یہ قرأت "لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ"۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَيْنَ الْفَرْسِ حَالَهُ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کا حال بیان کیا گھوڑے نے

لِابْنِ سُفْيَانَ وَرَأَىٰ أَبُو جَهْلٍ عَنْ يَمِينِهِ رَجُلًا وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلًا

ابوسفیان کے سامنے اور دیکھے ابو جہل نے آپ کے دائیں جانب آدمی اور بائیں بھی آدمی

فِي أَيِّدِيهِمُ السَّنَانُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْفَجَرْتُ بِهِ الْعَيْنُ مِنْ حَجْرٍ جَبِيٍّ بِهِ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ

آل اطہار پر جن کے پے چشمہ ابل پڑا اس پتھر سے جو آپ کے پاس لایا گیا اور سلام پیش کیا

الْأَحْجَارِ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پتھروں نے آپ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَحْبَبِي وَالِدِيهِ وَسَلَّمَ الْإِسْحَاقَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر جنہوں نے اپنے والدین کو زندہ فرمایا اور درختوں نے انہیں سلام پیش کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَبْرَأَ رَأْسَ الصَّبِيِّ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے تندرست فرما دیا بیچے کا سر

الَّذِي جَاءَتْ بِهِ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جسے یمامہ کی عورت آپ کی خدمت میں لائی تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَأَلَتْهُ الثَّمَرَاتُ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن سے گزارش کی کہ انہیں

أَنْ يَا كُلَّهَا فِي حَائِطِ ابْنِي أُمَامَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تناول فرمادیں پھلوں نے ابو امامہ کے باغ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَحَوَّلَ بِهِ الْجَدَلُ سَيْفًا فِي يَدِ عَكَاشَةَ

اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت کھجور کی شاخ تلوار بن گئی عکاشہ بن محسن

بْنِ مُحْصِنٍ وَمَا أَمَاتَ بِهِ مَاءُ عَيْنِ الْيَمِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کے ہاتھ میں اور نہ صدم ہوا آپ کی بدولت یمن کے چشمہ کا پانی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَدَّتْ لَهُ الشَّمْسُ بِصَهْبَاءِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے لیے سورج ٹٹایا گیا نصیر کے علاقہ

خَيْرٌ وَقَالَ كُلُّ مَنْ بَايَعَتْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا صَاحِبَ

صبا میں اور فرمایا جنہوں نے بھی درخت کے نیچے بیعت کی ہے وہ تمام جنت میں داخل ہوں گے ماسوائے

الْجَبَلِ الْأَحْمَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

مُزَنَّا أَوْثَقَ وَوَلَّيْنَا لَكَ - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں خیر

أَخْبَرْتَهُ بِالسَّمِّ الدَّرَاعِ وَأَطْعَمَ مِنْ مِدْوَةٍ وَاحِدَةٍ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَهُمْ جِيَاعٌ

دی زہر آلود ہونے کی بھری کے بازو نے اور ایک سیر طعام سے چالیس بھوکے آدمیوں کو طعام کھلا کر سیر فرمایا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَابَدَتْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت ظاہر

بِهِ حَوَافِرُ الْخَيْلِ وَأَخْفَافُ الْإِبِلِ إِذْ ذَهَبَ إِلَى خَيْبَرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ہونے گھوڑوں کے سم اور نہ اونٹوں کے قدم جب تشریف لے گئے خیبر کی طرف - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا وَجَدَ بِهِ الْحَرَّ وَالْبُرْدَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت نہ محسوس کی گرمی اور سردی

عَلَى بَنِي أَبِي طَالِبٍ وَصَارَ بِهِ غَنِيًّا تَعْلِبُهُ بَنُ حَاطِبٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور جن کے طفیل تعلبہ بن حاطب غنی ہو گیا - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ بِخَيْبَرَ لَا عَطِيبِينَ الرَّايَةَ غَدًا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خیبر میں فرمایا کہ میں ضرور بالضرور کل پر پرچم

رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ فتح عطا کرے گا - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي زَالَ مِنْ عَالِيٍّ بِهِ الرَّمْدُ وَأَثْمَرَتْ بِهِ النَّخْلَةُ الْيَابِسَةُ فِي

کی آل پر کہ جن کی بدولت زائل ہو گئی حضرت علی کی آنکھوں والی بیماری اور پھلدار ہو گئی مقداد بن الاسود

بَيْتِ مَقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کی حشک بھور - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ يَرَى الْعَرْشَ الْأَعْظَمَ وَلَا ذِبْهُ جَمَلٌ فِي

آل پر کہ جو آسمان کی طرف دیکھتے تو عرش اعظم تک دیکھتے اور پناہ پکڑی ان کے ساتھ اونٹ نے

سَلَّمَ مَنْ سَكَكَ الْمَدِينَةَ لِلْقَتْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

مدینہ کے کوچہ میں قتل سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَبِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ذَهَبَتْ بِهِ عَقُولُ بَنِي كَلَابٍ وَصَارُوا سُفَهَاءَ وَجَاءَكَ

آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت زائل ہو گئے بنو کلاب کے عقل اور ہو گئے بیوقوف اور جن کی خدمت میں لے

جَبْرَيْلُ بِصُورَةٍ عَائِشَةَ فِي خَرْقَةٍ مِّنْ حَرِيرٍ خَضْرَاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آئے جبریل امین حضرت عائشہ کی صورت کو جو سبز ریشم کے ٹکڑے پر نقش تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَبِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَبِحَ بِهِ فِي التِّجَارَةِ عُرْوَةَ بِنَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت نفع اندوز ہوئے تجارت میں عروہ بن

أَبِي الْجَعْدِ وَصَارَ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ بِهِ سَعْدُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ابی الجعد اور جن کے طفیل سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات ہو گئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَبِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْلَمَ بِفَتْحِ مَوْتَةٍ حِينَ بَعَثَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی فتح موتہ کی جبکہ بھیجا

إِلَيْهَا السَّرِيَّةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَبِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اس کی طرف لشکر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي بَيَّنَّ أَنْ مَوْتَهُ فُتِحَتْ عَلَى يَدِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بَعْدَ مَا أَخَذَ الرَّايَةَ

جنہوں نے غیبی خبر دی کہ موتہ فتح ہوا ہے خالد بن ولید کے ہاتھوں پر بعد ان کے پرچم سنبھالنے کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَبِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَفَى الرَّمَدَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے دور فرمایا آشوب چشم

مِنْ نَزِيدِ بْنِ أَرْقَمٍ وَسَجَدَ لَهُ الْغَنَمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نزید بن ارقم سے اور سجدہ کیا انہیں بھڑوں بکریوں نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرُوِي جُنُودَهُ بِالْمَطْهَرَةِ وَوَجَدَتْ

اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے سیراب فرمایا اپنے لشکروں کو وضو کے برتن سے اور ڈھونڈنی

عَائِشَةَ بِنُورٍ وَجْهَهُ الْإِبْرَةُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

حضرت صدیقہ نے ان کے چہرہ نور سے سوئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا يَبْسُ كَلَاءٌ نَبَتْ بِوَضْوِئِهِ فِي الصَّيْفِ

آپ کی آل اطہار پر کہ نہ خشک ہوا وہ گھاس جو آگاہ آپ کے وضو والے پانی سے گرمی میں

وَالشِّتَاءِ وَسَنَمَّ بِهِ الْحَجَرُ فِي الْمَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور نہ سردی میں اور تیرے پتھر آپ کی بدولت پانی پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَهِدَ بِرِسَالَتِهِ ذَلِكَ الْحَجَرُ وَقَالَ لِعِمْرَانَ

اور آپ کی آل پر کہ جن کی رسالت کی گواہی اس تیرے والے پتھر نے دی۔ اور فرمایا حضرت عمر کو امیر ہے

سَهِيلًا يَقُومُ فِي مَقَامِ يَسْرُكَ يَا عِمْرَانُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کہ سہیل کھڑا ہوگا ایسے مقام میں جو تجھے خوش کرے گا اے عمر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَزَلَ الْمَطْرُ بِدُعَائِهِ عَلَى الْمُنْبَرِ وَأَمْسَكَ بِهِ

اور آپ کی آل پر کہ نازل ہوئی بارش ان کی منبر پر کی گئی دُعا سے اور رک کی بدولت

الْمَطْرَ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَطَرَ عَلَى الْأَكَامِ وَمَتَابِتِ الشَّجَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

بارش مدینہ والوں سے اور برسی ٹیلوں اور جنگلات پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اِمْتَلَأَ بِهِ الظَّرْفُ مِنْ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت پر ہو گیا برتن

الْعَسَلِ وَضَهْنِ لِرَجُلٍ بِسَبْعِينَ حَوْراً وَكَفَلَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

شہد سے اور ضامن و کفیل ہوئے ایک شخص کے لیے ستر حوروں کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَامَ فِي الظَّرْفِ بِه الْعَسَلُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت قائم رہا برتن میں شہد



وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْجَبَلُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور سلام پیش کیا انہیں پہاڑ نے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَلَّ عَلَى نَاقَتِهِ الْمَفْقُودَةَ فِي غُرُوزَةِ الْعُسْرَةِ وَبَيَّنَّ

آل پر جنہوں نے رہنمائی فرمائی اپنی گمشدہ اونٹنی پر غرورہ تبوک میں اور بیان فرمایا

أَنَّ نَاقَتَهُ كَيْفَ تَعَلَّقَتْ بِحِطَامِهَا بِالشَّجَرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کہ کس طرح ان کی اونٹنی کی ہمار درخت کے ساتھ اٹھی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بُورِكَ بِهِ نِصْفُ الْوَسْقِ

سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کی بدولت بابرکت ہو گیا آدھا وسق (تیس صاع)

مِنَ الشَّعِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جوڑوں کا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَصْرَخَ الْحَمْرَةُ لِلْفَرِيخِ فِي السَّفَرِ وَأَغَاثَ لِلْفَرِيخِ طَائِرًا خَرَّ اللَّهُمَّ

کہ جن کے لیے فرحت کا واضح اظہار کیا کبوتری نے دوران سفر اور اندامتیا کی بچوں کیلئے دوسرے پرندے کو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا أَمَاتَهُ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جنہیں نہ مار سکی

السَّمُّ الَّذِي أَكَلَ بِخَيْبَرٍ وَكَلِمَةُ الْمَدَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

وہ زہر جو خیبر میں کھائی تھی اور جن سے کلام کیا ڈھیلوں نے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَجَدَ لَهُ لِذَهَابِ إِلَى قُبَاءٍ بَعِيرٌ وَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہیں سجدہ کیا قباء کی طرف جاتے وقت اونٹ نے اور

أَجْرَتْ نَفْسَهُ فَأَخْرَجَ الدَّلْوُ مِنَ قَعْرِ الْبَيْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اجیر بنایا اپنے آپ کو پس نکالا دلوں کو کنوئیں کی گہرائی سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ضَمَّ يَدَ الرَّجُلِ الَّذِي قَطَعَهَا

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے جوڑ دیا ہاتھ اس شخص کا جس نے اسے کاٹ دیا تھا

لَلطَّيْبِ بِالشَّفْرَةِ وَنَزَلَ بِهِ الْمَطْرُ لِعَطَشِ جَيْشِ الْعُسْرَةِ اللَّهُمَّ

ساتھ چھری کے تھپڑ مارنے کی وجہ سے اور نازل ہوئی بارش ان کے طفیل جیشِ عسرت کی پیاس بجھانے کیلئے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بُورِكَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کی بدولت برکت دی گئی

بِهِ تَمْرُ جَابِرٍ لِأَدَاءِ دَيْنِ أَبِيهِ وَبُورِكَ بِهِ تَمْرُ جَابِرٍ لِأَدَاءِ الْمُسْلِمِ

حضرت جابر کی بھجوروں میں اپنے باپ کا قرض ادا کرتے وقت اور برکت دی گئی آپ کے طفیل جابر کی بھجوروں میں بیع

فِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

مسلم میں ادائیگی بدل کیلئے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کی بدولت

خَرَجَ بِهِ مِنْ جَوْفِ الصَّبِيِّ الْمَجْنُونِ مِثْلُ الْجُرِّ وَالْأَسْوَدِ لَيْسَعِي وَظَهَرَ

نکلا مجنون بچے کے پیٹ سے کتے کے سیاہ پلے کی مانند جانور دوڑتا ہوا اور ظاہر ہوا

بِيَمِينِهِ مَلِكٌ عَلَي صُورَةِ أَبِي مُوسَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ کی برکت سے فرشتہ ابو موسیٰ کی صورت پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ سَتَكُونُ بَتَبُوكَ عَيْنٌ تَرَوِي جَمِيعَ

اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا کہ عنقریب تبوک میں ایک چشمہ ہوگا جو سیراب کرے گا تمام

الْبَسَاتِينَ وَالْعِمَارَاتِ وَقَالَ لِأَبِي جَهْلٍ إِنَّ فِي يَدِكَ سِتَّ حَصِيَّاتٍ

بانگات اور آبادیوں کو اور فرمایا ابو جہل کو کہ تیرے ہاتھ میں چھ کتکریاں ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَرَأَ


اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت پڑھا

الْحَصَىٰ فِي يَدِ أَبِي جَهْلٍ بِهِ الشَّهَادَتَيْنِ وَهَزَمَ الْعَدَىٰ بِقَبْضَةِ

کتکریوں نے ابو جہل کے ہاتھ میں کلمہ شہادت اور شکست دی دشمنوں کو مٹھی بھر

مِّنَ التُّرَابِ يَوْمَ حُنَيْنٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

مٹی کے ساتھ حنین کے دن۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ



اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اِذَا اَخْبِرَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بِاَتْيَانِ هَوَازِنَ

کی آل پر جنہوں نے فرمایا جبکہ آپ کو خبر دی گئی قبیلہ ہوازن کے اپنے ساتھ

بَطْعَنِمُ وَنَعِيمُ تِلْكَ غَنِيْمَةُ الْمُسْلِمِيْنَ غَدًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

مخزتوں اور جانوروں کے لانے کی کہ وہ سبھی غنیمت کا مال ہیں اہل اسلام کے لیے کل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرمائیے

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِاَزْوَاجِهِ اَسْرِعْ كُنْ لِحَوْقِ ابْنِي

محمد و آل محمد پر جنہوں نے فرمایا ازواج مطہرات کو غم سے بہت جلد میرے ساتھ لاتی ہو جو ابلی وہ ہے

اَطْوَلْ كُنْ يَدًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَل سَيِّدِنَا

جو سب لمبے ہاتھوں والی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرمائیے سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَتْ كَلَامَهُ شَهْبَاءٌ فَالْصَقْتُ بِطَنِّهَا بِالْاَرْضِ يَوْمَ حُنَيْنٍ

پر کہ جن کا کلام سنا آپ کے چرخے تو اپنے پیٹ کو زمین کے ساتھ چٹا دیا حنین کے دن

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرمائیے سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا

لِبُرَيْدَةَ اِنَّكَ تَمُوتُ بِالْمَرُوِّ الَّذِي بَنَاهُ ذُو الْقَرْنَيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

حضرت بریدہ کو تو فوت ہو گا اس سفید پتھر کے چبوترے پر جس کو ذوالقرنین نے تعمیر کرایا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وُلِدَ بِهٖ

و سلام نازل فرمائیے سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت پیدا ہوئے

سَبْعَةُ اَوْلَادٍ دَفَعَةً لِشَاةٍ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي تَمِيْمٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سات بچے اچانک بنو تمیم کے ایک شخص کی بکری کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اَسْنَدَ اِلَى حَجْرٍ فَانْحَرَقَ

فرمائیے سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے ارٹ لگائی ایک پتھر کے ساتھ تو وہ پھٹ

مِقْدَارَ ظَهْرِهِ الْكَرِيْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَل

گیا آپ کی پشت مبارک کی مقدار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرمائیے سیدنا محمد پر اور آپ کی



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَزَلَ الْمَطْرُ إِذَا دَعَا لَوْ فِدَا بَنِي قَزَارَةَ وَتَوْضَائِهِ

کی آل پر کہ جن کی بدولت نازل ہوئی بارش جبکہ دعا فرمائی بنو قزارہ کے وفد کے لیے اور وضو کیا

ثَمَانُونَ رَجُلًا مِّنْ مَّخْضَبٍ صَغِيرٍ مِّنْ حِجَارَةِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ

آپ کی برکت سے اسی افراد نے پتھر کی چھوٹی سی لگن لے لی اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اجْتَمَعَ مِنْ أَجْلِهِ شَجَرَةٌ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی وجہ سے جمع ہو گئے سبز لکڑی کے

الْبَقْلِ فِي الصَّحْرَاءِ وَبُورِكَتْ بِهِ هِنْدُ زَوْجَةُ أَبِي سُفْيَانَ فِي الشِّتَاءِ

پودے صحرائں اور برکت دی گئی ان کے طفیل ابوسفیان کی زوجہ ہندہ سردی کے بارے میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے

قَالَ لِوَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ إِنَّ أَبَا سَالِمٍ مُّوَلَّى شَيْبَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

غیبی خیر کے طور پر فرمایا اپنے ایک صحابی کو کہ اس کا باپ سالمہ سے شیبہ کا آزاد کردہ غلام۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَارَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی برکت سے عبد الرحمن

بْنُ عَوْفٍ ذَا الْقَنَا طَيْرٌ وَسَبَّحَتْ فِي كِفِّهِ الْحَصَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بن عوف ہو گئے ڈھیروں دراہم و ذناتیر کے مالک اور تسبیح کہی آپ کی تھیلی میں کنکریوں نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَجَدَتْ لَهُ الْأَشْجَارُ وَالْأَجْحَارُ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہیں سجدہ کیا درختوں اور پتھروں نے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَتْهُ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کی خدمت میں حاضر ہوئیں

أَفْوَاجُ الْمَلَائِكَةِ لِتَعْلَمَ أَحْكَامَ الدِّينِ وَتَسْمَعَ فِي النَّوْمِ كَلَامَ النَّاسِ اللَّهُمَّ

ملائکہ کی جماعتیں احکام دین سیکھنے کے لیے اور حالت نیند میں لوگوں کا کلام۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بُرِّقَ بِهِ مُلْكُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کی بدولت کھڑے کھڑے ہو گیا

بُرْوِيزُ وَقَالَ لِحَبِيْبِي سَمَوْتُ بِأَرْضِ فُلَاةٍ يَكْفِنُكَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَكَفَّنَهُ

برويز کا ملک اور فرمایا ایک جن کو کہ تو عنقریب فوت ہوگا چیل زمین میں، تجھے کفن دے گا نیک مرد

عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

تو اسے عمر بن عبدالعزیز نے کفن دیا۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي نَفَى الْبَرَصَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ وَبَرِيٍّ لِرَجُلٍ بِهِ

پر جنہوں نے دور فرمائی برص کی بیماری معاذ بن عفراء سے۔ اور درست ہو گئی آپ کی برکت سے ایک شخص کی

اَلْاِسْتِسْقَاءُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مرض استسقاء۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي خَرَصَ تَمْرَ الْبُسْتَانِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَكَانَتْ نَاقَتُهُ

پر جنہوں نے تخمینہ لگایا باغ کے پھلوں کا غزوۃ تبوک میں (اور اتنے ہی ہوئے) اور تھی آپ کی اونٹنی

لِدُخُوْلِهِ الْمَدِيْنَةَ مَا مَوْرَةٌ بِالْبُرُوكِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مدینہ منورہ میں داخل ہونے پر مامور ساتھ بیٹھ جانے کے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اَبْرَأَ اَلْمُحَمَّدِيْنَ حَاطِبِ ذِرَاعِهِ الْحَرِيْقِ بِرَيْقِهِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے درست فرمادی محمد بن حاطب کی ہلی ہوئی کلائی لعاب دہن سے

وَمَا طَارَ طَائِرٌ مِّنْ فَوْقِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور نہ اڑتے ہوئے کڑا کبھی پرندہ آپ کے اوپر سے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَ لِلْاَكْلِ عِنْدَكَ تَسْبِيْحَ الطَّعَامِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پر جنہوں نے سنی کھانے کے وقت اپنے ہاں طعام کی تسبیح۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بُوْرِكَ بِهِ طَعَامٌ اُرْسِلَ اِلَى وَفْدِ بَهْرَاءَ

محمد و آل محمد پر جن کے طفیل بابرکت ہو گیا وہ طعام جو بھیجا تھا وفد بہراء کی طرف

فِي بَيْتِ مَقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

حضرت مقداد بن اسود کے گھر میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَهْلِ بَيْتِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرَادَى أَهْلَ الصُّقَّةِ بِكَاسٍ مِّنَ اللَّبَنِ اللَّهُمَّ

آپ کی آل پر جس محبوب نے سیر فرما دیا اہل صفحہ کو دودھ کے ایک پیالے سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بُورِكَ بِهِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے طفیل بابرکت ہو گئے

كَسْرَاتُ الْخَيْزْرِ فِي جِرَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ حَتَّى أَكَلَ مِنْهُ خَمْسًا مِائَةَ رَجُلٍ

روٹی کے ٹکڑے ابو ہریرہ کی زنبیل میں یہاں تک کہ کھایا اس سے پانچ سو آدمی نے

وَلَمْ يَنْقُصْ شَيْءٌ مِّنَ الْجِرَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور نہ کم ہوئی کوئی شئی اس زنبیل سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سُجِّرَتْ لَهُ الرِّيحُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے لیے مسخر کر دی گئی آندھی خندق کے دن

حَتَّى أَخَذَ هَابِئِينَ إِصْبَعِيهِ وَخَفَضَ لَهُ الْجَبَلُ رَأْسَهُ حَتَّى صَعِدَا

حتی کہ پھڑا اسے اپنی دو انگلیوں کے درمیان اور پست کر دیا آپ کے لیے پہاڑ نے اپنے سر کو حتی کہ آپ اس پر

عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِنَا مُحَمَّدٍ

چڑھ گئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي هَزَمَ الْأَحْزَابَ لَهُ الرِّيحُ وَالْأَجْحَارُ وَبَكَى عِنْدَهُ الدُّجُورُ

کہ جن کی بدولت عساکر کفار کو شکست دی آندھی اور پختروں نے اور رویا ان کے پاس بھوک کی وجہ سے

جَمَلٌ فَتَى مِّنَ الْأَنْصَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ

الصارى جو ان کا اونٹ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ضَرَبَ الْكُدْيَةَ فَصَارَتْ كَثِيبًا أَهِيلَ وَقَالَ عَسَى

آپ کی آل پر جس آفتانے گیلیتی سے چٹان کو ضرب لگائی تو وہ بہتی ریت کی مانند ہو گئی اور فرمایا حضرت

أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا الْمَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

معاذ بن جبل کو امید ہے کہ تو مجھ سے ملاقات نہیں کر سکے گا اس سال کے بعد۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَعَ الْبُرُوقُ بِضَرْبِهِ الْحَجَرُ

سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کے پتھر پر ضرب لگانے سے بجلیاں چمکیں اور نہ پانی آپ کی

وَمَا وَجَدَ بِهِ الْبَرْدُ حَذِيفَةَ بْنِ الْيَمَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بدولت (شدید سردی کے باوجود) حذیفہ بن یمان نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَصَفَ الْكَسْرِيُّ الْأَبْيَضُ لِكَسْرِي

اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب نے کیفیت بیان فرمائی کسری کے قصرا بیض کی خندق

يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَمَا آذَاهُ الْقُمَّلُ وَالْبُرْعُوثُ وَالْبُقُّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

کے دن اور نہ تکلیف دی انہیں کبھی جوؤں اور کیڑے اور چھرنے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَطَّ مِنْ أَجْلِهِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کے طفیل کیر کھینی

لِلْخَنْدَقِ بِالْأَصْبَعِ جَبْرِيْلُ وَتَفَى السَّلْعَةُ مِنْ يَدِ شَرْحِبِيلِ اللَّهُمَّ

خندق کے لیے جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی کے ساتھ اور دور فرما دیا شرحبیل کے ہاتھ سے غدود کو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَسَّعَتْ بِهِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کے طفیل وسیع کر دیا گیا

حَجْرَةُ جَابِرٍ وَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ السَّبَاعُ حِينَ ذَهَبَ مَعَ أَصْحَابِهِ إِلَىٰ بَنِي

حضرت جابر کا حجرہ اور سلام پیش کیا انہیں دزدوں نے جبکہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے بنی عامر

عَامِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جس محبوب نے

أَحْيَى الْكَبْشَ فِي بَيْتِ جَابِرٍ وَزَادَ بِهِ قَبْضَةً مِّنَ التَّمْرِ لِمَرْأَةٍ

مینڈھے کو زندہ فرمایا حضرت جابر کے گھر میں اور جن کی برکت سے بڑھ گئیں ایک عورت

حَتَّىٰ أَعْطَىٰ جَمِيعَ أَهْلِ الْخَنْدَقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

کی مٹھی بھر کھجوریں حتیٰ کہ آپ نے عطا فرمائیں تمام اہل خندق کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ فِي شَانِهِ هَيْلُ يَا أَهْلَ مَكَّةَ

محمد و آل محمد پر جن کی شان میں ہیل بت نے کہا۔ اے اہل مکہ

إِنَّ مُحَمَّدًا نَبِيٌّ صَادِقٌ يَدْعُوكُمْ مِنَ الْبَاطِلِ إِلَى الْحَقِّ اللَّهُمَّ

بیشک محمد سچے نبی ہیں جو تمہیں بلا تے ہیں باطل سے حق کی طرف۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَرَادَ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کی بدولت زیادہ ہو

بِهِ اللَّحْمُ وَالْعَجِينُ وَأَضَاءُ بِهِ وَجْهَ تَرْيَدُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ أُمَّ

گیا گوشت اور آٹا اور روشن ہو گیا آپ کی بدولت بنت ام سلمہ ام المؤمنین کی بیٹی زینب

الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

کا چہرہ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے

أَحَبِّي ابْنِي جَابِرٌ وَمَا سَقَطَ بِهِ أَسْنَانٌ نَابِغَةَ الشَّاعِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

حضرت جابر کے دونوں بیٹوں کو زندہ فرمایا اور نہ گریں آپ کی برکت سے نابغہ شاعر کے دانت۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مُطِرَ فِي غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کی بدولت غزوة احزاب میں لشکر

بِهِ السُّكْرُ وَنَزَلَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ بِدُعَائِهِ الْبَطْرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

برسی اور برسی حدیبیہ کے دن آپ کی دعا سے بارش۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حُبِسَتْ لَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے لیے روکی گئی خندق کے دن لڑائی اور

بِيضَاءُ وَقَامَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ بِسَهْمِهِ الْمَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

تلوار اور اُبلنے لگا حدیبیہ کے دن آپ کا تیر کنوئیں میں پھینکنے سے پانی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ حِينَ أُجْلِيَ عَنْهُ الْأَحْزَابُ أَلَا نَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا جس وقت دور کئے گئے آپ سے کفار کے شراب

نَعَزُوهُمْ وَلَا يَغْرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہم ان کے خلاف حملہ آور ہوں گے اور وہ حملہ آور نہیں ہوں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي فَارَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ الْمَاءُ كَأَمْتَالِ

پر کہ اُبلنے لگا آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی حدیبیہ کے دن مانند ریاخ

الْعَيُونِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

چشموں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي قَالَ لِعَلِيٍّ إِذَا كَتَبَ سَفْرَ الصُّلْحِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ إِنَّ فِثْلَ هَذِهِ

جنہوں نے فرمایا حضرت علی کو جبکہ انہوں نے لکھا صلح کا معاہدہ حدیبیہ کے دن کہ بے شک اس واقعہ

الْوَاقِعَةِ سَيُدْرِكُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کی مانند تجھے بھی پیش آئے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِوَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ انْطَلِقْ إِلَى بَنِي سُلَيْمٍ

آل پر جنہوں نے فرمایا اپنے ایک صحابی کو تو جا بنو سلیم کی طرف پہلی

فَأَوَّلُ جَارِيَةٍ تَسْتَقْبِلُكَ فِيهَا زَوْجَتُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

نوجوان لڑکی جو تجھے ملے گی تو وہ تیری بیوی ہوگی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَسْلَمَ بِدُعَايِهِ عُمَرُ بْنُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی دُعا سے حضرت عمر بن الخطاب

الْخَطَّابُ وَكَانَ يَبْعَثُ يَعْفُورًا إِلَى أَصْحَابِهِ فَيَقْرَأُ بِرَأْسِهِ عَلَيْهِمْ

مشرف باسلام ہوئے اور آپ بھیجتے تھے یعفور کو اپنے صحابہ کی طرف تو وہ اپنے سر سے ان کے دروازے

الْبَابَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کھٹکتا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي سَمِنَ بِهِ الْعَنَمُ وَامْتَلَأَتْ ثَدْيَاهَا مِنَ الدِّبْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ

جن کی برکت سے فریب ہو گئیں بھیڑیں اور بھر گئے ان کے تھن دو دھ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي زَالَ بِهِ مِنْ مَّازِنِ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کی بدولت نازل ہو گئی مازن سے

شُرْبِ الْخَمْرِ وَارْتِكَابِ الْفَوَاحِشِ وَرِزْقِ الْوَالِدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

شراب خوری اور بد اعمالی اور اسے لڑکا عطا کیا گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مَنْ تَشَفَّعَ إِلَيْهِ الضُّبِّيُّ بِأَفْصَحِ كَلَامٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ كَلِمَةُ الضُّبِّيِّ

اس ذات پر کہ شفاعت طلب کی ان سے ہرن نے فصیح کلام کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما اس ذات پر جن نے کلام کیا

فِي مَجْلِسِهِ مَعَ أَصْحَابِهِ الْأَعْلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ شَكَى إِلَيْهِ الْبُعَيْرُ

سو سمار نے آپ کی مجلس میں مع صحابہ کرام کی موجودگی میں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما ان پر جن کی بارگاہ میں اونٹ نے شکایت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ تَفَجَّرَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ الْمَاءُ التَّمِيرُ اللَّهُمَّ

کی۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما ان پر جن کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹا صاف ستھرا پانی۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى مَنْ أَنْشَقَ لَهُ الْقَمَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَلِمَتْ عَلَيْهِ الْأَجَادُ

صلوٰۃ نازل فرما ان پر جن کے لیے چاند شق ہوا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما ان پر جنہیں پتھروں نے سلام پیش کیا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَجَدَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ الْأَشْجَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما ان پر جن کے آگے درختوں نے سجدہ کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما ان پر

تَفَتَّقَتْ مِنْ نُورِهِ الْأَزْهَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ طَابَتْ بِدُرُكَيْهِ الثَّمَارُ

جن کے نور سے کلیاں چمکیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما ان پر جن کی برکت سے پھل پاکیزہ ہو گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ أَحْضَرَتْ مِنْ يَقِيَّتِهِ وَضُورِهِ الْأَشْجَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما ان پر کہ سرسبز و شاداب ہو گئے ان کے وضو کے نیچے پانی سے درخت۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَىٰ مَنْ كَانَ إِذَا مَشَىٰ فِي الدَّبْرِ إِلَّا اقْفَرَتْ تَعَلَّقَتْ الْوُحُوشُ بِأَذْيَالِهِ اللَّهُمَّ

نازل فرما ان پر جو خشک و بیابان میں چلتے تو جنگلی جانور ان کے داموں سے چمٹ جاتے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمْتَهُ نَاقَةَ الْعَصْبَاءِ وَنَصَرَ بَرِيحَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جن سے کلام کیا ان کی اڑتی عصباء نے اور جو مدد دئے گئے باد صبا

الصَّبَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا رَمِيَتْ كُلُّتُمْ فِي نَحْرِهَا

سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جب چوٹ لگی کشتوم کو سینہ میں اور

بَصِقَ عَلَيْهِ فَبَرَأَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمَى اللَّهُ

آپنے اس پر لعاب دہن ڈالا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کی اُمت کو اللہ نے

أُمَّتَهُ أُمَّةً مَّرْحُومَةً وَكَلَّمْتَهُ الشَّاةُ الْمَسُومَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

اُمت مہرورہ کا لقب دیا اور کلام کیا ان سے زہر آلود بکری نے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ الْوُحُوشُ تَبْدَأُ نَاقَتَهُ بِالْكَلَامِ تُخْبِرُهَا أَنَّهُ مَالُهُ عَلَيْهِ

سیدنا محمد پر کہ جنگلی جانور پہل کرتے تھے کلام کرنے میں آپ کی اڑتی کے ساتھ، اسے بتلاتے تھے کہ وہ آپ کی سواری ہوگی

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَزْكَى السَّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

ان پر افضل درود اور پاکیزہ تر سلام ہو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن پر

ظَلَّتْهُ الْغَمَامُ يَوْمَ قَتِحٍ مَكَّةَ تَلْتَمِسُ مِنْهُ الْأَمَانَ وَالْبُرْكَهَ اللَّهُمَّ صَلِّ

بادلوں نے سایہ کیا فتح مکہ کے دن در آنجا لیکر طلب کرتے تھے آپ سے امان اور برکت۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَتَّ لَهُ الْبَعِيرُ أَشْوَاقَهُ وَكَانَ يُعْطَى عَطَاءً

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کے سامنے اونٹ نے اپنے نوق و شوق کا اظہار کیا اور آپ عطا فرماتے تھے

مَنْ لَا يَخْشَى فَاقَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اس شخص کی مانند جسے فاقہ کا اندیشہ نہ ہو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن سے

اسْتَأْذَنْتَهُ الشَّجَرَةُ أَنْ تَمِيلَ نَحْوَهُ وَتَسْتَرْكَهَ وَشَهِدَ بِتَصْدِيقِهِ تَمْرٌ

اجازت طلب کی درخت نے آپ کی طرف مائل ہونے اور آپ کو چھپانے کی اور گواہی دی آپ کی صداقت کی زاہد راہ

الزَّادِ وَسَوِيقُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا اسْتَقْبَلَهُ حَجْرٌ

کی کھجوروں اور سوتوں نے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جنہیں پیش نہ آیا کوئی پتھر

وَلَا مَدْرُورًا شَجْرًا إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور ڈھیلا اور درخت مگر سلام پیش کیا آپ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِخُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ إِنَّ هَاتِفَكَ أَوْ قِي بِمَا وَعَدَا

محمد پر جنہوں نے فرمایا خرم بن فاتک کے لیے کہ تیرے ہاتف نے اپنے عمد و پیمان کو پورا کر دیا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے

قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ أَخْرَجَ مِنْ مَقْصَرٍ إِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ فِي مَوْضِعٍ لَبِنَةٍ

فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کہ نکل جانا مصر سے جب دو شخصوں کو جھگڑاتے ہوئے دیکھا کچی اینٹوں والی

يَخْتَصِمَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جگہ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي بَيْنَ الذُّبِّ شَانَهُ لِمُحْرَمَةَ وَأَبِي سُفْيَانَ وَالْقَتِّ الرِّيحِ

پر جن کی شان بیان کی بھیڑیے نے محرمہ اور ابوسفیان کے سامنے اور پہنچائی ہوائے

صَوْتُهُ يَوْمَ أَحَدٍ فِي أَذَانِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آپ کی آواز غزوہ احد کے دن مہاجرین اور انصار کے کانوں تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَوَّأَكَ بِهِ الْجَوْزُ فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ

سیدنا محمد و آل محمد پر جن کے طفیل برکت دی گئی روٹھوں میں ابو طلحہ انصاری کے

الْأَنْصَارِيِّ وَقَالَ إِنَّ مَنْ جَاءَ أَبُو ذَرٍّ الْغَفَّارِيُّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

گھر اور فرمایا کہ بیشک جو آ رہا ہے وہ ابو ذر غفاری ہی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَارَ بِهِ جَمَلُ رِفَاعَةَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت تیز رفتار ہو گیا رفاہ کا اونٹ اور

وَأَبْرَأَ الْكَلْبُومَ بِنْتِ الْحَصِينِ نَحْرَهَا الْجَرِيحُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

درست فرما دیا کلبوم بنت حصین کا زخمی سینہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ لَا يَتَحَرَّكُ الطَّائِرُ

محمد و آل محمد پر کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو حرکت نہ کرتا جنگلی

الْوَحْتِيُّ وَلَا يَصِيحُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

پرندہ اور نہ چیختا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَشَابَهُ الشِّفَا لِلْعَجْوَةِ وَقَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ

کی آل پر جن کی بدولت شفا پیدا ہو گئی عجمہ کھجور میں اور فرمایا غزوہ تبوک کے موقعہ پر

نَصِلُ الْمَاءَ وَقَتِ الصُّحُورَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

آہم پہنچیں گے پانی پر رکل اجاشت کے وقت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَثُرَ بِهِ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ مَاءُ الْعَيْنِ

آپ کی آل اطہار پر جن کی بدولت بہت زیادہ ہو گیا اس غزوہ میں چشمہ کا پانی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی خدمت میں

جَاءَ كَاجِبْرَائِيلَ بِتَفَاحَةٍ فَجَعَلَهَا اللَّهُ نِصْفَيْنِ فَوَقَعَ النِّصْفُ عَلَىٰ لُوحِ

لائے جبریل امین ایک سیب تو اللہ تعالیٰ نے اسے دو حصوں میں بانٹ دیا ایک حصہ گرا حضرت حسن

الْحُسَيْنِ وَالْآخِرُ عَلَىٰ لُوحِ الْحُسَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

کی تختی پر اور دوسرا حضرت حسین کی تختی پر رضی اللہ عنہما۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَوَضَّأَ بِيَمِينِهِ أَرْبَعَةَ عَشْرَ مِائَةً

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی برکت سے وضو کیا چودہ سو آدمی نے وضو کے

مِنْ إِذَا وَفَّ فِيهَا قَطْرَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

بتن سے جس میں ایک قطرہ پانی تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَرَكَ عَلَىٰ أَبِي قَتَادَةَ فَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ

آل محمد پر جنہوں نے دعائے برکت دی ابو قتادہ کو تو وہ ستر سال کی عمر میں فوت ہوئے

سَنَةً فَكَانَتْ إِبْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ أَلْفَهُمْ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

مگر معلوم پندرہ سال کے ہوتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا أَمَاتَهُ شَقُّ الصَّدْرِ وَ

محمدؐ پر اور آل محمدؐ پر کہ جن پر موت طاری نہ ہوئی شق صدر سے اور

أَسْلَمَتْ بِدُعَائِهِ أُمَّ أَبِي بَكْرٍ أَلْفَهُمْ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مشرف با سلام ہوگئی آپ کی دعا سے حضرت ابوبکر کی والدہ ماجدہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا نَسِيَ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ

اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت نہ بھولے عثمان بن ابی العاص

بِهِ الْقُرْآنَ وَرُدَّ بِهِ بَصْرُ الْأَعْمَى حِينَ قَرَأَ بِأَمْرِهِ الدُّعَاءَ أَلْفَهُمْ

قرآن کو اور لوٹا بی گھٹی آپ کی برکت سے نابینا صحابی کی بینائی جبکہ اس نے آپ کے حکم سے دعا پڑھی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا زَالَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ ہمیشہ کے لیے

حَنَشُ بْنُ عَقِيلٍ يَجِدُ بِسُورَةِ الشُّبُعِ وَالرَّوَاءِ أَلْفَهُمْ صَلِّ وَسَلِّمْ

پاتا رہا حنش بن عقیل آپ کے بچے ہوئے کھانے کے استعمال کی بدولت سیری اور سیرانی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرَىٰ أَصْحَابَهُ بِيَدِي

فرما سیدنا محمدؐ و آل محمدؐ پر جنہوں نے دکھلا میں اپنے صحابہ کرام کو بدر کے میدان

مَصَارِعَ الْكُفَّارِ وَأَمَّنْ دُعَائِهِ أُسْكِفَةُ الْبَابِ وَالْجِدَارِ أَلْفَهُمْ

میں کفار کی ہلاکت گاہیں اور آمین کہی آپ کی دعا پر دروازے کی دہلیز اور دیواروں نے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هَزَمَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے شکست دی

الْأَعْدَاءَ بِيَدِي بِالْحَصَىٰ وَكَانَ إِذَا اجْلَسَ تَكُونُ كِتْفُهُ مِنْ كِتْفِ

اعداؤ کو میدان بدر میں کنگڑوں کے ساتھ اور جب آپ محفل میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کے کندھے

الْجَلِيسِ اَعْلَى اللّٰهِمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

ہمنشیتوں کے کندھوں سے بلند و بالا ہوتے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِیْ اُشْبِعَ بِهٖ الْجِیَاعُ وَرَكِبَ بِهٖ الْحَفَاةَ وَكَسٰى بِهٖ الْعُرَاةَ

پر جن کے طفیل بھوکے سیر ہوئے اور پیدل سوار ہوئے اور برہنہ تن لباس پوش بنے۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے لیے

حَبِسَتْ لَهٗ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الظُّهْرِ حِيْنَ نَادَاہُ الْاَعْرَابِیُّ لِلصَّلٰوةِ

روک دیا گیا سورج نماز ظہر کے وقت میں جب کہ ندادی انہیں اعرابی نے نماز

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

کے لیے تین مرتبہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِیْ ضَمَّ اَیْدِی الْمَقْطُوْعَةِ لِمَعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ بِرِیْقِہٖ وَ

پر جنہوں نے جوڑ دیا معاذ بن عفراء کا کٹ ہوا ہاتھ لعاب دہن سے اور

اَظْلَمَتْ الْحَمَامُ یَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مِنْ فَوْقِہٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

سایہ نمن ہوئے کبوتر فتح مکہ کے دن آپ کے اوپر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ ضَمَّ بِہٖ یَدَ حَبِیْبِ بْنِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے طفیل جڑ گیا ہاتھ حبیب بن یسار

یَسَافٍ بَعْدَ اِلْتِقَاطِہٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

کاٹ جانے کے بعد۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ حَمَلَ بِہٖ رَجُلًا مَّا حَمَلُہُ السِّفِیْنَةُ وَكَانَ لَا یَسْتَطِیْعُ

کی آل پر جن کے طفیل اٹھایا گیا ایک صحابی نے اتنا بوجھ جسے کشتی اٹھاتی ہے حالانکہ پہلے نہیں طاقت رکھتا تھا ایک

حَمَلَ صَاعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

صاع اجناسیر کے اٹھانے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار



مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ هَذَا ضَرْبُهُ سَوْطٌ جِبْرَائِيلُ اخذ برأس

پر جنہوں نے فرمایا بدر کے دن یہ جبرائیل کے چابک کی ضرب ہے وہ اپنے گھوڑے کے سروے بال

فَرَسِهِ وَعَلَيْهِ إِدَاةُ الْحَرْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

پکڑے ہوئے ہیں اور ان پر آلات جنگ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَتَتْهُ عَنزُجَيْنَ عَطَشَ جَيْشِهِ فَخَلَبَهُمَا دَرُوي

آپ کی آل پر کہ جن کی خدمت میں حاضر ہوئیں بچریاں جیکہ آپ کا لشکر پیاسا تھا تو آپ نے انہیں دوھ کر لشکر کو

الْجَيْشِ فَغَابَتْ بَعْدَ الْحَلْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سیراب فرما دیا تو وہ دوبہے جانے کے بعد غائب ہو گئیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَ بَيْنَهُ أَنْصَارِيٌّ يَوْمَ بَدْرٍ ضَرْبَةَ

اور آپ کی آل پر کہ جن کے بین و برکت سے سن لی ایک انصاری نے بدر کے دن چابک کی ضرب

السَّوْطِ وَصَوْتِ فَارِسٍ يَقُولُ أَقْدَمُ حَيْرُومُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور شاہ سوار کی آواز جو کہتا ہے آگے بڑھ اے حیروم (جبرائیل امین کے گھوڑے کا نام)۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَ أَصْوَاتِ أَفْرَاسِ الْمَلَائِكَةِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کی بدولت سنی ملائکہ کے گھوڑوں کی آوازیں کفار و

مِنْ أَجْلِهِ الْأَعْدَاءُ وَكَلِمَةُ الْجَبَلَانِ تُبَيِّرُ وَحَرَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اعداء نے اور کلام کیا ان سے کوہ ثبیر اور کوہ حراء نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى أَعْدَاءَ الْمَلَائِكَةِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے اعداء نے دیکھا ملائکہ کو جنگوں

فِي الْحُرُوبِ رَاكِبِينَ عَلَى الْأَفْرَاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

میں گھوڑوں پر سواری کی حالت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَجَدَتْ بِهِ السَّمَنُ فِي عَكَّةِ أُمَّ مَالِكٍ وَقَالَ

اور آپ کی آل پر جن کی برکت سے پالیا گھی ام مالک نے ڈبیر میں اور فرمایا

لِعَجْوِ زِيَانِ ابْنِكَ مُعَذِّبٍ فِي الْقَبْرِ مَنْ أَجَلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ایک بڑھیا کو تیرا بیٹا عذاب دیا جائے گا قبر میں تیری وجہ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَلَّمَ عَلَيْهِ الْمَدَارُ وَنَشَهْدُ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر بن کو سلام پیش کیا ڈھیلوں نے اور گواہی دی

لَيْلَةَ الْجَنِّ بِرِسَالَتِهِ الشَّجَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جنوں کو تبلیغ فرمانے والی رات میں آپ کی رسالت کی درختوں نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَلَّمَتِ الْأَرْضُ عَلَيْهِ وَأَذْنَتُهُ الشَّجَرَةُ

اور آل محمد پر جن کی خدمت میں زمین نے سلام پیش کیا اور اطلاع دی آپ کو درخت نے

بِمَجِيئِ الْجِنِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جنوں کی آمد کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا شَكَّ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْحَكَامِ وَقَالَ لِاشْجَارٍ مُتَفَرِّقَةٍ

محمد پر جن کی بدولت نہ شرک و تزدود ہوا حضرت علیؑ کو احکام میں اور فرمایا متفرق درختوں کو میرے لیے

أَسْرُوْنِي فَاَجْتَمَعَتْ لَهُ كَالْقُبَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پر وہ بن جاؤ تو وہ قبہ کی مانند جمع ہو گئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَدَأَ بِهِ الْقَحْطُ فِي مُضَرَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْوَبْرُ

اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی حقانیت رسالت کے اطہار کے لیے شروع ہوا قحط قبیلہ مضر میں اور سلام پیش

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي زَالَ

کیا آپ کو جنگلی بے نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے طفیل زائل ہو گیا

بِهِ الْقَحْطُ مِنْ مُضَرَ وَحَدَّثَ بِأَيِّمَانِ الْمُنَافِقِينَ قَبْلَ الْحَلْفِ وَأَخْبَرَ

قحط قبیلہ مضر سے اور بیان فرما دیا منافقین کی قسموں کو قسمیں اٹھانے سے قبل اور خبر دی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ آنحضرتؐ

يَبْرِقُ الْبَصْرُ مِنْ نُورِ خَاتِمِ النَّبُوَّةِ بَيْنَ كَتْفَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ہو جاتی تھی آپ کے مہر نبت کے نور سے جو آپ کے دو کندھوں کے درمیان تھی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرمائیے

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْجَى أَبَادُجَانَةَ مَنْ عَامِرِ الدَّارِ وَلَا ذِبْهَ

محمد پر اور آل محمد پر جنہوں نے نجات دی ابو دجانہ کو گھر میں رہنے والے جن سے اور یہاں حاصل کی

لِلْقَتْلِ جَمَلٌ جَمِعَ مِنَ الْأَنْصَارِ بِسْمِ اللَّهِ بِاسْمِهِ الْمُبْتَدَى رَبِّ الْأَخْرَةِ وَ

قتل سے ان کے ساتھ انصار کی جماعت کے اونٹ نے۔ اللہ کے نام کی برکت سے۔ اسی کے نام سے جو عمل آغاز ہے وہ مالک ہے

الْأُولَى الَّذِي لَا غَايَةَ لَهُ وَلَا مُنْتَهَى لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى

آخرت اور دنیا کا اس کے لیے غایت اور انتہاء نہیں ہے۔ اسی کا ہے جو بلند آسمانوں میں ہے، رحمان غالب آیا

الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَاتَحْتَ

عرش پر، اسی کے ملک میں ہے ہر شئی آسمانوں کی اور زمینوں کی اور جو ان کے درمیان ہے اور جو زمین کی تہ سے

الثَّرَى وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ط لَهُ

نیچے ہے۔ اور اگر اونچی بات کرو (یا نہ) تو یقیناً وہ جانتا ہے پوشیدہ اور مخفی کو۔ اللہ کہ معبود برحق صرف وہی ہے اسی

الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى اللَّهُ عَظِيمُ الْعُظْمَاءِ دَائِمُ النِّعْمَاءِ قَاهِرُ الْأَعْدَاءِ الرَّحْمَنُ

کے لیے ہیں پاکیزہ نام، اللہ عظیم تمام عظمت والوں سے عظیم ہے۔ دائمی نعمتوں والا۔ دشمنوں پر غالب۔ مخلوق

الْعَاطِفُ عَلَى خَلْقِهِ بِرِزْقِهِ الْمَعْرُوفُ بِلُطْفِهِ الْعَادِلُ فِي حُكْمِهِ

پر غایت رحمت و عنایت والا ہے ساتھ رزق رسانی کے۔ معروف ہے لطف و کرم کے ساتھ عادل ہے حکم میں

الْعَالِمُ فِي مُلْكِهِ رَحِيمًا بِخَلْقِهِ رَحِيمُ الرَّحْمَاءِ عَلَيْهِمُ الْعُلَمَاءُ بِصِيرِهِ

عالم ہے ملک میں موجود ہر شئی کا۔ مخلوق پر رحیم ہے سب رحمت والوں سے زیادہ۔ علیم ہے سب اہل علم سے زیادہ سب اہل

الْبَصْرَاءِ غَفُورُ الْغَفْرَاءِ بَاعَثَ الْأَنْبِيَاءَ صَاحِبِ الْأَوْلِيَاءِ سُبْحَانَهُ

بصیرت سے زیادہ بصیر ہے۔ سب اہل مغفرت سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ انبیاء کو بھیجنے والا اولیاء کا ساتھی۔ پاک ہے

قَادِرٌ عَلَى مَنْ يَشَاءُ قَدِيرٌ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَمِيدِ ذِي الْعَرْشِ

قدرت والا جو چاہے اس پر کامل مفلس والا ہے۔ پاک ہے شہنشاہ بزرگ جو عظیم عرش کا



الْمَجِيدِ فَعَالَ لِمَا يَرِيدُ يَا رَبَّ الْأَرْبَابِ وَيَا مَلِكَ الرِّقَابِ وَ

مالک ہے موجود کر لینے والا ہے اپنی مراد کو۔ اے رب الارباب، اے رب الارباب، اے مخلوق کی نواتوں کے مالک

يَا مُفْتِحَ الْأَبْوَابِ وَيَا مُسَبِّبَ الْأَسْبَابِ هَيْيْ لَنَا سَبِيلاً لَا نَسْتَطِيعُ لَهُ

اے دروازے کھولنے والے۔ اے اسباب بنانے والے متیا فرما ہمارے لیے وہ سبب کہ نہیں طاقت رکھتے اس کی

طَلَباً اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مَشْغُولِينَ بِأَمْرِكَ أَمِنِينَ بِعَدْلِكَ إِيْسِينَ مِنْ

طلب کی۔ اے اللہ ہمیں مشغول فرما اپنے احکام میں۔ امن والا بنا اپنے عدل سے۔ مایوس بنا دے

خَلْقِكَ الْإِيْسِينَ بِكَ مُسْتَوْحِشِينَ عَنْ غَيْرِكَ رَاضِينَ بِقَضَائِكَ

اپنی مخلوق سے تیرے ساتھ انس حاصل کرنے والے، وحشت محسوس کرنے والے تیرے ماسوا سے۔ راضی تیری قضا پر

صَابِرِينَ عَلَى بَلَائِكَ قَانِعِينَ لِعَطَائِكَ شَاكِرِينَ لِنِعْمَائِكَ مُتَلَذِّذِينَ

صابر تیری آزمائش پر۔ قناعت کرنے والے تیری عطا پر۔ شکر گزار تیری نعمتوں کے۔ لذت اندوز ہونے والے

بِذِكْرِكَ فَرِحِينَ بِكِتَابِكَ مُنَاجِينَ بِكَ فِي أَنْعَاءِ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ

تیرے ذکر کے۔ فرحت و مسرت والے تیری کتاب کے ساتھ۔ تیرے ساتھ مناجات کرتے رات کی ہر آن میں اور دن کے اطراف

مُبِغْضِينَ لِلدُّنْيَا وَمُحِبِّينَ لِلْآخِرَةِ مُشْتَاقِينَ إِلَى لِقَائِكَ مُتَوَجِّهِينَ إِلَى

میں بغض رکھنے والے دنیا سے اور محبت رکھنے والے آخرت سے تیری ملاقات کے مشتاق، تیری بارگاہ کی طرف

جَنَابِكَ مُسْتَعِدِّينَ لِلْمَوْتِ رَبَّنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رِسْلِكَ وَلَا نَحْزَنُكَ

متوجہ و راغب، موت کے لیے تیاری کرنے والے اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما جس کا وعدہ فرمایا اپنے رسولوں کی زبان پر اور ہمیں

يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ يَا مُفْتِحَ الْأَبْوَابِ وَيَا مُسَبِّبَ الْأَسْبَابِ

رسوا نہ فرمانا قیامت کے دن۔ بیشک تو وعدہ کا خلاف نہیں کرتا۔ اے دروازے کھولنے والے۔ اسباب جوڑنے والے

وَيَا مُقَدِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ وَيَا دَلِيلَ الْمُتَحَدِّثِينَ وَيَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ

دلوں اور نظروں میں تبدیلی لانے والے۔ اے حیرت زدگان کو راہ دکھلانے والے۔ اے فریادگیوں کے فریاد رس

وَيَا مُفَرِّجَ الْحَزُونِينَ أَعْثِنِي تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ يَا رَبِّي قَضَيْتُ وَفَوَضْتُ

اے غم زدگان کے غم دور کرنے والے میری امداد فرما۔ میں نے تجھی پر بھروسہ کیا اے میرے رب اور میں نے فیصلہ کیا اور سونپا



أَمْرِي إِلَيْكَ يَا رَازِقُ يَا فَتَّاحُ اللَّهُمَّ أَرِنَا حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ تَوْفِنَا

اپنے امور کو تیری طرف سے رازق سے مشکل کشا۔ اے اللہ ہمیں دکھلا دے اشیاء کے حقائق جیسے کہ وہ ہیں۔ ہمیں وفات

مُسْلِمِينَ وَالْحَقْنَ بِالصَّالِحِينَ ۞ وَادْفَعْ عَنَّا شَرَّ الظَّالِمِينَ وَشَارِكُنَا

دینا حالت اسلام پر اور لائق کرنا صالحین کے ساتھ۔ اور دور فرما ہم سے ظالموں کا شر اور ہمیں شریک فرما

فِي دُعَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَنَبِّهْنَا عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ وَارْزُقْنَا شِفَاعَةَ

اہل ایمان کی دعاؤں میں اور ہمیں بیدار فرما اہل غفلت کی نیند سے اور ہمیں نصیب فرما سید المرسلین

سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَادْخُلْنَا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ أَمِينِينَ وَأَحْشُرْنَا مَعَ الْمُتَّقِينَ

کی شفاعت اور داخل فرما ہمیں جنت میں سلامتی کے ساتھ حالت امن میں اور ہمارا حشر فرماتا متقین کے ساتھ

وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيدُ اللَّهُمَّ إِنْ تَرَحَّمْتَنِي فَأَنْتَ أَهْلٌ وَإِنْ

اور ہمیں خلاصی دے آگ سے اے پناہ دینے والے۔ اے اللہ اگر مجھ پر رحم فرمائے تو تو اس کا اہل ہے۔ اور اگر

تُعَذِّبْنِي فَأَنَا أَهْلٌ فَأَرْحَمْنِي يَا أَهْلَ التَّقْوَى وَيَا أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ

مجھے عذاب دے تو میں اس کے لائق ہوں پس مجھ پر رحم فرما اے تقویٰ اور اے مغفرت کی شان والے۔

اللَّهُمَّ يَا رَبِّ افْعَلْ بِي وَبِهِمْ عَاجِلًا وَاجْلًا فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا وَ

اے اللہ، اے میرے رب کرنا ساتھ میرے اور ان کے جلدی میں اور تاخیر سے دین میں اور دنیا اور

الْآخِرَةِ مَا أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلَانَا مَا حَنَّ لَهُ أَهْلُ إِنَّكَ

آخرت میں جس کا تو اہل ہے اور نہ کرنا ساتھ ہمارے اے مولیٰ جس کے ہم حقدار ہیں۔ اے شک تو

عَفُوٌّ غَفُورٌ حَلِيمٌ جَوَادٌ قَدِيمٌ كَرِيمٌ فَلَكَ بَرٌّ وَوَفٌّ رَحِيمٌ اللَّهُمَّ اهْدِنِي

درگزر والا۔ بہت مغفرت والا۔ بردباری والا۔ صاحب جو دو کم۔ بے ابتداء، صاحب کرم، شہنشاہ، محسن، مہربان، رحم والا ہے اے اللہ مجھے

بِرَأْفَتِكَ يَا نَافِعٌ وَيَا رَافِعٌ تَوْفِنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنَ بِالصَّالِحِينَ يَا

ہدایت دے اپنی عنایت سے۔ اے نافع۔ اے ہندی بخشے والے مجھے وفات دینا حالت اسلام میں اور لائق فرماتا صالحین کے ساتھ اے

أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۞

ارحم الراحمین۔ اے سب اہل مغفرت سے بڑھ کر ساتھ اپنی رحمت کے۔ اے سب زیادہ رحمت والے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا حضرت

لِجَابِرٍ إِذْ هَبَّ مَعَ هَذَا الْجَمَلِ فَهُوَ يَدُلُّكَ عَلَى صَاحِبِهِ وَأَخْرَجَ رَجُلٌ قَبْرَ

جابر رضی اللہ عنہ کو اس اونٹ کے ساتھ جاؤ وہ تمہاری رہبری کرے گا اپنے مالک کی طرف اور نکالا گیا ایک شخص

كُلِّ أَرْضٍ بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

ہر زمین سے آپ کی وجہ سے یعنی قبر سے باہر بھیج دیا جاتا۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کی

مَا أَصَابَ بِهِ الْقَحْطُ بَنِي الْبَكَاءِ وَنَادَتْهُ طَبِيبَةٌ إِصْطَادَهَا عَرَابِيٌّ يَا رَسُولَ

بدولت قحط نہ پہنچا بنی البکاء کو اور پکارا آپ کو ہرنی نے جسے اعرابی نے شکار کیا تھا جھگل سے

اللَّهُ فِي الصَّحْرَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

یا رسول اللہ۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي فِيهِ ضَمِنَ الْغَزَالَ لِارْتِضَاعِ حَشْفِيهَا فَوَفَّتْ بِالْوَعْدِ وَالْمِيعَادِ وَصَارَ بِهِ

جو کہ ضامن ہوئے ہرنی کے لیے دو بچوں کو دودھ پلانے کیلئے تو اس نے اپنے عہد و پیمانہ کو پورا کیا اور بن گئیں آپ کی

الْغُصُونُ سَهَامًا فِي الْجِهَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

بدولت شاخیں تیر جہاد کے موقع پر۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَهِدَ بِرِسَالَتِهِ الْأَوْثَانَ الَّتِي جَاءَ بِهَا أَهْلُ الْيَمِينِ

کی آل پر جن کی رسالت کی گواہی دی ان بتوں نے جنہیں اہل یمن لائے تھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُرْسِلَ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے بھیجا

الرَّادِ إِلَى وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّسِيَّانِ وَجَاءَ إِلَيْهِ جَنِّيٌّ فِي صُورَةِ التُّعْبَانِ

سفر خرچ اہل نسیان میں سے ایک کی طرف اور حاضر ہوا ایک جن آپ کی خدمت میں آڑھا کی صورت میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي انْجَسَ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کی بدولت اُبُلُتے لگا



مَنْ الْحَجْرِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بِهَذَا الْمَاءِ الْكَثِيرِ وَفَاحَتْ بِرِيْقِهِ الْبَيْرُ اللَّهُمَّ

پہمقر سے غزوة تبوک میں بہت پانی اور مک اٹھا آپ کے لعاب دہن سے کنواں ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لَتُقَسَمَنَّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا کہ ہر حال میں تقسیم کئے

فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُنُوزَ قَيْصَرَ وَابْنِ عَنَنْ وَقَوْعِ نَارِ الْحِجَارِ وَأَخْبِرَ اللَّهُمَّ صَلِّ

جائیں گے قیصر و روم کے خزانہ راہ خداوند تعالیٰ میں۔ اور خبر دی آپ نے حجاز مقدس میں وقوع پذیر آگ کے متعلق۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا نَقَصَ بِهِ تَمْرٌ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت نہ کم ہوئیں بھجوریں

بُسْتَانَ ابْنِ أُسَيْدٍ بَعْدَ الْاِنْتِقَاصِ وَبَقِيَ بِهَذَا الرَّعْشُ وَالْعَوْجُ لِحَكْمِ بْنِ اَبِي

البر اسید کے باغ کی بعد کمی واقع ہو چکنے کے۔ اور آپ کی وجہ سے باقی رہا رعشہ اور کجی حکم بن ابی

الْعَاصِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

العاص میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو کہ

كَانَ اِذَا ارَادَ رُكُوبَ دَابَّةٍ تَبْرُكٌ وَتَهَيَّا لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

سواری پر سوار ہونے کا ارادہ فرماتے تو وہ بیٹھ جاتی اور تیار ہوتی ان کے لیے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اَصْلُهُ الْيَابِسَةُ لِلْجَارِيَةِ وَمَا شِعْرُ

محمد و آل محمد پر جنہوں نے درست فرما دیا لونڈی کا خشک ہاتھ اور نہ سیر ہوئے آپ کے فرمان کی وجہ

بِهٖ مُعَاوِيَةُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سے امیر معاویہ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي جَاءَهُ جَابِرُ بْنُ اَبِي رَجِيْلٍ بِاَرْبَعِ تَفَاحَاتٍ هَدِيَّةً لِّلْخَلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ اللَّهُمَّ

جن کی خدمت میں جبرئیل امین چار سیب لائے خلفاء راشدین کے لیے ہدیہ کے طور پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بُرِكَتْ ثَلَاثُ بِيضَاتِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی وجہ سے بابرکت ہو گئے تین انٹے

بِئْمَانِهِ وَكَانَ يُكَلِّمُهُ كُلُّ طَائِفٍ فَيَجِيبُهُ بِلسَانِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور آپ سے ہر پرندہ کلام کرتا تھا پس اسے جواب دیتے تھے اس کی زبان میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَضَرَتْ بِهِ الْجَنَّةُ الْمَكَلَّةُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت حاضر کیا گیا بڑا پیالہ جو موتیوں سے مرصع تھا

بِالْجَوَاهِرِ الْمَمْلُوءَةِ مِنَ الثَّرِيدِ لِفَاطِمَةَ الزُّهْرَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور بھرا ہوا تھا ثرید سے واسطے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَقَامَ عِنْدَهُ الْمَرِيضُ أَبَا طَالِبٍ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے اپنے مریض پیچھے ابوطالب صاحب کو کھڑا کر دیا

بِالدُّعَاءِ وَذَهَبَ بِكِتَابِهِ جَبْرِيلُ إِلَىٰ جَعْفَرِ الطَّيَّارِ بِالْحَبَشَةِ وَجَاءَهُ بِالْجَوَابِ

اپنی دعا سے اور لے گئے آپ کے خط کو جبرئیل امین جعفر طیار کی طرف حبشہ میں اور جواب لائے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَشْبَعَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے سیر فرمایا اپنے

جَيْشَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بِبَضْعِ عَشْرَةِ تَمْرَةٍ وَأَشْبَعَهُ الْجَيْشُ كُلَّهُمْ بِتَمْرٍ مَزُودٍ

تشر کو غزوۂ تبوک میں پندرہ سولہ کھجوروں سے اور سیر فرمایا تمام لشکر کو ابوہریرہ کے توشہ دان

أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

کی کھجوروں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کی بدولت

قَامَ بِهِ التَّمْرُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَزُودِ وَأَمْرَسَ رِقَاقَةَ عَلَىٰ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّ

دبر پا ہو گئیں کھجوری ابوہریرہ کے توشہ دان میں اور حکم دیا اونٹنی چورانے والے کو جس نے حلف اٹھائی کہ اس نے

لَمْ يَسْرِ قَهَا بِالرِّدِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اسے نہیں چرایا اسے لوٹا دینے کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي دَسَّرَ لِلشَّاةِ اللَّبَنِ لِمَقْدَادِ الْأَسُودِ وَدَعَا عَلَىٰ رَجُلٍ قَطَعَ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ

جن کی برکت سے انزا بگری کا دودھ مقداد بن الاسود کے لیے اور دعا فرمائی اس شخص کے خلاف جس نے آپ کی نماز قطع کر لی

فَمَا قَامَ حَتَّى مَاتَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پس وہ تادمِ مرگ نہ اٹھ سکا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي نَبِعَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ الْمَاءُ فِي الزُّورَاءِ وَحَلَبَ ظَبِيَّةَ فَأَرَوَى

پہرچن کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے آبِ مقامِ زوراء میں اور ہرنی کا دودھ نکال کر سیراب فرمایا۔

ثَلَاثَ مِائَةِ رَجُلٍ مِّنَ الرَّفَقَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

تین سو رفقاء سفر کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام فرما سیدنا محمد و

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَبَشْرٍ قَاتِلِ

آل محمد پر جنہوں نے فرمایا عبد اللہ بن عمرو کو کہ بشارت دینا عمار بن یاسر کے

عَمَّارٍ بِالسَّعِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

قاتلِ کوائشِ دوزخ کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَرَأَ الْحَجْرَ الَّذِي حَمَلَ مَعَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ

پر کہ پڑھا اس پتھر نے جبریلۃ الجن میں ساتھ اٹھا رکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

اللَّهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ حِينَ رَجَعَ وَأَبْرَاءُ سَاقِ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ اللَّهُمَّ

جبکہ واپس ہوئے اور درست فرمائی سلمہ بن رکوع کی پتھل۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَتَبَ مِنْ غَيْرِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے حکم سے قلم نے لکھا

كَاتِبٍ بِأَمْرِهِ الْقَلَمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

بغیر کاتب کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَأَلَهُ حَجْرٌ أَنْ يُدْعُو لَهُ أَنْ لَا يَجْعَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَجْحَارِ جَهَنَّمَ

پر کہ جن سے درخواست کی پتھر نے کہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پتھروں سے نہ بنائے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَلَعَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے جوتا

التَّلَّةَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَتَرَادَفِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَضَّلَ أَزْوَادَ الْغَزَاةِ اللَّهُمَّ

آتا رہا نماز کے دوران اور بڑھا دیا غزوہ تبوک میں غازیوں کا بچا بچھا زاد راہ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي زَادَ بِهِ مَاءٌ بِئْرِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کی بدولت بڑھ گیا نبی محمد کے نبی

بَنِي سَعْدٍ وَمَا نَقَصَ بِهِ الْمَاءُ مِنَ الْمَزَادَاتَيْنِ بِالرَّاقَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

کا پانی اور نہ کم ہوا آپ کی برکت سے بڑھیا کی دو بڑھی مشکوں کا پانی ان سے پلٹنے کے باوجود۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَتْهُ صَخْرَةٌ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن سے کلام کیا بیت المقدس

بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَخْضَرَّتْ حَبِيبِيهِ الْكَلَاءُ الْيَابِسُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کے پتھر نے اور سرسبز ہو گیا آپ کی جبین اقدس کے میچے خشک گھاس۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَرَحَهُ كَلْدَةٌ فَأَعْلَبَتْ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہیں کلدہ نے زخمی کیا پس بہرنے

الطَّبِيَّةُ بِذَلِكَ حَمْرَةٌ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ وَأَثْمَرَتْ بِهِ لِحْمَةٌ أَشْجَارِ الصَّحْرَاءِ

اس کی اطلاع دی حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ کو اور پھلدار ہو گئے آپ کی برکت سے حضرت حمزہ کیلئے صحرا کے درخت

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي طَارَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جب تک بدولت اڑ کر پہنچے

بِهِ التَّمْرُ لِفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَعَذِبَ لِبَيْرِ أَرِيْسٍ بِهِ الْمَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

چھو بار سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے پاس اور شیریں ہو گیا بیئر اریس کا پانی آپ کی برکت سے۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي انْفَلَقَ بِهِ الْبَحْرُ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے طفیل پھٹ گیا سمندر

لِجَعْفَرِ الطَّيَّارِ وَرُقَّقَايَهُ حَتَّىٰ ظَهَرَ لَهُمْ طَرِيقٌ يَابِسٌ فِي أَثْنَاءِ الْبَحْرِ

حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے لیے حتیٰ کہ نمودار ہو گیا ان کے لیے خشک راستہ سمندر کے درمیان

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی شان میں

الْعَجَلُ فِي شَأْنِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَصَلَّى الْجَنَازَةَ عَلَى النَّجَاشِيِّ يَوْمَ

بچھڑے نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کلام کیا۔ اور نماز جنازہ پڑھی نجاشی پر جس دن

مَاتَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اس کا انتقال ہوا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی

سَمِعَ عُمَرُ خَبْرَهُ مِنَ الصَّنَمِ وَسَمِعَ عُمَرُ نَبَأَهُ مِنَ الْغَنَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

خبر حضرت عمر نے بت کی زبانی صنم اور ان کی خبر حضرت عمر نے بھیڑوں کی زبانی سنی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رُبِّقَ بِهِ الشَّهَادَةُ نَعْمَانُ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت نعمان بن مقرن کو

بْنُ مُقَرِّنٍ وَكَلَّمَهُ فِي بَيْتِهِ الدَّاجِنُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

شہادت کی سعادت ملی اور کلام کیا ان سے پالتو بچری نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَجَدَ بَنُو مِرَّةِ الْإِبْرَةِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ وَ

اور آپ کی آل اطہار پر کہ ڈھونڈ لی جن کے نور انوار کے سبب سلمان فارسی نے گمشدہ سوئی اور

جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ السَّلْمَةُ إِلَيْهِ وَشَهِدَتْ بِرِسَالَتِهِ لَطَلَبِ الْأَعْرَابِيِّ

آپ کے بلانے پر کیکر کا درخت حاضر خدمت ہوا اور رسالت کی گواہی دی ایک اعرابی کے مطالبہ پر۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کی خدمت

جَاءَتْ إِلَيْهِ شَجَرَةُ لَطَلَبِ الْأَعْرَابِيِّ أَخْرَفَتْ قَبْلَ يَدَيْهِ وَرَجَلَيْهِ اللَّهُمَّ

میں حاضر ہوا درخت دوسرے اعرابی کے مطالبہ پر تو اس نے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت نہ

أَحْتَرَقَ مِنْدِيلُهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَ أُنَيْسٍ وَمَا وَقَعَ بِهِ جَرِيرٌ عَنْ

جلد ان کا رومال جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور نہ گریے آپ کے طفیل حضرت جریر اپنے

الْفَرَسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

گھوڑے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي أُتِيَ بِصَبِيٍّ قَدْ شَبَّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ قَطُّ فَقَالَ لَهُ مَنْ

کہ جن کی خدمت میں لایا گیا ایک بچا جو بلوغت کے قریب تھا اور ابھی کلام نہیں کی تھی تو آپ نے فرمایا میں

هَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کون ہوں تو اس نے کہا اللہ کے رسول۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَكُنْ عَلَى حَالٍ يُمَازِئُهُ أَحَدٌ يُنْسَبُ إِلَى

آپ کی آل پر جو تھے اس شان کے مالک کہ جو بھی دراز قامت شخص آپ کے ساتھ مل کر چلتا

الطُّولِ إِلَّا عُلَاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

تو آپ اس سے بلند و بالا معلوم ہوتے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِعَلِيِّ إِنَّكَ لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَصِيرَ أَمِيرًا

کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ تم ہرگز فوت نہیں ہو گے یہاں تک کہ امیر المؤمنین بنو گے

وَرَأَى فَوْقَ رَأْسِهِ أَبُو جَهْلٍ تُعْبَانًا كَبِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور دیکھا ابو جہل نے آپ کے سر اقدس پر بہت بڑا اثر دیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخَذَ رَأْيَتَهُ يَوْمَ أَحَدٍ مَلِكٌ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کا پرچم پکڑا احمد کے دن ایک فرشتے نے

عَلَى صُورَةِ مِصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جو کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی صورت پر تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَبَأَ بِأَنَّ الرَّبِّيْرَ يَنْدِمُ مِنْ حَرْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي

آپ کی آل پر جنہوں نے بتلایا کہ حضرت زبیر نام ہوں گے حضرت علی بن ابی طالب کی رضی اللہ عنہ کے خلاف

طَالِبٍ وَأَطْعَمَ مِنَ الزَّرَادَةِ ثَمَانِ مِائَةِ رَاكِبٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

جنگ سے اور کھلایا آپ نے توشہ دان سے آٹھ سو سواروں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمْتَهُ النَّاقَةَ فِي صَاحِبِهَا

سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن سے کلام کیا اونٹنی نے اپنے مالک کے بارے میں

فَقَالَتْ إِنَّهُ مَا سَرَقْتَنِي وَلَا مَلَكَتَنِي أَحَدٌ سِوَاهُ وَرَفَعَ مِنْ أَجْلِهِ أَبُو جَهْلٍ

پس اس نے کہا کہ اس نے مجھے نہیں چرایا اور نہ کوئی مالک ہوا میرا اس کے سوا اور اٹھایا ابو جہل نے ان پر

حَجْرًا فَيَسْتُيَدِّئُهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

پتھر تو آپ کی وجہ سے اس کے ہاتھ خشک ہو گئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَبْرَأَ ابْنِي جَهْلٍ يَدِيهِ الْيَابِسَتَيْنِ وَجَاءَ جَبْرِئِيلُ بِتُفَاحَةٍ

پر جنہوں نے ابو جہل لعین کے دونوں خشک ہاتھ درست فرمائے اور لائے جبریل امین ایک سیب

لِتَصَارِعَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی کشمکش کے موقع پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرَىٰ الصَّحَابَةَ فِي يَدِهِ تُرَابَ مَضْجَعِ

آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے صحابہ کرام کو دکھلانی اپنے ہاتھ میں مٹی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی

الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ الرِّضْوَانُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

شہادت والی جگہ کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِدَوْسٍ وَثَقِيفٍ فَجَاءَ وَامْعَتْرَفَيْنِ لَهُ

آل محمد پر جنہوں نے دُعا فرمائی قبیلہ دوس اور ثقیف کے لیے تو وہ حاضر خدمت ہوئے آپ کے لیے ایمان

بِأَلْيَمَانٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تصدیق کا اعتراف کرتے ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي أَعْطَىٰ أُمَّ سَلْمَةَ تُرَابًا مِّنْ مَّقْتَلِ الْحُسَيْنِ وَقَالَ إِنَّ هَذَا

جنہوں نے عطا کی حضرت اُم سلمہ کو مقتل حسین کی مٹی اور فرمایا جب یہ مٹی

التُّرَابَ إِذَا صَارَ دَمًا فَأَعْلَيْهِ أَنْتَ قَدْ قُتِلَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

نحون بن جائے تو یقین کرنا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اسے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا امْتَنَى عَلَى الرَّمْلِ

سیدنا محمد و آل محمد پر جو محبوب ریت پر چلتے تو وہ

كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ حَائِلٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آپ کے اور دشمنوں کے درمیان حائل ہو جاتی۔ اسے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ تَخْرُجُ لِلْجِهَادِ وَتَمُوتُ بِالْحُسْبَى لِيَذِي

آپ کی آل پر جنہوں نے فرمایا ذوالجہادین کو کہ توجہاد کے لیے نکلے گا اور تپ کے عارضہ میں

الْبَجَادِ بْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وفات پائے گا۔ اسے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي إِذْ لَقْتُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْبَدَنَاتِ وَقَتَّ التَّحْرِيَّ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

کہ بھیڑ کرنے لگے قربانی کے تمام اونٹ تریبان کے وقت ان کے پاس۔ اسے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَ صَوْتَ مَلِكٍ فِي

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے سنی فرشتے کی آواز بادل میں سے

السَّحَابِ يَقُولُ اسْتَقِ حَدِيْقَةَ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کہ سیراب کر فلال بن فلال کے باغ کو۔ اسے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَفَعَهُ لَهُ الْكَعْبَةُ عِنْدَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کے سامنے کر دیا گیا کعبہ شریف

بِنَاءِ مَسْجِدِهِ وَرَأَى أَبُو جَهْلٍ بَعِيْرًا فَوْقَ رَأْسِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

مسجد مدینہ کی تعمیر کے وقت۔ اور دیکھا ابو جہل البرجہل نے اونٹ کو (معاظت کرتے) آپ کے سر پر۔ اسے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَضَعَ كَفَّهُ عَلَى

سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے رکھی اپنی ہتھیلی عمیرہ

كَيْدِ عَمِيرَةَ بَدَتْ سَهْلُ الْأَنْصَارِيِّ فَمَا زَلَّتْ تَجِدُ عَلِيَّ كَيْدَهَا بَرْدٌ يَدِيهِ

بنت سہل انصاری کے جگر پر تو وہ ہمیشہ اپنے جگر پر آپ کے دست اقدس کی ٹھنڈک محسوس کرتی رہی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ضَمَّ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے جوڑ دیا

الْيَدَ الْمَقْطُوعَةَ لِابْنِ عَقْفَالٍ وَأُخْفِيَ بِهِ خَبْرَهُ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ حَتَّى فَتَحَهَا

ابن عقال کے کئے ہوئے ہاتھ کو اور مخفی رکھی گئی ان کی حالت اہل مکہ سے (محمد آوری کے دوران) حتیٰ کہ فتح کیا اس

بِغَيْرِ قِتَالٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کو بغیر جنگ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

الَّذِي كَلَّمَ الصَّمُ بِيَمِينِهِ عِكْرَمَةَ وَكَانَ يَرَى مَا وَرَاءَ الْجَبَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ

کہ جن کی برکت سے کلام کیا بیت نے عکرمہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے تھے پہاڑ کے پیچھے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَرَّ لَشَاةَ أَنْسٍ بِهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کی بدولت حضرت انس کی بکری کا دودھ

اللَّبَنُ وَكَلَّمَهُ الْمَيِّتُ بَعْدَ مَا أُدْرِجَ فِي الْكَفْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اترا۔ اور کلام کیا آپ سے میت نے کفن دئے جانے کے بعد۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَاتَ بِهِ الْفَرَسُ الَّذِي

سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کی وجہ سے مر گیا وہ گھوڑا جو آپ نے

اشْتَرَاهُ مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَأَنْكَرَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الظِّلُّ فِي الشَّمْسِ وَلَا فِي الْقَمَرِ

اعرابی سے خریدا پس اس نے اس سوئے کا انکار کر دیا۔ اور نہیں تھا آپ کے لیے سایہ نہ دھوپ میں اور نہ چاند کی چاندنی میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کے لیے

انْقَادَتْ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ مَعَهُ الشَّجَرَتَانِ بِشَاطِئِ الْوَادِي اللَّهُمَّ

اطاعت کی بجیل والے اونٹ کی مانند دو درختوں نے جو وادی کے کنارے پر تھے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ قَالَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جنہوں نے فرمایا

لِعَلِّيْ اِنَّ حَقْدَكَ فِيْ صُدُوْرِيْ قَوْمٌ لَا يَطْهَرُوْنَ اِلَّا بَعْدِيْ اَللّٰهُمَّ

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ کے ساتھ ایک گروہ کے سینوں میں کینہ ہے جس کو وہ میرے بعد ہی ظاہر کریں گے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَشْبَعَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے سیر فرمایا

مِائَةً وَثَلَاثِيْنَ رَجُلًا بِصَاعٍ مِّنْ دَقِيْقٍ وَبِسَوَادِ بَطْنِ شَاةٍ اَللّٰهُمَّ

تیس اشخاص کو ایک صاع آٹے سے اور بجر کی کے قلب و جگر سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ قَالَ كَيْفَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا ابوذر رضی اللہ عنہ کو

بِكَ اِذَا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ جَوْعًا لِّرَبِيْ ذُرِّيٍّ وَخَاطَتْ بَنُوْرَ اَسْنَانِهِ اِمْرَاَةٌ وَ

تیرا کیا حال ہوگا جبکہ مدینہ میں جھوک کی شدت ہوگی اور آپ کے دانوں کے نور پر ایک عورت نے سلائی کی اور

غَزَلْتُ اٰخْرٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

دوسری نے سوت کاتا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اٰجِي الْمَوءُودَةَ وَجَاءَ الْاِعْصَارُ بِنَاقَةٍ مَّفْقُوْدَةٍ اَللّٰهُمَّ

پر جنہوں نے زندہ درگور کی ہوئی کو زندہ فرمایا اور گردباد لے آیا گم شدہ اونٹنی کو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَشَارَ اِلَى الشَّجَرَةِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے اشارہ فرمایا ایک درخت کی

فَاَمْتَدَّتْ عَلٰی اَصْحَابِهِ الْاَبْرَارِ وَرَأَى اَبُوْجَهْلٍ عِنْدَهَا فَارْسًا خَشِيْ اَنْ

طرف تو وہ پھیل گیا آپ کے اصحاب ابرار پر اور دیکھا ابو جہل نے آپ کے پاس شاہسوار سپن خوفزدہ ہو گیا اس سے کہ

يَا كَلَّةُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ

اسے کھانہ جائے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت



عَذَبَ بِهِ مَاءٌ بِبَيْرِ جَابِرٍ وَكَانَ يَرَى الْغَائِبَ كَمَا يَرَى الْحَاضِرَ اللَّهُمَّ

شیریں ہو گیا حضرت جابر کے کنوئیں کا پانی اور آپ دیکھتے تھے غائب کو جیسے دیکھتے تھے حاضر کو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود کو

قُلْ لَهَا تَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ التَّمَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَمَعَتَا

کہ ان دو درختوں سے کہو کہ رسول اللہ (پرہ) کے لیے باہم مل جاؤ تو وہ دونوں مل گئے آپ کے لیے

لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَلَّمَ

اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے تیمم

التَّيْمُمِ أَبَاهُ رِيَّةً قَبْلَ أَنْ سَأَلَهُ وَنَبَتِ الْكَلَاءُ تَحْتِ جَبِينِهِ اللَّهُمَّ

سکھلادیا ابوہریرہ کو پہلے اس کے کہ وہ سوال کرتے اور اگا سبزہ آپ کی جبین اقدس کے نیچے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِجَابِرٍ قُلْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے فرمایا حضرت جابر کو کہ ان دو

لَهَا تَيْنِ التَّقِيَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْضَمَّتَا لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

درختوں سے کہو باہم مل جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے (پرہ) کے ایسے تر وہ مل گئے۔ اے اللہ صلواۃ

وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَالَتْ عَائِشَةُ بِدُعَائِهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی دعا سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے

مَا قَالَتْ مِنَ الْفَضْلِ وَسَأَلَتْهُ الْجِبَالَ أَنْ يُطَاعَ عَلَيْهَا بِالنَّعْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ

بہت بڑی فضیلت پائی۔ اور درخواست کی ان سے پہاڑوں نے کہ انہیں جوتوں کے ساتھ پامال کریں۔ اے اللہ صلواۃ

وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَارَتْ لَهُ الْأَرْضُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کے لیے ہو گئی زمین چٹیل میدان

قَاعًا إِذْ ذَهَبَ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ إِلَى الْحَدِيدِيَّةِ وَقَبْضُ يَدَا لَبِيْعَةَ ابْنِ شَهْمٍ

جب کہ چلے عام راستہ سے ہٹ کر حدیبیہ کی طرف اور روک لیا اپنا ہاتھ ابو شہم کی بیعت کے وقت

لَمَّا فَعَلَ بِالْمُرَاةِ الْأَجْنَبِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

بسبب اس فعل کے جو کیا اس نے اجنبی عورت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُرِدَّتْ يَدَا أَعْرَابِيٍّ اخْتَرَطَ سَيْفَهُ مِنْ أَجْلِهِ

آپ کی آل اطہار پر کہ آپ کی بدولت لرزنے لگے اعرابی کے ہاتھ جب اس نے آپ پر تلوار سونپی

عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي كُشِفَ الْحُجُبُ عَنْ عَلِيٍّ إِذْ صَعِدَ عَلَى مَنْكِبِيهِ وَ

آل پر کہ جن کی بدولت حضرت علی پر حجاب منکشف ہو گئے جب چڑھے ان کے کندھوں پر اور

كَلَّمَتْهُ الْكَلْبَةُ وَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

کلام کیا آپ سے کتیل نے اور سلام پیش کیا آپ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَلَأَ اللَّهُ لَهُ قَدْرَ فَاطِمَةَ مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ

آپ کی آل اطہار پر کہ جن کے طفیل اللہ تعالیٰ نے بھروی حضرت فاطمہ زہراء کی ہانڈی جنتی کھانے سے

حِينَ أَقَاضَتْهُ فَأَعْلَمَ بِذَلِكَ أَصْحَابَهُ الْكِرَامَ وَفَسَّرَ رَيْقَهُ بِعَيْنِ عَلِيٍّ

جبکہ اس کو پٹا پس آپ نے اپنے اصحاب کرام کو اس کی خبر دی اور اپنا لعاب دہن لگا یا حضرت علی کی آنکھ پر

فَكَانَ يَرَى مِنْ فَرْسِيٍّ فِي الظَّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

تو آپ دیکھ لیتے تھے تین میل تک تاریکی میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ كَلَّمَ آذْهَبَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَضَاءَ النَّوْرِ مِنْ أَصَابِعِهِ

آپ کی آل پر جو کعبہ کی طرف جب بھی تشریف لے جاتے تو نور چمکتا آپ کی مبارک انگلیوں کے

الْمُبَارَكَةِ وَأَضَاءَ بِهِ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ أُخْتِ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

درمیان سے اور نورانی ہو گئے آپ کے طفیل ام المؤمنین حضرت ميمونة کے بھانجے زياد بن عبد اللہ۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَشَّرَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے بشارت دی



سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ بِطُولِ عُمُرِهِ وَتَرَادِبِهِ مَا عَرِيضًا يَأْتِي مِنَ الْحَارِثِ

حضرت سعد بن ابی وقاص کو درازئی عمر کی اور زیادہ ہو گیا آپ کی بدولت زیاد بن الحارث کے کنوئیں کا پانی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے طفیل

نَبَتْ بِهِ بَيْنَ عَيْنِي فِرَاسٍ شَعْرَةً وَكَلِمَتُهُ الْعُنَاقُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اُنے فراس کے دو آنکھوں کے درمیان بال اور کلام کیا ان سے بڑی کہے نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَكَى عِنْدَهُ جَمَلٌ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے پاس اونٹ رویا تو

فَاسْتَوْهَبَهُ مِنَ الْمَالِكِ فَأَعْتَدَ رَوْسَمِعَ أَبُو بَكْرٍ خَيْرَ بَعْتِهِ مِنَ الشَّجَرِ

آپ نے اس کو مالک سے طلب کیا پس اس نے منذرت کی اور شکایت دور کرنے کا عند کیا اور سنی ابو بکر صدیق نے ان کی بخت کی کج

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَارَ

درجیت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ ہو گئی تلوار ان

فِي يَدِهِ السَّيْفُ الْيَمِينُ مِنَ الشَّمْعِ فَقَطَعَهُ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَالَةِ الْأُولَى بِهِ

کے ہاتھ میں موم سے بھی نرم پس اسے کاٹا پھر سابقہ حالت پر ہو گئی یعنی سخت

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ جن کی برکت سے

إِمْتَلَأَتْ بِهِ مِنَ السَّمْنِ عَكَّةُ أُمِّ أَوْسٍ وَكَانَ يَشْتَرُّ بِأَنْفِهِ رَائِحَةَ

دھی سے بھر گیا ام اوس کا برتن اور آپ سوگھتے تھے جنت الفردوس کی خوشبو زمین پر

الْفِرْدَوْسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اپنی ناک مبارک سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَلْبَسَتْ قَاطِمَةُ مِنَ الْجَنَّةِ بِهِ الْأَثْوَابَ الْفَاخِرَةَ وَ

پر کہ جن کے طفیل حضرت قاطمہ زہراء کو جنت کے لباس فاخرہ پہنائے گئے اور

أَعْتَشَى الْمَلِكُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةِ ابْنِ لَهَبٍ الْكَافِرَةِ اللَّهُمَّ

پروردہ بنا دیا فرشتہ نے آپ کے اور ابولہب کی کافرہ بیوی کے درمیان۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا شَابَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد اور آل محمد پر کہ جن کے طفیل نہ بڑھے ہوئے

بِهِ سَائِبُ بْنُ يَزِيدٍ وَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ عَشَاوَةً عَلَى بَصَرِ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ

سائب بن یزید اور آپ کی خاطر اللہ تعالیٰ نے موالا پروردہ ولید کی آنکھوں پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرَوَى الْحَسَنَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے سیراب فرمایا حضرت حسن

وَالْحُسَيْنَ بِاللِّسَانِ وَبَيْنَ لِيَهُودٍ تَرْجُمَةٌ كَلَامِ سَلْمَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اپنی زبان (چھوٹے) سے۔ اور واضح کیا یہود کے لیے سلمان فارسی کے کلام کا ترجمہ۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْبَأَ بَانَ يَصِيرَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دیدی کہ ہوں گے

خَلِيفَةَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ وَبَرَقَ مِنْ أَجْلِهِ جَبْرَيْلُ فِي

خلیفہ ان کے بعد ابوبکر صدیق پھر عمر فاروق پھر عثمان دونوں اور عس طوا لا آپ کی وجہ سے جبرئیل نے

فِي سَلْمَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حضرت سلمان کے منہ میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي حَلَبَ التَّعْجَةَ الَّتِي لَمْ يَنْزَلْ عَلَيْهَا الْفَحْلُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جنہوں نے دودھ نکالا اس دہی سے جس سے ابھی نہ جفتی بھی نہیں ہوا تھا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَدَّثَ الْيَهُودِيَّ مِنْ أَبِيهِ

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے یہودیوں کو بتلایا کہ اصلی باپ ان کا کون ہے

حِينَ جَحَدَ نَسَبَهُ وَأَنْكَرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جبکہ اس نے اپنے نسب سے انکار کیا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِقُبَاثِ بْنِ أَشِيمٍ إِنَّكَ قُلْتَ مَا رَأَيْتُ

محمدؐ پر جنہوں نے فرمایا قباث بن اشیم کو کہ تو نے کہا ہے میں نے

مِثْلَ هَذَا الْأَمْرِ فَرَمْنُهُ إِلَّا النَّسَاءُ وَصَارَ لِبَنَاتِهِ الْمَاءُ اللَّهُمَّ

نہیں دیکھا مانتا اس امر کے کہ سبھی بھاگے اس سے ماسوا عورتوں کے اور ہو گیا آپ کی برکت سے پانی دودھ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ضَرَبَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کے طفیل مارا

جَبْرِيلُ مِنْ أَجْلِهِ صَدْرُ دَعْوُورِ بْنِ الْحَارِثِ بِالْجَنَاحِ وَمَاعَاشِ

جبریل نے دعوتور بن حارث کے سینہ پر اپنا پر اور نہ زندہ رہا

بِهِ سَنَةٌ مِّنْ أَسَاءِ الْقَوْلِ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ کی بدولت سال بھر بھی جس نے آپؐ گستاخانہ کلام کیا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ عَلَامُ آبِكُمْ لَامْرَأَةٍ مِّنْ خَتَمِ

اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت کلام کرنے لگا ختمی عورت کا گونگا لڑکا اور

وَكَلِمَةُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرَدَّ عَلَى أَهْلِ بَيْرِ مَعُونَةَ السَّلَامِ اللَّهُمَّ

جن سے بیت اللہ نے کلام کیا اور جنہوں نے بیر معونہ کے شہداء کو سلام کا جواب دیا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يُكَلِّمُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ پر اور آپ کی آل اطہار پر جو ہر ایک کے ساتھ

كُلَّ أَحَدٍ بِلِسَانِهِ وَكَلَّمَ الدَّبَّ الْأُهْبَانَ فِي شَانِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اس کی زبان میں کلام فرماتے تھے اور کلام کیا بھیڑیے نے اہبان کے ساتھ آپ کی شان میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَتْ إِلَيْهِ شَجَرَةٌ لَطَلَبَ

فرما سیدنا محمدؐ پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کی خدمت میں حاضر ہوا درخت قریش کے

قُرَيْشٍ فَانْشَقَّتْ بِأَمْرِهِ فَذَهَبَتْ النَّصْفُ إِلَى مَنْبَتِهِ وَقَامَ النَّصْفُ الْآخَرَ

مقابلہ پر تو آپ کے امر سے دو ٹخت ہو گیا پس اُدھا اپنے اہل مقام پر چلا گیا اور دوسرا نصف حصہ آپ کے



عِنْدَا ثُمَّ ذَهَبَتْ الْآخِرُ وَجَاءَتْ إِلَيْهِ الْأَوَّلُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

پاس کھڑا رہا۔ پھر یہ حصہ اپنی جگہ پر چلا گیا اور پہلا آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ اسے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا مَشَىٰ عَلَى الْعُضَاةِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محبوب ان کانٹوں پر چلتے جنہیں

الَّتِي تَضَعُ امْرَأَةٌ ابْنِي لَهَبٍ عَلَى طَرِيقِهِ عَادَتْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ كَثِيبًا أَهْيَلُ

الولہب کی بیوی آپ کے راستہ پر پھینکتی تھی تو وہ آپ کے قدموں کے نیچے بننے والی ریت کی مانند ہو جائے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا کہ

سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيدُ هُوَ شَرُّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ

عنقریب ہو گا اس امت میں ایک شخص جس کو ولید کہا جائے گا وہ اس امت کے لیے بدتر ہو گا

مِنْ فِرْعَوْنَ لِقَوْمِهِ وَأَكَلَ الْأَسَدُ امْرَأَةً بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

نسبت فرعون کے واسطے اپنی قوم کے اور آپ کے طفیل شیر نے کھا لیا عورت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَارَ بِهِ الْخَشَبُ سَيْفًا فِي يَدِ

سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کے طفیل کڑی تلوار بن گئی

مُسْلِمَةَ بْنِ أَسْلَمَ وَأَثَمَرَتْ بِهِ التَّخْلَةُ الْيَابِسَةُ فِي بَيْتِ أَبِي الْهَيْثَمِ

مسلمہ بن اسلم کے ہاتھ میں اور جن کے طفیل پھلدار ہو گئی ابو الہیثم کے گھر کی خشک کھجور

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جنہیں

صَلَّىٰ جَهْرًا عَلَيْهِ الْبَيْتُ الْحَرَامُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بیت حرام نے علانیہ درود سلام پیش کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَبْرَأَ سَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتِيقٍ وَأَمْتَلَاتِ

اور آل محمد پر جنہوں نے درست فرما دی عبد اللہ بن عتیق کی پندلی۔ اور بھر گیا

بِهِ مِنَ السَّمْنِ عُكَّةٌ أَمْ شَرِيكَ وَقَامَ بِهِ السَّمْنُ فِي تِلْكَ الْعُكَّةِ

جن کے طفیل اُم شریک کا گھی کا ڈبہ اور ہمیشہ برقرار رہا گھی اس ڈبہ میں مسلسل کھانے کے باوجود

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت

كَثُرْنَا وَلِيَبَةَ نَزِيْبٍ بَدَتْ بِحَشِّهِ بِهٍ الْحَيْسُ وَأَفَاقٌ بِهٍ بِجَنُونٍ

بڑھ گیا حضرت زینب بنت جحش کے وہیم میں صلوات اور ہوش میں آ گیا آپ کی بدولت

وَفِدَّ عَبْدُ الْقَيْسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

و فد عبد القیس کا جنون شخص - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَرَجَ حَيْنَ وَجَبَتْ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ

کی آل اطہار پر جو محبوب غروب آفتاب کے بعد نکلے تو آواز سنی پس فرمایا

يَهُودٌ تَعَذَّبُ فِي الْقُبُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کہ یہ یہودی ہیں جنہیں قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يُؤْمَرُ بِهٍ طَعَامُ فَاطِمَةَ الَّذِي طَخَتْ

آپ کی آل پر جن کی بدولت برکت دی گئی حضرت فاطمہ کے کھانے میں جو پکایا تھا

لِلْغَدَاةِ وَوُلْدِ بِهٍ سَبْعُونَ ابْنًا لِمَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کل کے لیے اور پیدا ہوئے آپ کی برکت سے ستر فرزند مالک بن ربیعہ کے - اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِقَيْسِ بْنِ خُرَشَةَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا قیس بن خرشہ کو

عَسَى أَنْ يَلِيكَ بَعْدِي وَلَا أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُولَ مَعَهُمُ الْحَقَّ حِينَ

امید ہے کہ تجھ پر میرے بعد ایسے والی ہوں گے کہ تو انہیں حق بات کہنے کی طاقت نہیں رکھے گا بیعت

الْبَيْعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

کے وقت - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے

قَالَ لَقَيْسٌ حِينَ قَالَ لَهُ وَاللَّهِ لَا أَبَا يَعُكَ عَلَيَّ شَيْءٌ إِلَّا وَفَيْتُ بِهِ

فرمایا لقیس کو جبکہ اس نے عرض کیا آپ سے مجھ میں آپ کے ساتھ بیعت نہیں کروں گا کسی امر پر مگر اسے پورا کروں گا

إِذَا لَا يَضُرُّكَ بَشَرٌ وَصَارَ بِهِ صَدْرُ عَائِدِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنُوسَ اللَّهُمَّ صَلِّ

تب تجھے کوئی انسان نقصان نہیں پہنچائے گا اور ہو گیا آپ کی بدولت عائد بن عمرو کا سینہ نورانی۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَطْعَمَ مِنْ شَاةٍ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے سیر فرمایا اس بجزی کے

أَمْتَشَعَتْ لَهُمْ بِالْإِيمَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

دودھ سے جو دوہا گیا ان کے لیے کمال ایمان کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَذَّبَ الْمَاءَ الْمَالِحَ لِبَيْرِ أَنْسٍ بِهِ وَأَسْوَدَ بِهِ

آپ کی آل پر کہ شیریں ہو گیا کھاری پانی حضرت انس کے کنوئیں کا آپ کی بدولت اور سیاہ ہو گئے

شَعْرُ يَهُودِيٍّ حَلَبَ نَاقَتَهُ مِنْ أَجْلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

بال یہودی کے آپ کی بدولت جس نے آپ کی اونٹنی کا دودھ دوہا تھا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِنَّ الْفِتْنَةَ لَا تَطْهَرُ مَا دَامَ عُمَرُ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا کہ فتنہ اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک حضرت عمر رضی اللہ

حَيًّا وَأَخَذَ بِمَنْجَرِ الصَّبِيِّ الَّذِي كَانَ بِهِ جُنُونٌ فَزَالَ عَنْهُ ذَلِكَ اللَّهُمَّ

زندہ رہیں گے۔ اور پکڑا آپ نے مجنون بچے کے نتھے کو تو اس کا جنون زائل ہو گیا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَهُ الْأَسَدُ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن سے کلام کیا شیر نے

وَعُدِمَ لَهُ شَامُ بِنِ الْحَارِثِ بِهِ الْغُلُّ وَالْحَسَدُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور معدوم ہو گیا آپ کی بدولت ہشام بن الحارث کا بغض اور کینہ اور حسد۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اِمْتَلَأَتْ بِهِ عَكَّةُ أُمَّ سَلِيمٍ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کی بدولت بھر گیا ام سلیم کا ڈبر دخانی ہو چکنے کے بعد

مِنَ السَّمَنِ وَنَفَى مِنْ سَرَّافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَجَعَ الْبَطْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ

کھی سے۔ اور دور فرما دیا رافع بن خدیج سے پیٹ کا درد۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَسَحَ رَأْسَ حَنْظَلَةَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے ہاتھ پھیرا حنظلہ بن حزم کے

بْنِ حُزَيْمٍ فَكَانَ إِذَا تَوَسَّأَ رَأْسُ رَجُلٍ أَوْ ثَدْيُ شَاةٍ وَضَعَهُ عَلَىٰ مَوْضِعِ

سر پر توجہ سورج جاتا کسی شخص کا سر یا بکری کا تھن تو رکھتے تھے وہ درد کی جگہ پر

الْوَجَعِ يَدَا الشَّرِيفَةِ زَالَ مِنْهُ الْوَرَمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

اپنا ہاتھ شریف تو وہ ورم اور درد نازل ہو جاتا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَبِعَ مِنْ بَيْنِ اصْبَاعِهِ الْمَاءُ فَتَوَضَّأَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کی انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹ پڑا پس وضو کیا

بِهِ سَبْعُونَ رَجُلًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اس کے ساتھ ستر آدمیوں نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا شَابَ بِهِ عُمَيْرٌ بِنِ سَعْدِ اللَّهِمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

پر کہ جن کی بدولت نہ سفید ہوئے بال عمیر بن سعد کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُرْسِلَ عَلَىٰ قَوْمٍ بِهِ الضَّفَادِعُ وَأُرْسِلَ عَلَىٰ

محمد و آل محمد پر کہ جن کی وجہ سے بھی گئیں ایک قوم پر مینڈکیں اور بھی گئی ایک قبیلہ

قَبِيلَةَ بِهِ الْجُرَادُ ثُمَّ رَفَعَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

پر مگڑی پھر دور کر دی گئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي مَسَحَ رَأْسَ عَمْرٍو بْنِ ثَعْلَبَةَ وَصَادَرَأْسَهُ أَيْضًا وَمَا مَرَّتْ يَدَا

پر جنہوں نے ہاتھ پھیرا عمرو بن ثعلبہ کے سر پر جبکہ وہ سفید ہو چکا تھا اور نہ گزرا آپ کا ہاتھ

عَلَيْهِ مِنْ شَعْرَةٍ إِلَّا سَوَّدَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اس کے کسی بال پر مگر وہ سیاہ ہوتا گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَضَعَ قَضِيْبًا عَلَى بَطْنِ رَجُلٍ عَقِيمٍ فَرُبِقَ

آل محمد پر جنموں نے اپنی پھڑی رکھی بانجھ شخص کے پیٹ پر تو اسے اولاد

الْوَلَدَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

نصیب ہوگئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنموں نے

قَالَ هَيْحَانَ هَذِهِ الرِّيحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ وَأَخْبَرَ الصَّمَّ عَنْ بَعْثِهِ

فرمایا کہ اس آندھی کا چلنا منافق کی موت کے باعث ہے اور خبر دی بت نے آپ کی بعثت کے متعلق

غَسَّانَ وَالْعَصَامَ وَالطَّارِقَ صَلَّى وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

غسان۔ عصام اور طارق کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَبَذَتْ الْأَرْضُ بِهِ الرَّجُلَ الَّذِي كَذَبَ

آل محمد پر جن کے طفیل زمین نے باہر پھینک دیا اس مرد کی نقش کو جس نے آپ پر افتراء

عَلَيْهِ وَأَنْقَطَعَتْ يَدَا ابْنِي جَهْلٍ إِذَا أَرَادَ رَمَى الْحَجَرَ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

کیا تھا اور کٹ گیا ہاتھ ابوجہل کا جب اس نے آپ پر پتھر پھینکنے کا ارادہ کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَزَلَ لِشَهَادَتِهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کی درسات کی اگواہی کے لیے اترا

الْبُعْدَى وَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ وَطَالَ بِهِ بَقَاءُ ابْنِي تَرْوَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ

بھجور کا خوشہ اور پھر اپنی جگہ پر لوٹ گیا اور دراز ہو گئی آپ کی بدولت عمر البثروان کی۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَكَلَّمَ مِنْ أَجَلِهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے لیے کلام کیا

صَمٌّ ابْنِي جَهْلٍ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا صَمٌّ بَاطِلٌ

ابوجہل کے صم نے پس کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور میں باطل صم ہوں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کی وجہ سے

هَدَدَ أَبَا جَهْلٍ فِي الْبَيْتِ لَهُ الشَّخْصُ الرَّنْجِيُّ الْهَائِلُ وَكَلِمَهُ

دھکایا ابو جہل کو اس کے مکان میں ہولناک رنجی شخص نے اور کلام کیا

الْحَجْرُ الْأَسْوَدُ وَأَقْرَبُ سَأَلْتَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ان سے حجر اسود نے اور اقرار کیا ان کی رسالت کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِنَّ فِيَّ أَصْحَابِي إِثْنَا عَشَرَ مَنْافِقًا

و آل محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں میں بارہ شخص منافق ہیں ان

ثَمَانِيَةً تَكْفِيهِمُ الدُّبَيْلَةَ سِرَاجٌ مِنْ نَارِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلِّمْ عَلَى

میں سے آٹھ کو دبیلہ یعنی آگ کا شعلہ ہلاک کرے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَارَ بِهِ الْفَتْحُ الَّذِي اسْتَأْذَنَهُ

سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کی بدولت پاکستان ہو گیا وہ شخص جس نے آپ سے اذن طلب کیا

لِلزَّيْنَادِ الْعَقَافِ وَصَافِحَةَ عَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ فِي إِثْنَاءِ الطَّوَافِ

تھا زینا کا۔ اور مصافحہ کیا آپ سے حضرت عیسیٰ بن مریم نے اور سلام پیش کیا آپ کو طواف کے دوران

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَ إِلَيْهِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جن کی خدمت میں حاضر ہوا

شَجَرَةٌ وَهُوَ نَائِمٌ لَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَأَنْجَى الصَّبِيَّ الْمَاءُوفَ الَّذِي جَاءَتْ

درخت جبکہ آپ خواب استراحت میں تھے تاکہ سلام پیش کرے اور آپ نے نجات دلائی بیچس اور مثل جسم ولے بچے

بِهِ أُمَّهُ فِي السَّفَرِ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کو جس کو اس کی والدہ آپ کی خدمت میں دوران سفر لائی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ إِذَا طَلَبَ مِنْهُ حِرَاسَةَ وَقْتِ

محمد پر جنہوں نے فرمایا حضرت عبد اللہ بن مسعود کو جب کہ انہوں نے نماز کے وقت کی نگہداشت

الصَّلَاةِ أَنْتَ تَنَامُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کا اذن طلب کیا کہ تو سو جائے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَتْ عَائِشَةُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَثَوْبِهِ بِتَغْطِي رَدَائِهِ

محمد پر کہ دیکھی حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ کے عامہ اور دوسرے کپڑوں پر آپ کی چادر اڑھنے کی برکت سے

بَلَّ مَطْرَ عَالَمِ الْغَيْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

عالم غیب سے باران رحمت کی تری۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَارَ بِهِ فَرَسٌ أَبِي طَلْحَةَ بَحْرًا وَصَارَ بِهِ

آل محمد پر کہ جن کی بدولت ہو گیا حضرت ابوطحہ کا گھوڑا دریا کی مانند اور جن کے طفیل ہو گئے

إِبْنُ عَبَّاسٍ حَبْرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ

حضرت عبد اللہ بن عباس بہت بڑے عالم و مفسر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِأَمْرٍ وَاجِهٍ أَيْتَكُنَّ صَاحِبَةً جَمَلٌ تَسِيرُ حَتَّى تَنْبِئَ

محمد پر جنہوں نے اپنی ازواج مطہرات کو فرمایا تم میں سے کوئی ہے اونٹ والی جو روانہ ہو گی حتیٰ کہ اس کو

عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوَابِ يُقْتَلُ حَوْلَهَا رَجُلًا كَثِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بھونکیں گے حواب کے کتے اور اس کے گرد بہت سے لوگ قتل کئے جائیں گے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے فرمایا عقبہ بن ابی معیط کو

مُعَيْطُ ابْنِي أَرَى رَأْسَكَ عَلَى السَّيْفِ خَارِجَ مَكَّةَ وَنَادَى أَيْنَ الْمُتَصَدِّقِ

بیشک میں دیکھ رہا ہوں تیرا سر تلوار پر مکہ مکرمہ سے باہر۔ اور ندادی کہ کون ہے صدقہ کرنے والا

بِالْعُرْضِ الْبَارِحَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا

ابنی عزت کا گزشتہ رات۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي مَسَحَ رَأْسُ امِّ أَزْهَرَ وَبَرَكَ عَلَيْهَا فَصَارَتْ امْرَأَةً

پر جنہوں نے ہاتھ پھیرا ام ازہر کے سر پر اور برکت کی دعا دی تو وہ نیک عورت بن

صَالِحَةٌ وَرُبِّقَ دَحِيَّةٌ بِدُعَائِهِ الْإِيْمَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

گئی اور دحیہ کلبی کو آپ کے طفیل ایمان نصیب ہو گیا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِنَّكَ لَا تَمُوتُ

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو کہ

شَهِيدًا الْعَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تم نہیں مرے گے شہادت و قتل کی حالت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَهُ لِلتَّهْنِيَةِ أَرْبَعِيْنَ أَلْفَ أَوْ

اور آل محمد پر جن کی خدمت میں مبارکبادی کے لیے حاضر ہوئے چار لاکھ اور

أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِذْ وُلِدَ الْحُسَيْنُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

چوبیس ہزار فرشتے جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے فرمایا اعرابی کو

إِنَّ فِي عِبَادَتِكَ الْحَمَامَةَ مَعَ الْفَرَّخَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

یقیناً تیری عباد میں کبوتری ہے مع اپنے دو بچوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَزَالَ الْأُدْرَةَ مِنْ رَجُلٍ

سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے دور فرمائی ورم انعام نہانی کی ایک شخص سے

وَنَفِي وَكَلَّمَهُ الْمَرْوَةَ وَالصَّفَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور اسے نخم کیا اور کلام کیا ان سے مروہ و صفانے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَدْرَكَ مَقْدَادَ بَنِ الْأَسْوَدِ بِهِ الْقَنْطَارَ

اور آل محمد پر جن کی بدولت پالیا مقداد بن اسود نے ڈھیروں سونا چاندی۔

وَكَانَ إِذَا رَكَعَ يَدْرِي الْأَرْضَ حَتَّى الْحَوْتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور جب آپ رکوع فرماتے تھے تو تمام زمینوں کو مشاہدہ فرماتے حتی کہ مچھلی تک کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَكَلَ مَعَ الْيَاسِ

سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے کھایا حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ

مِنْ حُورٍ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَقَامَتْ نَاقَتُهُ فِي السَّمَاءِ اللَّهُمَّ

اس دسترخوان سے جو آسمان سے اترتا اور کھڑی ہو گئی آپ کی اونٹنی ہوا میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِمَرَأَةٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی ایک بیمار عورت

بِالسُّرْفَلَمِ تَتَكْشِفُ أَبْدًا أَبْعَدَ ذَلِكَ وَبَيْنَ قَوْلِ الطَّائِرِ لَأَنْسُ

کے لیے پردہ برقرار رہنے کی تودہ اس کے بعد کبھی برہنہ نہ ہوئی اور واضح کیا حضرت انس بن مالک پر

بُنِ مَالِكِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہرندہ کے قول کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي نَبَذَتْ الْأَرْضُ بِهِ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ

پر کہ جس محبوب کی وجہ سے زمین نے باہر پھینک دی نقش اس شخص کی جو وحی لکھا کرتا تھا

فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَوَجَدَ جِيوشَهُ الْجِيَاءَ مُخَيَّبًا بِدُعَائِهِ

پھر اسلام سے برگشتہ ہو گیا اور پا لیا آپ کے بھوکے لشکریوں نے آپ کی دعا سے

الطَّعَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کھانا خیر میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَحْرَقَتِ الصَّاعِقَةُ مِنْ أَجْلِهِ كَافِرًا لَمَّا طَوَّعَتْ

پر کہ جن کی وجہ سے جلا دیا بجلی نے عرب کے سرکشوں میں سے ایک سرکش کافر

الْعَرَبِ وَمَا شَابَ بِهِ عُمَرُ بْنُ أَحْطَبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کو اور نہ سفید ہوئے عمر بن احطاب کے بال آپ کی بدولت۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَابَلَّ بِالْمَطَرِ بِهِ

سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کی بدولت نہ پھیلے بارش سے

صَحْبُهُ وَ أَحَبَّ أَبَاهُ رِيْرَةً وَأُمَّهُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ

آپ کے صحابہ اور محبت کرنے لگے ابوہریرہ اور ان کی والدہ سے اہل ایمان۔ اے اللہ صلوات



وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَسَّمَهُ حَرِيرٌ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو سنتے تھے آسمان سے

أَقْلَامُ الْمَلَائِكَةِ فِي السَّمَاءِ بِأَذْنِيهِ وَأَرَى حَمْرَةَ جَبْرِئِيلَ فَوْقَ

ملائکہ کی قلموں کے چلنے کی آواز اپنے مبارک کانوں سے اور دکھلائے آپ نے حضرت حمزہ کو جبرئیل امین

مَغْشِيًا عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

تو وہ گریٹے غش کھا کر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي رَفَعَ أَبُو جَهْلٍ مِّنْ أَجْلِهِ حَجْرًا فَشَلَّتْ يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ

پر کہ جن کی وجہ سے ابو جہل نے پتھر اٹھایا تو اس کا ہاتھ نکل ہو کر گردن سے لگ گیا

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ كَثِيبُ الرَّمْلِ الطَّوِيلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور سلام پیش کیا آپ پر ریت کے طویل ٹیلے نے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّجُلِ الْمَخْرُومِ

محمد و آل محمد پر کہ جن کی بدولت حائل ہو گیا آپ کے اور مخرومی شخص کے درمیان کوئی

شَيْءٌ كَأَلْفَيْلٍ يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِذَنبِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جانور مانند ہاتھی کے جو اپنی دم زمین پر مارتا تھا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خُطِفَ لَهُ بَصْرُ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي

محمد و آل محمد پر جن کی وجہ سے ایک لی گئی بنی مغیرہ کے ایک شخص کی

الْمَغِيرَةِ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّكُمْ مَنصُورُونَ مُصِيبُونَ مَفْتُوحٌ لَّكُمْ

بصارت اور فرمایا اپنے صحابہ کرام کو یقیناً تم منصور و غالب ہو گے، تمہارے لیے فتح ہوں گے۔

يَعْنِي الْبِلَادَ الْكَثِيرَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

بہت سے شہر اور علاقے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَ الْأَعْدَاءُ قِرَاءَتَهُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَيَرَوُّهُ فَرَجَعُوا

پر کہ سنی اعدائے آپ کی قرأت کعبہ معظمہ کے پاس اور آپ کی قرات اقدس کو نہ دیکھا پس لوٹے

خَابِرِينَ وَبَيْنَ لِحْدَيْهِ أَسْمَاءُ الْمُنْفِقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

رسوا ہو کر اور بیان فرمادئے حضرت خذیفہ کو منافقین کے نام۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَبَتْ بِيَمِينِهِ غَدِيرُ أَسْمَاءَ

سیدنا محمد و آل محمد پر جن کے یمن و برکت سے اگی امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کی

بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بیٹی حضرت اسماء کی مینڈھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا أَبْيَضَ بِهِ لِرَجُلٍ شَعْرَةٌ وَقَدْ بَلَغَ

و آل محمد پر کہ جن کی برکت سے نہ سفید ہوا ایک بال بھی ایک شخص کا حالانکہ اسی سال کو

ثَمَانِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

پہنچ چکا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَبْرَأَ يَدَ الصَّبِيِّ الْمُنْكَسِرَةِ وَأَسْلَمَتْ بِهِ أُمُّ أَبِي هُرَيْرَةَ

پر جنہوں نے درست فرما دیا بچے کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو اور جن کی دُعا سے مشرف باسلام ہو گئی حضرت ابو ہریرہ کی والدہ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کی بدولت

دَسَّ لِأَعْزَمِ مَعَاوِيَةَ بْنِ ثَوْرٍ بِهِ اللَّيْنُ وَعَذَّبَ بِهِ مَاءُ بَيْرِ الْيَمَنِ

ازمعاویہ بن ثور کی بکریوں کا دودھ اور شیریں ہو گیا آپ کی برکت سے یمن کے کنوئیں کا پانی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جس آقا نے

بَيَّنَّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَيْسٍ حُلِيَّةَ سُفْيَانَ بْنِ خَالِدٍ وَقَالَ لَهُ إِذَا

بیان فرمایا عبد اللہ بن انیس کے سامنے سفیان بن خالد کا حلیہ اور فرمایا اسے کہ جب

رَأَيْتَ سُفْيَانَ أُلْقِيَ فِي قَلْبِكَ الْخَوْفُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

تو سفیان کو دیکھے گا تو تیرے دل میں خوف پیدا ہو گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِرَاهِبٍ سَقِيمٍ فَبَرَأَ

سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے بیمار راہب کے لیے دعا فرمائی تو وہ اسی وقت

مِنْ حَيَّتِهِ وَاجَابَ عَنْ ثَلَاثِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سَلَامٍ اللَّهُمَّ ارِنِي

تندرست ہو گیا۔ اور جواب دیا آپ نے حضرت عبد اللہ بن سلام کے تین سوالات کا۔ اے اللہ بے شک میں

أَتَوْسَلُ إِلَيْكَ بِحُبِّ مَحَبَّتِهِ وَمَحَبَّةِ قَوْلِهِ وَقَبُولِ قَوْلِهِ قَوْلًا

وسید پڑاتا ہوں تیری بارگاہ میں ان کی محبت اور محبت قبولیت اور قبولیت کاملہ واملہ

كَامِلًا مُكْمَلًا وَمُتَوَسِّلًا بِهَذَا الْحَامِدِ الْحَمَادِ الْمَحْمُودِ الْمُحَمَّدِ

کے طفیل اور وسیلہ پڑاتا ہوں اس حامد و حماد و محمود اور محمد و

الْأَحْمَدِ أَنْ تَشْفِيَنِي وَتُقَوِّيَنِي شِفَاءً تَامًّا كَامِلًا عَاجِلًا بَدَنِيًّا

احمد کے ساتھ کہ مجھے شفا عطا کرے اور تقویت بخٹھے از روئے شفا کامل وامل اور فوری کے جو ہواز روئے بدن

وَقَلْبِيًّا وَقُوَّةَ ظَاهِرِيَّةٍ وَبَاطِنِيَّةٍ وَتَجْعَلَنِي طَوِيلَ الْفِرَاقِ

اور قلب کے اور ظاہری اور باطنی قوت کے اور بنائے مجھے لمبی جہاں والا لوگوں سے عاشقوں

سَبِيلَ الْعُشَّاقِ فِي عِبَادَتِكَ وَعِبُودِيَّتِكَ وَتَثْبِتَنِي

کی راہ اختیار کرنے والا اپنی عبادت اور اطاعت اور حضور و حضور میں اور ثابت قدم رکھے مجھے

عَلَى الطَّرِيقَةِ الْخَاصَّةِ الْإِحْسَانِيَّةِ وَالْمَعْرِفَةِ الْوَحْدِيَّةِ الْوَاحِدِيَّةِ

خاص احسان والے طریقہ پر اور وحدت واحدہ و

التَّوْحِيدِيَّةِ الْوَاحِدِيَّةِ مِنْ غَيْرِ غَيْرِيَّةٍ وَأَنَايَّةٍ وَوَهْمِيَّةٍ

واحدیہ احدیہ کی معرفت پر بغیر کسی غیریت وانایت اور موہوم

الْمَوْهُومِيَّةِ وَالْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الْإِحْمَدِيَّةِ الْكَمَلِيَّةِ الْإِجْمَاعِيَّةِ

وہمیت و پندار کے اور حقیقت محمدیہ احمدیہ املیہ کے طریقہ پر جو جامع ترین ہے خالق میں

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَحَّ بِهِ الصَّبِيُّ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ أُمُّهُ فِي

آل محمد پر جن کی برکت سے صحت مند ہو گیا وہ بچہ جسے اس کی ماں لائی تھی

حِجَّةِ الْوُدَاعِ إِلَيْهِ وَانْتَظَرَ ابْنَةَ مَلِكِ الرُّومِ حِينَ قَدِمَتْ مَعَهُ

حجۃ الوداع میں آپ کی خدمت میں اور انتظار فرمایا شاہ روم کی بیٹی کا جبکہ حاضر ہوئی آپ کی خدمت میں

فَتَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ایک مسلمان جوان کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بُورِكَ بِهِ طَعَامُ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ

و آل محمد پر کہ جن کی بدولت بابرکت ہو گیا کھانا انصار سے مرد

وَأَمْرَاتِهِ وَكَلِمَتَهُ الْحُسْنَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور اس کی بیوی کا۔ اور کلام کیا آپ کے ساتھ تپ نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِنَّ الظُّلْمَةَ وَصَبِيَانَهَا لَا

اور آپ کی آل پر جنہوں نے فرمایا کہ بیشک ہر فی اور اس کے بچے شام

يَمْسُونَ حَتَّى يُجْزِيَ اللَّهُ فَرَجَهُمْ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

نہیں کر پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کشائش کا سامان کر دے گا ایک جنتی آدمی کے ہاتھوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے

قَالَ الْخِلاَفَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً وَقَالَ لِرَجُلٍ ضَرَبَ اللَّهُ

فرمایا کہ خلافت راشدہ میرے بعد تیس سال تک ہو گی اور فرمایا ایک شخص کو اللہ اس کی

عُنُقَهُ فِي سَبِيلِهِ فَمَاتَ شَهِيدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

گردن مارے اپنی راہ میں تو وہ فوت ہوا شہید ہو کر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَلَّمَتِ الْغَزَالَةُ عَلَيْهِ وَاحْتَرَقَتْ

محمد و آل محمد پر جن کی خدمت میں ہر فی نے سلام پیش کیا اور عقبہ بن ابی



شَفَعَا عَقِبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِذَا ابْتَدَأَ عَلَيْهِ فَبَرَأَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

معیط کے دونوں بچے ہوئے ہونٹوں پر جب لعاب دہن ڈالا تو وہ شقیاب ہو گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ يَوْمًا

فرما سیدنا محمدؐ پر اور آپؐ کی آل پر جنہیں دیکھا عبد اللہ بن مسعود نے ایک دن کہ

يَرْتَفِعُ مِنْهُ التُّورُ إِلَى السَّمَاءِ وَتَفِي مِنْ صَبِيٍّ دَاءَ الْأَحْشَاءِ اللَّهُمَّ

بلند ہوتا تھا آپ سے نور آسمان کی طرف اور دور فرمائی ایک بچے سے بیماری آنٹریوں کی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا الشَّجَرَةَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ پر اور آل محمدؐ پر جنہوں نے بلایا اس درخت کو

الَّتِي خُلِقَتْ مِنْ أَوَّلِ قَطْرَةِ دُمُوعِ آدَمَ رَاذُ أَخْرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ فَاتَتْهُ

جو پیدا کیا گیا تھا آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کے پہلے قطرہ سے جبکہ انہیں جنت سے نکالا گیا تو

وَسَجَدَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

وہ درخت حاضر ہوا اور آپ کو سجدہ کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي طَارَتْ بِهِ عَيْنَا حَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ إِذْ

آپ کی آل پر کہ جن کی وجہ سے اڑ گئیں دونوں آنکھیں حکم بن ابو العاص کی جب کہ

غَمَزَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اس نے آپ پر ان سے طنز یہ اشارہ کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةٌ أَوْ قِيَةٌ فَقَدْ أَحْفَلَ ابْنِي

پر جنہوں نے فرمایا ابو سعید کو کہ جو شخص سوال کرے اور اس کے ملک میں چالیس درہم کی مقدار ہو تو اس نے سوال میں

سَعِيدٍ وَسَمِعَ عَلَى صَوْتِهِ مِنْ بَعِيدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

تجاوز کیا اور سنی حضرت علیؑ نے آپ کی آواز دور سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُرْسِلَ عَلَيْهِ مَعَ

سیدنا محمدؐ پر اور آل محمدؐ پر جنہوں نے بھیجا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یودیوں

الْيَهُودِ وَأَمَرَ أَنْ يَقُولَ لِمَيِّتِ الَّذِي يُشِيرُونَ إِلَيْهِ أَنْ رَسُولَ

کے ساتھ اور انہیں حکم دیا کہ کتنا اس میت کو جس طرف یہ اشارہ کریں کہ رسول اللہ

اللَّهُ قَالَ قُمْ بِإِذْنِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى فَقَامَ مِنْ قَبْرِهَا اللَّهُمَّ

نے فرمایا ہے کھڑا ہو جا اس ذات کے اذن و امر سے جو مردوں کو زندہ کرتی ہے تو وہ قبر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَالِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے اپنے

بِرَأْسِهِ نَحْوَ الْجَبَلِ يَوْمَ أُحُدٍ فَخَرَقَهُ بِمَقْدَامِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُمَّ صَلِّ

سرناز کو ماٹل کیا پہاڑ کی طرف احد میں تو پھاڑا اسے سر اقدس کی مقدار کے مطابق۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِنَّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ

أَبَاذِيْمُوتُ بِالْبَادِيَةِ وَيَحْضُرُ وَقْتِ وَفَاتِهِ جَمْعٌ مِّنْ

ابو ذر رضی اللہ عنہ فوت ہوں گے جنگل میں اور حاضر ہو گا ان کی وفات کے وقت ایک گروہ

أَهْلِ الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اہل اسلام کا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَسَحَ رَأْسَ قَيْسِ بْنِ ثَرِيدٍ فَمَا أَبْيَضَ مِنْهُ

محمد پر جنہوں نے ہاتھ پھیرا قیس بن ثرید کے سر پر تو نہ سفید ہوئی

مَوْضِعَ يَدِهِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اس سے آپ کے ہاتھ مبارک والی جگہ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَتَاهُ ابْنُ الشَّيْطَانِ فَدَخَلَ فِي رِبْقَةِ

آل محمد پر جن کی بارگاہ میں حاضر ہوا شیطان کا بیٹا پس داخل ہو گیا

الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جلفظ اسلام میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

الَّذِي بَصَرَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ بِلَا شَكِّ وَ سَمِعَ صَيَادٍ يَمِينَهُ مُحَمَّدًا

جنہوں نے بصارت عطا کی بنی سلیم کی عورت کو بلاشبہ اور سنا شکاری نے آپ کی برکت سے محمد

رَسُولُ اللَّهِ عَنِ السَّمِكِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

رسول اللہ مچھلی کے منہ سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَشْبَعَهُ سَبْعَ مِائَةِ رَجُلٍ مِّنْ ذَلِكَ السَّمِكِ وَ

آپ کی آل پر جنہوں نے سیر فرما دیا سات سو آدمی کو اس مچھلی سے اور

ذَهَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ إِلَى بَيْتِهِمَا يَتُوبُونَ وَجْهَهُ الْمُبَارَكِ اللَّهُمَّ

پہنچے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما اپنے گھر تک آپ کے چہرہ مبارک کے نور میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَسَحَ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے ہاتھ پھیرا

رَأْسَ مَدْلُوكٍ فَكَانَ مَوْضِعَ يَدَيْهِ مِنْهُ أَسْوَدَ وَسَائِرُهُ أَبْيَضَ اللَّهُمَّ

صنیعت شخص کے سر پر تو آپ کے ہاتھ مبارک والی جگہ (بال کے سیاہ ہو گئے اور باقی سفید رہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَبْرَأَ جِلَّ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے درست فرما دیا

أَبْنَى قِتَادَةَ وَ تَرَأَى إِلَيْهِ قَطَافُ حِمَارِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ

حضرت ابوقتیادہ کا پاؤں اور دور ہو گئی آپ کی برکت سے سعد بن عبادہ کے گدھے کی کتتہ رفتاری۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَاتَرَكَ قَائِدًا

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے نہ چھوڑا کسی قفتنہ کے

فِتْنَةٍ إِلَى أَنْ تَنْقُضِيَ الدُّنْيَا إِلَّا سَمَاءَهُ بِأَسْمِهِ وَإِسْمَ أَبِيهِ وَإِسْمَ

قائد کو اختتام دنیا تک مگر اس کا نام بیان فرمایا اور اس کے باپ کا اور

قَبِيلَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قبیلہ کا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر



الَّذِي رَجِحَ بِهِ عَرْقَدَةٌ فِي صَفْقَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کہ جن کی بدولت نفع اندوز ہوئے عرقہ اپنے سوئے میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا نَقَصَ بِهِ الثَّمَرَاتُ الَّتِي أَخْرَجَهَا بِلَالٌ

اور آپ کی آل اطہار پر جن کی بدولت نرم ہوئیں کھجوریں جنہیں نکالا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ مِنْ الْجَرَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

غزوہ تبوک میں زنبیل سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَبَدَتْ شَجَّةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ وَقَالَ أَمَّا تَرْضَى

آل محمد پر جنہوں نے دور فرمایا عبد اللہ بن انیس کا زخم اور فرمایا حضرت ثابت بن قیس کو

أَنْ تَعِيشَ سَعِيدًا أَوْ تَمُوتَ شَهِيدًا الثَّابِتُ بْنُ قَيْسٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

کہ تو اس پر راضی نہیں کہ زندہ رہے حالت سعادت میں اور موت ہو حالت شہادت میں اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْرَجَ الشَّهْمَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے نکالا رافع بن خدیج

مِنْ صَدْرِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَتَرَكَ النَّصْلَ وَبَيَّنَ الذَّنْبُ شَانَهُ

کے سینہ سے تیر کو اور دور فرمایا پھل کو اور بیان کی ان کی شان بھڑیئے نے

لِسَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

واسطے سلمہ بن اکوع کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَبَتْ بِهِ شَعْرًا أُسْ هَلْبٌ بْنُ الْأَقْرَعِ وَ

آل محمد پر جن کے طفیل اگے ہلب بن اقرع کے سر کے بال اور

أَضَاءَ بِهِ نُورًا كَالصَّبَاحِ فِيمَا بَيْنَ عَيْنَيْ الطُّفَيْلِ وَتَدَاوَلَ بِهِ

روشن ہوا ان کی بدولت چراغ کی مانند نور حضرت طفیل کی پیشانی میں اور کھایا آپ کے طفیل

الصَّحَابَةُ مِنْ قِطْعَةٍ مِّنْ عُدْوَةٍ حَتَّى اللَّيْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

صحابہ کرام نے ایک ٹکڑے سے صبح سے شام تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَبَاكَ الرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ وَيَادِبُهُ

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جن کو خبریں دیں رکن یمان نے اور تباہ ہوا آپ کی وجہ سے

مَلِكُ الْحَارِثِ الْغَسَّانِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حارث غسانی کا ملک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

الَّذِي صَرَخَ عَقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِدُعَائِهِ الْفَرَسُ وَأَبْرَعُ لِأَبْنِي دُجَانَةَ سَبْعِينَ

کہ جن کی برکت دعا سے گرا دیا عقبہ بن ابی معیط کو گھوڑے نے اور درست فرمادے ابو دجانہ کے ستر

جِرَاحَةَ اللَّهِ مَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

زخم۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے فرمایا

لِأَبْنِي هُرَيْرَةَ إِنَّ أَسِيرَكَ سَيَعُودُ وَتَسَاقُطُ بِهِ شَعْرُ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ

حضرت ابو ہریرہ کو کہ تیرا قیدی دشمنان سے تو نے چھوڑ دیا تھا (عقرب لڑنے کا اگر گئے بسید آپ کی زنا اٹھی کے)

يُحْفَظُهُ فِي السُّجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بال اس شخص کے جو انہیں حالت سجد میں سنبھالے رکھتا تھا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

الَّذِي بَلَغَ مَلِكُ أُمَّتِهِ مَا ذُوِي لَهُ وَقَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ سَمِعْتُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ

جن کی امت کا ملک پہنچا جہاں تک دنیا سمیٹ کر آپ کے سامنے کی گئی اور فرمایا ابن مسعود کو میں نے ملائکہ کا قول سنا

وَكَلِمَتُهُ السَّمَكَةُ وَقَامَ سَرِيْعًا مِنْ جَدَارِ بَنِي النَّضِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور کلام کیا آپ سے مچھلی نے اور جلدی سے اٹھائے بنو نضیر کی دیوار کے نیچے سے (ان کی بڑی بیٹی معلوم کر کے) اے اللہ صلوات و سلام

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قُتِلَ تَوْفَلُ بْنُ خُوَيْلِدٍ بِدُعَائِهِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ قتل ہو گیا نوفل بن خویلد آپ کی دعا سے

وَدَخَلَ بِهِ الْغَنَمُ إِذَا أَسْلَمَ الرَّاعِي فِي الْحِصَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور داخل ہو گئیں بھیڑ بکریاں حفاظت و پناہ میں جبکہ چرواہا اسلام لایا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا قَاحَ أَثْرُ السَّهْمِ فِي وَجْهِ أَبِي قَتَادَةَ

محمد پر اور آل محمد پر کہ نہ نمودار ہوا تیر کا نشان حضرت ابو قتادہ کے چہرے میں جب کہ

اِذْ بَصَقَ عَلَيْهِ وَاسْتَاذَنَتْهُ الشَّجَرَةُ اَنْ تَمِيلَ وَتَنْظُرَ اِلَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

اس پر لعاب دہن ڈال اور اذن طلب کیا ان سے درخت نے ان کی طرف بھکنے کا اور دیدار کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ قَالَ رَبِّ بِبَيْعِ صُعَيْبٍ

سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ نفع مند ہوئی صعیب کی بیع

وَرَدَّ السَّلَامَ عَلٰی حُبَيْبٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

اور سلام کا جواب دیا حبیب کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِيْ رُبِقَ بِهٖ فَتٰى مِنْ وَفْدِ حُبَيْبٍ غَنِى الْقَلْبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر کہ عطا کیا گیا ان کے طفیل وفد حبیب کا جو ان غنائے قلب۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ مَا اسْتَطَاعَ بِهٖ الرَّجُلُ رَفْعَ الْيَدِ

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کی وجہ سے نہ طاقت ہوئی گستاخ شخص کو اپنا دایاں

الْيَمْنِيْ اِلٰى فَيْهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بانتھ منہ تک اٹھانے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِيْ مُطِرَ بِهٖ بِلَادُ وَفْدِ بَنِيْ مَرْثَةَ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ دَعَا فَيْهٖ اَللّٰهُمَّ اَفْنِيْ

جن کی بدولت وفد بنی مرہ کے علاقوں میں بارش برسی اسی دن میں جس میں دعا فرمائی۔ اے اللہ مجھے عطا فرما

بِحُرْمَةِ دَعَائِهِ الْمُسْتَجَابَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَنَاءِ اِعْتَاقِ الْاَبِيقِ الْفَنَاءِ

فناء فی اللہ کا مقام بظیفیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستجاب دعا کے مانند فنا بھگڑے غلام کی

فَنَا فِيْ اللهِ وَاَعْطِنِيْ مَعِيَّةَ بَقَاءِ بَابِقِ الْمَطْلِقِ بِقَابِ اللهِ

درستی کے اور عطا فرما مجھے بقا باللہ والی معیت مانند رہا کئے ہوئے بھگڑے غلام کے۔

قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ ۝ اللهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝

فرما دیجئے وہ اللہ یکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اس نے نہ کسی کو جنا اور نہ جنا گیا

وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

اور نہیں کوئی اس کا مشابہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اللّٰهُمَّ اَلْمَنِيَّةُ
كَدِيں زانِ مَن اَمْتَا اَمْرَانِ فِضْلِ

ايزو مَنانِ تَحْفَةِ عَجَابِ وَهَدِيَّةِ غَرَابِ اِلَى اللّٰهِ
مَقْبُولِ اِبْرَاقِ شَاهِ نُوْمِيْنِ حَضْرَةِ مُحَمَّدٍ
مُسَكَّلِي بَاءِ

مَجْمُوعَةُ السُّؤَالِ

الجزء الثالث والعشرون ۲۳

فِي دَعْوَاتِهِ بِتَوْسَلِ صَلَوَاتِهِ ﷺ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

حَضْرَةِ نَوَابِغِ نَوَابِغِ اَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٍ رَحْمَتِ الرَّحْمٰنِ

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبہ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ بخشش کرتی والے مہربان کے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِدُعَاءِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِشَفَاءِ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دُعا و شفاعت کے طفیل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِعَطَاءِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شفاء کے طفیل اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عطا کے طفیل

وَبِعُظْمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِعُلَاءِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت کے طفیل اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بلندی

الرَّحِيمِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ فِلك

و برتری کے طفیل۔ تمام کتابیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے غایت رحمت والا مہربان ہے۔ روز جزا کا

يَوْمَ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ ۝ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ

مآبک ہے۔ اے ان صفات کمال والے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ چلا ہمیں راہ

المستقيم ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

راست پر۔ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا نہ ان کی جن پر غضب کیا

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ أَمِينَ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ مَنِّهِ الْعَظِيمِ وَ

گیا اور نہ گرا ہوں کی آمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کے عظیم احسان پر اور

الصَّلَاةُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوات و رحمت نازل ہو اس کے نبی کریم پر۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَاةً تَقْبَلُ بِهَا دُعَائُنَا وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ صَلَاةً

جس صلوات کے طفیل تو ہماری دُعا قبول فرمائے اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جس رحمت و صلوات

تَسْمَعُ بِهَا نِدَائُنَا وَاسْتِغَاثَتَنَا وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ صَلَاةً

کے طفیل تو ہماری فریاد اور پکار سے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل

تُطَهَّرُ نَابِهَا مِنَ الذُّنُوبِ وَالسَّيِّئَاتِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہماری تطہیر فرمائے کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَاةٌ تَرْفَعُنَا بِهَا إِلَى الْمَقَامَاتِ وَالدرَجَاتِ وَصَلِّ عَلَى

جس صلوات کے طفیل ہمیں بڑی بخشنے بلند تر مقامات اور درجات پر۔ اور صلوات نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ تَقِينَا بِهَا مِنَ الْخَوْفِ وَالرَّذَا وَصَلِّ عَلَى

سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں بجائے خوف اور ہلاکت سے اور صلوات نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ تَعِيدُنَا بِهَا مِنْ شَهَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں پناہ دے دشمنوں کی فرحت و شادمانی سے۔

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ نَحْشُرُنَا بِهَا مَعَ

اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں اٹھائے

النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَصَلِّ عَلَى

انبیاء۔ صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔ اور صلوات نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ تَشْفِي لَنَا بِهَا أَمْرًا وَصَلِّ

سیدنا محمد پر کہ جس کے طفیل شفا دے ہماری بیماریوں میں۔ اور صلوات نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ تَتَوَسَّرُ بِهَا أَبْصَارُنَا وَصَلِّ عَلَى

فرما سیدنا محمد پر کہ جس کے طفیل روشن فرمائے ہماری آنکھوں کو اور صلوات نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ تَسْتُرُ بِهَا عَوْرَاتِنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سیدنا محمد پر کہ جس کے طفیل ڈھانپے ہماری شرمگاہوں کو اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ تَحْفَظُنَا بِهَا فِي أَهْلِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَصَلِّ عَلَى

محمد پر جس کے طفیل ہمیں حفاظت بخشنے ہمارے اہل و عیال میں۔ اور صلوات نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ تَتُوبُ بِهَا عَلَيْنَا يَا تَوَّابٌ وَصَلِّ عَلَى

سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہم پر نظر عنایت فرمائے اے نظر عنایت فرمانے والے۔ اور صلوات نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَهْبُ لَنَا بِهَا رَحْمَةٌ مِّنْ لَّدُنْكَ إِنَّكَ

سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں عطا فرمائے اپنے پاس سے مخصوص رحمت - بیشک تو ہی

أَنْتَ الْوَهَّابُ وَصَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَسْمَعُ لَدَيْكَ

عطا کرنے والا ہے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات تیرے نزدیک مقبول ہو

وَتُرْفَعُ إِلَيْكَ وَصَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَهْبُ لَنَا قُرَّةَ

اور تیری بارگاہ تک پہنچانے والی ہو۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ عطا فرمائے بطفیل اس کے آنکھوں کی

عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَصَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تُعِيدُنَا بِهَا

ٹھنڈک جو کبھی ختم نہ ہو۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بطفیل اس کے بجائے ہمیں

مِنَ الْجُبْنِ وَالْكَسْلِ وَصَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تُعِيدُنَا

بزدلی اور سستی سے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بطفیل اس کے بجائے

بِهَا مِنَ الْغَمِّ وَالْهَمِّ وَالْخَطْلِ وَصَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہمیں غم و اندوہ اور ناتوانی سے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوَاتُكَ تُسَلِّمُ بِهَا إِيْمَانَنَا وَصَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ

کہ بطفیل اس کے سالم رکھے ہمارے ایمان کو اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بطفیل اس

تُقَوِّي بِهَا إِيْقَانَنَا وَصَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَحْفَظُنَا

کے مضبوط و قوی کرے ہمارے یقین کو اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بطفیل اس کے ہمیں محفوظ فرمائے

بِهَا مِنْ إِكْتِسَابِ السَّيِّئَاتِ وَصَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ

بڑے اعمال کمانے سے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بطفیل اس صلوات

تُوقِّنُنَا بِهَا لِعَمَلِ الصَّالِحَاتِ وَصَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے ہمیں توفیق دے نیک اعمال کی۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوَاتُكَ تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ وَ

کہ بطفیل اس کے پناہ دے ہمیں قرض کے غلبہ سے اور لوگوں کے قہر اور ظلم سے اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بظیفیل اس کے پناہ دے ہمیں دجال کے فتنہ سے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُشْفِي لَنَا بِهَا مَرْضَانَا وَصَلِّ

اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بظیفیل اس کے شفا دے ہمارے مریضوں کو اور صلوات نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَجْعَلُ لَنَا بِهَا ثَارَنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا

فرما سیدنا محمد پر کہ بظیفیل اس کے ہمارا بدلہ و انتقام لے ہمارے اعداء سے۔

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُسَدِّدُ لَنَا بِهَا اللِّسَانَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بظیفیل اس کے درست کرے ہماری زبان کو اور صلوات نازل فرما

مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُقْوِي لَنَا بِهَا يَقِينَ الْجَنَانِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سیدنا محمد پر کہ بظیفیل اس کے مضبوط کرے ہمارے قلبی یقین کو اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنَ الْبَائِثِ وَالْمَغْرَمِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر کہ پناہ دے بظیفیل اس کے گناہ اور قرض سے اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَ

محمد پر کہ بچائے بظیفیل اس کے ہمیں قبر کے فتنہ اور جہنم کے عذاب سے اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُشْفِي لَنَا بِهَا الصُّدُورَ وَصَلِّ

صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بظیفیل اس کے شفا دے ہمارے سینوں کو اور صلوات نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ دَعْوَى الْوَيْلِ وَالشُّبُورِ

سیدنا محمد پر کہ بظیفیل اس کے بچائے ہمیں (روز قیامت) ہلاکت اور تباہی کی طلب سے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنْجِينَا بِهَا مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَ

اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بظیفیل اس کے نجات دے ہمیں بڑی گھبراہٹ (قیامت) سے اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَغْفِرُ لَنَا بِهَا ذُنُوبَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا

صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بظیفیل اس صلوات کے بخشے ہمارے پہلے اور

وَمَا تَأَخَّرَ وَصَلَ عَلِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُنَفِّسُ بِهَا كُرْبَتَنَا

یہ بچھلے گناہ - اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بطفیل اس کے دور فرمائے ہماری تنگی کو

وَصَلَ عَلِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُؤْنِسُ بِهَا وَحْشَتَنَا وَصَلَ

اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بطفیل اس کے تبدیل فرمائے ہماری وحشت کو اس کے ساتھ۔ اور صلوٰۃ نازل

عَلِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَقْدَحُ بِهَا عَمَائِرُ دِينِنَا وَصَلَ عَلِي

فرما سیدنا محمد پر کہ بطفیل اس کے ہمیں فلاح و کامیابی بخشے ہلاکتوں سے اور صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَكْتُبُ بِهَا مَا يُنْجِينَا وَصَلَ عَلِي سَيِّدِنَا

سیدنا محمد پر کہ بطفیل اس کے لازم فرمائے ہمارے اسباب نجات کو اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَجِيبُ بِهَا عَنَّا الشَّرَّ كُلَّهُ وَصَلَ عَلِي سَيِّدِنَا

محمد پر کہ بطفیل اس کے دور فرمائے ہم سے ہر قسم کا شر اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَمْنَحُنَا بِهَا الْخَيْرَ كُلَّهُ وَصَلَ عَلِي سَيِّدِنَا

محمد پر کہ بطفیل اس کے عطا کرے ہمیں ہر قسم کی خیر اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَحْسِنُ بِهَا أَخْلَاقَنَا وَصَلَ عَلِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر کہ بطفیل اس کے حسین بنائے ہمارے اخلاق کو اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوَةٌ تُصْلِحُ بِهَا أَحْوَالَنَا وَصَلَ عَلِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

کہ بطفیل اس کے اصلاح فرمائے ہمارے احوال کی اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے

تَعْصِمُنَا بِهَا عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَالْغَوَايَةِ وَصَلَ عَلِي سَيِّدِنَا

طفیل محفوظ فرمائے ہمیں نافرمانی اور بے راہ روی سے اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَرْتُمُّ قُنَا بِهَا إِتِّبَاعَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَصَلَ

محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں نصیب فرمائے سنت رسول اور جماعت صحابہ کی پیروی اور صلوٰۃ نازل

عَلِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُبْعِدُنَا بِهَا مِنْ إِقْتِرَانِ الْأَفَاتِ وَ

فرما سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل دور فرمائے ہمیں آفات کے قربت سے اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَكَلِّمُنَا بِهَا عَنِ الزَّلَّاتِ وَالرَّهَقَاتِ

صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوة کے طفیل ہماری نگرانی فرمائے لغزشوں اور غلطیوں سے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْصِلُ بِهَا أَمْالَنَا وَصَلِّ

اور صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوة کے طفیل ہمیں ہمارے امیدیں اور تمنایں اور صلوة نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَخْلِصُ بِهَا لَكَ أَعْمَالَنَا وَصَلِّ

فرما سیدنا محمد پر جس صلوة کے طفیل خالص کرے اپنے لیے ہمارے اعمال کو اور صلوة نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَجْعَلُ بِهَا التَّقْوَى زَادَنَا وَصَلِّ عَلَى

فرما سیدنا محمد پر کہ بظیف اس کے بنائے تقویٰ کو ہمارا زاد راہ اور صلوة نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَزِيدُ بِهَا فِي دِينِكَ اجْتِهَادَنَا وَصَلِّ

فرما سیدنا محمد پر جس صلوة کے طفیل زیادہ فرمائے اپنے دین میں ہماری سعی اور کوشش کو اور صلوة نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْنَحُنَا بِهَا عِزًّا وَرَأْفَةً وَأَمَّا وَصَلِّ عَلَى

فرما سیدنا محمد پر جس صلوة کے طفیل عطا فرمائے ہیں عزت اور بزرگی اور صلوة نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَجْعَلُنَا بِهَا مِنْ عِبَادِكَ الَّذِينَ إِذَا مَرُّوا

سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں بنائے ان کامل بندوں سے جو اگر گزریں لغو اور

بِاللَّغْوِ مَرُّوا إِكْرَامًا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَجْعَلُنَا بِهَا مِنْ

بیہودہ امور کے پاس سے تو گزرے ہیں باوقار انداز سے اور صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوة کے طفیل بنا دے ہمیں

عِبَادِكَ الَّذِينَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَصَلِّ

ان بندگان خاص سے کہ جن سے جاہل مخاطب ہوں تو وہ کہتے ہیں ہمارا نہیں سلام ہو۔ اور صلوة نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ طُرُقِ الْبِهَالِكِ وَ

فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں پناہ دے ہلاکت کی راہوں سے اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ سُوءِ الْمَسَالِكِ

صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوة کے طفیل ہمیں بچائے بُرے راستوں سے



وَرَوْعَةَ الْمَهَالِكِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْفَظُنَا

اور ہلاکتوں کے خوف و اندیشہ سے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں محفوظ فرمائے

بِهَاعْمَالٍ يَشْغُلُنَا عَنْكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

اپنی ذات سے غافل کرنے والی چیزوں سے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل

تَوْفِيقًا يَخْتِجُنَا فِي أَعْمَالِنَا قَرِيبًا مِنْكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

توفیق بخشنے ایسے اعمال کی جو تیرے قریب کریں اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے

تَجْعَلُ بِهَا سَعِينًا مَشْكُورًا وَعَمَلِنَا مَقْبُولًا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

طفیل بنائے ہماری سعی اور کوشش شکر و جزا کے قابل اور ہمارے اعمال مقبول۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْنَحُنَا بِهَا عِزًّا وَقَبُولًا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں عزت و قبولیت عطا فرمائے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوةً تَقْطَعُ بِهَا عَيْنُنْ سِوَاكَ إِحْتِيَاجِنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

جس صلوات کے طفیل ختم فرمائے اپنے سوا سے ہماری محتاجی اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُدِيمُ بِهَا بِنِعْمَتِكَ ابْتِهَاجِنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر جس صلوات کے طفیل دائمی بنائے اپنی نعمتوں کے ساتھ ہماری خوشی اور مسرت اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوةً تَكُونُ بِهَا فِي جَمِيعِ أُمُورِنَا وَكَيْلًا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس صلوات کے طفیل تمام امور میں تو ہمارا کارساز ہو۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوةً تَكُونُ بِهَا لِقَضَاءِ حَوَائِجِنَا كَفِيلًا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس صلوات کے طفیل تو ہو ہماری حاجت روائی میں کفیل و ضامن اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ سُوءِ الصَّنِيعِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

جس صلوات کے طفیل تو بچائے ہمیں بری کاروائی سے۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات

تُعِيدُنَا بِهَا مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الصَّنِيعُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

کے طفیل ہمیں بچائے بھوک سے کیونکہ وہ بری مصاحب ہے۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تُطَهِّرُنَا بِهَا الْفُرُوجَ مِنَ الزَّنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر جس صلوات کے طفیل پاک فرمائے ہماری شرمگاہوں کو زنا سے۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوَاتُكَ تَنْيِلُنَا بِهَا الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعَفَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس صلوات کے طفیل عطا کرے ہمیں تقویٰ و ہدایت اور عفو و درگزر۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوَاتُكَ تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ قَرِينِ السُّوءِ وَصَاحِبِ الْعُقْلَةِ وَصَلِّ

جس صلوات کے طفیل ہمیں بچائے برے ساتھیوں اور غافلوں سے۔ اور صلوات نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تُعِيدُنَا بِهَا مِنَ الدَّلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَصَلِّ عَلَى

فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل بچائے ہمیں دلت اور قلت سے اور صلوات نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تُطَهِّرُنَا بِهَا أَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكِبَابِ وَصَلِّ عَلَى

سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل پاک فرمائے ہماری زبانوں کو جھوٹ سے اور صلوات نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَبَاعِدُنَا بِهَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَطَايَا نَا كَمَا بَاعَدَتْ

سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل دوری پیدا فرمائے ہمارے درمیان اور گناہوں کے درمیان جیسے دوری پیدا فرمائی تھیں

بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تُعِيدُنَا بِهَا

مشرق اور مغرب کے درمیان اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل پناہ دے ہمیں

مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَفِتْنَتِهِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ أَخَذْتَنَا بِصَلَاتِهِ

قبر کی تاریکی اور امتحان سے اور ہر اس شے کے شر سے کہ جس کی پیشانی کو تو اپنے دست قدرت میں لیے ہوئے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تُقَوِّبُنَا بِهَا عَلَى طَاعَتِكَ وَتَدْخُلُنَا

ہے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے اور داخل فرمائے ہمیں

بِهَافِي حَفِظْ عَنَّا يَتِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تُعِزُّنَا بِهَا

اپنی عنایت کی پناہ میں اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل عزت بخشنے ہمیں

عِزًّا أَدُلَّ مَعَهُ وَتَرْزُقُنَا بِهَا رِزْقًا بَسْطًا فِي الْأَنَامِ وَسَعَةً وَصَلِّ

ایسی کامل عزت کہ جس کے ساتھ ولت اور نحراری بالکل نہ ہو اور رزق عطا فرمائے ہمیں بطفیل اس کے وسیع اور فراخ اور صلوات نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَدْفَعُ بِهَا عَنَّا مَشِيئَةَ مَنْ سَرَّ أَمَنَا

فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل دور فرمائے ہم سے برا قصد اور ارادہ لوگوں کا ساتھ اپنی مشیت غالبہ کے

بِمَشِيئَتِكَ وَتُخْرِجُنَا بِهَا مِنَ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ رَحْمَتِكَ وَصَلِّ

اور نکالے ہمیں اس کے طفیل دُنیا سے اپنی وسیع رحمت کی طرف اور صلوات نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْبَلَايَا وَتَمْنَحُنَا

فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں بجائے تمام تر بلیات سے اور عطا فرمائے ہمیں

بِهَا جَزِيلَ الْعَطَايَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَرْزُقُنَا بِهَا

عظیم عطیات اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں عطا فرمائے

عَيْشَ الرَّغْدَاءِ وَتَمْنَحُنَا بِهَا عَيْشَ السُّعْدَاءِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

خوشگوار گذران اور بخشے اس کے طفیل سعادت مندوں والی زندگانی اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُسَهِّلُ بِهَا عَلَيْنَا جَمِيعَ الْأُمُورِ وَتُدِيمُ بِهَا عَلَيْنَا بَرْدَ

محمد پر جس صلوات کے طفیل آسان فرمائے ہم پر تمام امور اور دائم رکھے ہم پر بطفیل اس کے خوشگوار

الْعَيْشِ وَالسُّرُورِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَبَارِكُ بِهَا فِيهَا

زندگانی اور سرور۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل برکت دے اس میں جو

أَعْطَيْتَنَا وَتَمْنَحُنَا بِهَا الرِّضَا بِمَا آتَيْتَنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہمیں عطا فرمایا اور بخشے ہمیں بطفیل اس کے رضامندی ساتھ اس کے جو دیا ہے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوَةٌ تَرْكِي بِهَا عَنِ الْهَوَى نَفُوسَنَا وَتُطَهِّرُنَا بِهَا عَمَّنْ سِوَاكَ

جس صلوات کے طفیل پاک فرمائے خواہش سے ہمارے نفوس کو اور پاک فرمائے بطفیل اس کے سینے ماسوا سے

قُلُوبَنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُصَغِّرُ بِهَا الدُّنْيَا فِي

ہمارے قلوب کو اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل حقیر بنا دے دُنیا کو

عِيُونَنَا وَتُعْظِمُ بِهَا جَلَالَكَ فِي قُلُوبِنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ہماری نظروں میں اور عظیم بنا دے اپنے جلال کو ہمارے دلوں میں۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَرْضِينَا بِهَا بِقَضَائِكَ وَتَوْفِيقُكَ بِهَا شُكْرُكَ

محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں راضی کرے ساتھ اپنی قضاء کے اور توفیق بخشنے اپنی نعمتوں کے

نَعْبَائِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تُصَحِّحُ بِهَا تَوَكُّلَنَا وَ

شکر کی ۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل درست فرمائے ہمارا توکل اور

إِعْتِمَادَنَا عَلَيْكَ وَتُحَقِّقُ بِهَا وَتُؤَقِّنَا وَالْتِمَاجَ إِلَى نَا إِلَيْكَ وَصَلِّ

اعتماد اپنی ذات پر اور مہمایت فرمائے ہمارے وثوق اور اتجار کو طرف اپنی ذات کے اور صلوات نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَنْجِينَا بِهَا مِنْ مُضَلَّاتِ الْفِتَنِ وَتُنْقِذُنَا

فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں نجات دے گمراہ کن فتنوں سے اور بچائے خواری

بِهَا مِنَ الْهُوَانِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَنِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَرْزُقُنَا

سے خبیہ اور علانیہ حالت میں ۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں

بِهَا حِفْظَ كِتَابِكَ وَتَقِيْنَا بِهَا شَرَّ عِقَابِكَ وَالْيَمْرَعَةَ بِكَ وَصَلِّ

نصیب فرمائے کتاب کے حفظ کی توفیق اور بچائے بسبب اس کے اپنے برے عقاب اور درناک عذاب ۔ اور صلوات

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَهْدِينَا بِهَا لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ

نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں ہدایت بخشنے اختلافی امور میں حق کی

وَتُعِيدُنَا بِهَا مِنْ شَرِّ جَمِيعِ الْخَلْقِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور بچائے تمام مخلوق کے شر سے ۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوَاتُكَ تَقِيْنَا بِهَا شَرَّ الْأَعْدَاءِ وَتَجَلِّي بِهَا عَنَّا الصَّدَا وَتَرْحَمُنَا

جس صلوات کے طفیل ہمیں بچائے اعداء کے شر سے اور دور کرے ہمارے (قلوب) زنگ کو اور رحم فرمائے ہم پر

بِهَا بِتَرْكِ الْعَاصِي أَيْدًا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تُعَجِّلُ

بطویل اس کے ہمیشہ کے جیسے گناہوں کے ترک کے ساتھ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل جلدی

لَنَا بِهَا عَافِيَتَكَ وَتُعَرِّفُ بِهَا قُلُوبَنَا إِلَى مَعْرِفَتِكَ وَطَاعَتِكَ وَصَلِّ

اعطا کرے ہمیں عافیت اور رہنمائی فرمائے ہمارے قلوب کی اپنے معرفت و اطاعت کی طرف اور صلوات نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرْضِيكَ وَتَرْضِي بِهِاعِنَا وَتَجِدُ بِهَا

سیدنا محمد پر جو صلوات تھے راضی کرے اور انہیں راضی کرے اور راضی ہو تو بطویل اس کے ہم سے اور پورا کرے

مَافَاتٍ مِّنَّا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنَ الْعُجْبِ وَ

ہماری کمی اور کوتاہی کو۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل پناہ دے ہیں تکبر اور

الرِّيَاءِ وَتَحْفَظُنَا بِهَا مِنَ الْحَسَدِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ریاکاری سے اور محفوظ فرمائے حسد اور تکبر سے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات

صَلَوةً تَكْسِرُ بِهَا شَهْوَاتِنَا وَتُصَلِّحُ بِهَا عَادَاتِنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

کے طفیل توڑ دے ہماری خواہشات نفس کو اور اصلاح فرمائے ہماری عادات کی اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُصَرِّفُ بِهَا عَنِ الدُّنْيَا وَلَدَاتِهَا قُلُوبَنَا وَتَجْمَعُ بِهَا فِي

پر جس کے طفیل پھیر دے دنیا اور اس کی لذتوں سے ہمارے قلوب کو اور مجتمع فرمائے اپنے

الْإِسْتِيْقَابِ إِلَيْكَ هُمُومَنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُوَحِّشُنَا

اشتقاق میں ہمارے عزم اور ارادوں کو۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل تنفر کرے

بِهَاعْتِنِ سِوَاكَ وَتُوَسِّنُنَا بِهَا بِقُرْبِكَ وَوَلَائِكَ وَصَلِّ عَلَى

ہیں اپنے ماسوا سے اور مانوس فرمائے ہمیں اپنی قربت اور دوستی کے ساتھ اور صلوات نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُقَرِّبُنَا فِي مَنَاجَاتِكَ عِيُونَنَا وَتُحَسِّنُ بِهَا

سیدنا محمد پر جس کے طفیل ٹھنڈا کرے اپنی مناجات میں ہماری آنکھیں اور اچھا کرے اپنے ساتھ

بِكَ ظُنُونَنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُشَرِّحُ بِهَا بِعُرْفَتِكَ

ہمارے گمانوں کو اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل کشادہ فرمائے اپنی معرفت کے ساتھ

صَدُورَنَا وَتُدِيمُ بِهَا فِي ذِكْرِكَ وَفِكْرِكَ سُرُورَنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ہمارے سینوں کو اور دائمی بنا دے اپنے ذکر و فکر میں ہمارے سرور کو۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَرْفَعُنَا بِهَا مَنَزِلَتَنَا وَمَكَانَنَا لَدَيْكَ وَتُحَلِّنَا بِهَا مَنَازِلَ

محمد پر جس کے طفیل بلند فرمائے اپنے ہاں ہمارے مقام و منزلت کو اور اتارے بطویل اس کے ہمیں اپنی طرف

السَّارِبِينَ إِلَيْكَ وَصَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَسْتَحِقُّ بِهَا فِي

چلتے والوں کی شانل میں اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ثابت و پائیدار کرے

أَرَادَتِكَ أَمَلْنَا وَتَمَحَّقُ بِهَا فِي أفعالِكَ أَفْعَالَنَا وَصَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

اپنے ارادہ میں ہماری امیدوں کو اور تمنا کر دے اپنے افعال میں ہمارے افعال کو اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَفِيءُ بِهَا فِي صِفَاتِكَ صِفَاتِنَا وَتَدْحُو بِهَا فِي ذَاتِكَ

محمد پر جس کے طفیل تمنا کرے اپنی صفات میں ہماری صفات کو اور دھوکہ دے ہماری ذاتوں کو اپنی ذات

ذَوَاتِنَا وَصَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُحَقِّقُ بِهَا إِلَيْكَ لِقَائَنَا وَ

میں۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل یعنی بنائے ہماری اپنے ساتھ ملاقات کو اور

تُدِيمُ بِهَا بِنَوَائِرِ أَنْوَارِكَ صَفَاءَنَا وَصَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

دامی بنائے بطیفیل اس کے اپنے انوار کے تسلسل سے ہماری صفات باطن کو اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات

تَخْتِمُ لَنَا بِهَا بِخَيْرِ أَعْمَالِنَا وَصَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

کے طفیل ہمارا خاتمہ اچھے اعمال پر کرے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل

تُدْهِبُ بِهَا عَنَّا غَيْظَ قُلُوبِنَا وَتَكْفِينَا بِهَا شَرَّ الْأَنَامِ وَتَعْصِمُنَا

دور فرمائے ہمارے قلوب کا غیظ و غضب اور کفایت فرمائے ہمیں مخلوق کے شر سے اور محفوظ فرمائے ہمیں

بِهَامِنِ الْغِيِّ وَالْأَثَامِ وَصَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُدَيِّقُنَا بِهَا

گمراہی اور گناہوں سے۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں چھوٹے

بُرْدَ عَفْوِكَ وَتَرْتَرُنَا بِهَا حُبِّكَ وَحُبِّ مَنْ يَنْفَعُنَا حُبَّهُ عِنْدَكَ

اپنی عفو کی ٹھنڈک اور عطا کرے ہمیں اپنی محبت اور ہر اس شخص کی محبت جس کی محبت نفع دے ہمیں تیرے ہاں

وَصَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا عَنِ فِعْلِ كُلِّ مُبْتَدِعٍ

اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں بجائے ہر بدعتی کے فعل سے

وَتَرْتَرُنَا بِهَا نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَقَرَّةً عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَصَلِّ عَلَيَّ

اور عطا کرے بطیفیل اس کے نہ ختم ہونے والی نعمتیں اور نہ منقطع ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک اور صلوات نازل فرما



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَرْتُقِنَا بِهَا حُسْنَ الظَّنِّ فِيمَا يَرْضِيكَ

سیدنا محمد پر جس کے طفیل عطا فرمائے ہیں حسن ظن ان امور میں جو بخشنے والی تھی کریں اور انہما

وَتُلْهِمُنَا بِهَا لِكُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ يَنْفَعُنَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

فرمائے ہمیں ہر نیک عمل کا جو ہمیں نفع دے تیرے حضور۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَدْخُلُنَا بِهَا ظِلًّا ظَلِيلًا وَتَسْتُرُنَا بِهَا سِتْرًا جَمِيلًا وَ

محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں داخل فرمائے (جنت کے) گھنے سایوں میں اور چھپائے ہمیں اچھے انداز میں اور

تَحْبِينًا بِهَا مِنَ الْأَشْرَارِ وَتَكْفِينَا بِهَا شَرَّ مَا يَأْتِي بِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ

نگاہ رکھے ہمیں شریروں سے اور کفایت فرمائے ہمیں شب و روز کے لائے ہوئے شر سے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تُسَلِّكُنَا بِهَا مَسْلَكَ أَوْلِيَاءِكَ وَتُرْوِينَا

اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں جلائے اولیاء کے مسلک پر اور سیراب فرمائے

بِهَا مِنْ شَرَابِ أَصْفِيَاءِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تُوَصِّلُنَا

ہمیں اپنے اصفیاء کی شراب سے۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں اپنے تک واصل

بِهَا إِلَيْكَ وَتُدْعِمُ بِهَا حُضُورَنَا إِلَيْكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فرمائے اور دائمی بنادے اپنے حضور ہماری حاضری۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوَاتُكَ تُهَوِّنُ بِهَا عَلَيْنَا سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَغَمْرَاتِهِ وَتُجِيرُنَا بِهَا

جس صلوات کے طفیل آسان فرمائے ہم پر موت کی شدتیں اور سختیاں اور بچائے ہمیں بطفیل اس کے

مِنْ وَحْشَةِ الْقَبْرِ وَكُرْبَتِهِ وَتَمْلَأُ بِهَا قُبُورَنَا بِأَنْوَارِ الرَّحْمَةِ وَ

قبر کی وحشت اور تنگی سے اور بھر دے بطفیل اس کے ہماری قبروں کو انوار رحمت کے ساتھ اور

تَجْعَلُ بِهَا قَبْرَنَا رَوْضَةً مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

بنادے بطفیل اس کے ہماری قبروں کو جنت کے باغیچے۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَحْشُرُنَا بِهَا مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَتَبْعَتُنَا بِهَا

محمد پر جس کے طفیل ہمیں اٹھائے بروز قیامت انبیاء و صدیقین کے ساتھ اور اٹھائے ہمیں

مَعَ الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَتَمْنَحُنَا بِهَا قُرْبَهُ وَشَفَاعَتَهُ وَتُفِيضُ

شهداء اور صالحین کے ساتھ اور عطا فرمائے ہمیں نبی اکرم کا قرب اور شفاعت اور جاری فرمائے ہم پر

بِهَا عَلَيْنَا بَرَكَتَهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُبَلِّغُنَا بِهَا الْمُنَا

ان کی برکت - اور صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں پہنچائے آرزوں تک

وَتَرْزُقُنَا بِهَا الْقُصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَتُنِيلُنَا بِهَا فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

اور عطا فرمائے میاں روی فقر اور غنا میں اور میسر فرمائے ہمیں بطفیل اس کے نیکیاں کرنا

وَتُعِيدُنَا بِهَا مِنْ فِعْلِ السَّيِّئَاتِ وَالْمُنْكَرَاتِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور بچائے بطفیل اس کے براہوں اور گناہوں کے فعل سے اور صلوة نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْفَظُنَا بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَشْبِلُنَا بِهَا

محمد پر کہ محفوظ فرمائے بطفیل اس کے قیامت کے دن کی ہر شدت سے اور احاطہ فرمائے اس کے

يَوْمَ الْجَزَاءِ بِالرَّحْمَةِ وَالْكَرَامَةِ وَتَثِقُلُ بِهَا مِيزَانَنَا وَتَثْبُتُ بِهَا

قیامت کے دن ساتھ رحمت اور کرم کے اور وزنی فرمائے ہمارے میزان کو اور ثابت رکھے بطفیل اس کے

عَلَى الصِّرَاطِ أَقْدَامَنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا عَنِ

پہل صراط پر ہمارے اقدام کو - اور صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بطفیل اس کے بچائے ہمیں

الْحَمِيمِ وَالْجَحِيمِ وَتَرْزُقُنَا بِهَا النَّعِيمَ وَتَشْبَعُ بِهَا مَتَا جُوعَاتِنَا وَ

دوزخ کے گرم پانی سے اور دوزخ سے - اور عطا فرمائے ہمیں نعمتیں اور سیر فرمائے بطفیل اس کے ہماری بھوکوں کو

تُنَفِّسُ بِهَا عَنَّا كُرْبَاتِنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُزِيلُ بِهَا

اور دور کرے ہم سے ہماری شدتوں اور سختیوں کو - اور صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوة کے طفیل زائل کرے

عَنَّا مَكْرَ الْمَاكِرِينَ وَتُزَيِّنُنَا بِهَا بِزِينَةِ الْمُتَّقِينَ وَتُعَلِّمُنَا بِهَا مَا

ہم سے اہل مکر کا مکر اور مزین فرمائے ہمیں اہل فتویٰ کی زینت کے ساتھ اور سکھائے بطفیل اس کے

جَهْلَنَا وَتُلْهِمُنَا بِهَا مَا يَنْفَعُنَا وَتُدْفِعُ عَنَّا مَا يَضُرُّنَا وَتُغَيِّثُنَا بِهَا

جس سے ہم جاہل ہیں اور انعام فرمائے اس کا جو ہمیں نفع دے - اور دور فرمائے جو ہمیں ضرر دے اور عطا فرمائے ہمیں



غَيْثًا تَأْفَعًا وَتَمْنَحُنَا بِهَا عَفْوًا وَاسْعًا وَصَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

نفع رسال بارش اور عطا فرمائے وسیع عفو و درگزر۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات

تَرْفَعُ لَنَا بِهَا الْأَعْمَالَ وَتَرْجُو بِهَا الشَّفَاعَةَ إِذَا انْقَطَعَتِ الْأَمَالَ

کے طفیل بلند فرمائے ہمارے اعمال اور امید رکھیں ہم شفاعت کی جب کہ منقطع ہو جائیں امیدیں

وَتَمْنَحُنَا بِهَا الْيُسْرَى وَتَدْفَعُ بِهَا عَنَّا الْبُاسَاءَ وَالضَّرَّاءَ وَتَحْفَظُنَا

اور بچائے ہیں لطیفی اس کے سہولت اور دور کرے ہم سے شدت اور ضرر اور محفوظ فرمائے ہمیں

بِهَا مِنَ الْهَجْسِ وَالْهَوَسِ وَتُنَقِّي بِهَا عَنَّا خَطِيَا نَا كَمَا يُنَقِّي

لطیفی اس کے بُرے خیالات اور حرص و ہوا سے اور دور فرمائے ہم سے ہمارے گناہ جیسے پاک کیا جاتا ہے

الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَصَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

سفید کپڑا میں پکیلا سے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل

تَرْفُقُنَا بِهَا الْقَنَاعَةَ وَتُعِزُّنَا بِهَا عِزَّ الطَّاعَةِ وَتَرْحَمُنَا بِهَا فِيمَنْ

ہمیں تقاضت عطا کرے اور اطاعت گزاری کی عزت سے سرفراز فرمائے اور رحم فرمائے ہم پر

تَرْحَمُ وَتَتَجَاوَزُ بِهَا عَنَّا تَعْلَمُ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا بَلَاغًا حَسَنًا وَتُنَوِّرُ

رحمت کے حقداروں میں اور درگزر فرمائے ہمارے گناہوں سے جو تیرے علم میں ہیں اور پہنچائے ہمیں اچھے مقام پر اور

بِهَا مَتَا الْقُلُوبِ سِرًّا وَعَلَانًا وَصَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

منور فرمائے لطیفی اس کے ہمارے قلوب کو خفیہ اور علانیہ طور پر اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل

تُدْخِلُنَا بِهَا جَنَّةَ التَّعِيمِ بِلا حِسَابٍ وَتُبَيِّحُ لَنَا بِهَا النَّظَرَ إِلَى

ہمیں داخل فرمائے جنت تعیم میں بغیر حساب کے اور مباح فرمائے ہمارے لیے نظر طرہ اپنی ذات

وَجْهَكَ الْكَرِيمِ مَعَ الْأَحْبَابِ اللَّهُمَّ ارْشِدْنَا السِّرَّ الْخَفِيِّ مِنْ

کریم کے مع تمام احباب کے۔ اے اللہ ہمیں رہنمائی فرما اپنے سر مخفی کی

سِرِّ سِرِّكَ الْخَفِيِّ الْخَفِيِّ الْخَفِيِّ مَعَ الْمُوَحِّدِينَ الْوَاصِلِينَ

اپنے مخفی ترین اسرار میں سے ساتھ موحدین و واصلین کے



وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا نُقْطَةَ مَرْكَزِ جَمِيعِ التَّجَلِّيَّاتِ وَيَا عَيْنَ حَيَاةِ

اور رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ پر اے تمام تجلیات کے مرکزی لفظ اور اے حسن کے سرچشمہ

الْحُسْنِ الَّذِي طَارَتْ مِنْهُ الرَّشَاشَاتُ فَاقْتَسَمَتْهَا بِحُكْمِ الْمَشِيئَةِ

آبجیات جس سے چھینٹے اڑے پس ان سے حصہ وصول کیا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق

إِلَىٰ لِهَيْتِهِ جَمِيعَ الْمُبْدَعَاتِ وَيَا مَعْنَىٰ كِتَابِ الْحُسْنِ الْمَطْلُوقِ الَّذِي

تمام مخلوقات نے اور اے حسن مطلق کی کتاب کے معنی و مقصود جو کہ وجود و متحقق

إِعْتَكَفَتْ فِي حَضْرَةِ جَمِيعِ الْمَحَاسِنِ لِتَقْرَأَ أَحْرُوفَ حُسْنِهِ الْمَقِيدَاتِ

ہے تمام محاسن کی جلوہ گاہوں میں تاکہ قراءت کریں ان کے نقوش حسن کی تمام مقیدات

وَيَا مَنْ أَرَحَيْتَ حَقَائِقَ الْكَمَالِ كُلِّهَا بِرَفْعِ الْحِجَابِ دُونَ الْخَلْقِ وَ

اے کہ پھیلائے تو نے کمال کے حقائق تمام تر مخلوق کے سامنے سے حجاب اٹھا کر اور

اجْمَعْتَ أَنْ لَا تَنْظُرَ لِغَيْرِهِ إِلَّا بِهِ مِنْ جَمِيعِ الْمَكُونَاتِ وَيَا فَصَبَ

پختہ عزم کر رکھا ہے تو نے کہ نہ نظر کرے طرف ماسوا کے تمام مخلوقات سے مگر ساتھ اسی کے اور اے

يُنَابِيعِ تَجَارِحِ الْأَنْوَارِ السُّبْحَانِيَّاتِ الشَّعْشَعَانِيَّاتِ وَيَا مَنْ

جگہ گرنے تمام چھیلے انوار سبحانیہ کے موجیں مارنے چشموں کی اور اے کہ

تَعَشَّقَتْ بِكَمَالِهِ جَمِيعَ الْمَحَاسِنِ الْإِلَهِيَّاتِ وَيَا قُوَّةَ الْأَنْزَلِ

عاشق ہو چکے ہیں ان کے کمال پر تمام تر محاسن الہیہ اور اے ازل یا قوت

يَا مَقْنَطِيرِيسَ الْكَمَالَاتِ قَدْ أَيْسَتْ الْعُقُولُ وَالْفُهُومُ وَالْأَلْسُنُ

اے کمالات کے مقناطیس تحقیق مایوس و نامید ہو چکے تمام عقل و فہم اور زبانیہ

وَجَمِيعِ الْإِدْرَاكَاتِ أَنْ تَقْرَأَ رُقُومَ مَسْطُورِ كُنْهِيَّاتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ

اور تمام اقسام ادراک کے کہ پڑھ سکیں محمدی حقائق کے کھے ہوئے نقوش کو

أَوْ تَصِلَ إِلَى حَقِيقَةِ مَكُونَاتِ عُلُومِكَ اللَّدُنِّيَّاتِ وَكَيْفَ لَا

یا پہنچ سکیں ہمتارے علوم لدنیہ کے کمون و مستور حقائق تک اور کیونکر اس طرح نہ ہو



يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنْ لَوْحٍ مَحْفُوظٍ كُنْهَكَ قَرَأَ الْمُقَرَّبُونَ كُلُّهُمْ

اے رسول اللہ جبکہ تمہاری حقیقت و کمنہ کی لوح محفوظ سے ہی پڑھا ہے تمام مقربین نے

حَقِيقَةً تَجَلِّيَاتِكَ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا زَيْنَ الْبِرِّ يَا يَا مَنْ

آپ کی تجلیات کی حقیقت کو۔ رحمت کاملہ نازل فرمائی اللہ تعالیٰ آپ پر اے تمام مخلوقات کی زینت اور

لَوْلَا هُوَ لَمْ تَظْهَرِ لِلْعَالَمِ عَيْنٌ مِّنَ الْخَفِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اے کہ اگر وہ موجود نہ ہوتے تو نہ ظہور پذیر ہوتا جہان کا کوئی فرد پر دلہنے عدم و خفا سے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُورِكَ اللَّامِعِ وَمَظْهَرِ سِرِّكَ الْهَامِعِ الَّذِي طَرَزَتْ

ہمارے آقا محمد پر جو تیرے روشن نور ہیں اور تیرے راز کے مظہر جس کے جمال کے ساتھ مزین فرمایا تو نے

بِحِبَالِهِ الْأَكْوَانَ وَتَرَيِّدَتْ بِبَهْجَةِ جَلَالِهِ الْأَوَانَ الَّذِي فَتَحَتْ

تمام جہانوں کو اور مزین کیا ان کے حلال کی رونق کے ساتھ تمام زمانوں کو۔ جن کے نور حقیقت سے

ظُهُورَ الْعَالَمِ مِنْ نُورِ حَقِيقَتِهِ وَخَتَمَتْ كِمَالَهُ بِأَسْرَارِ نُبُوَّتِهِ

آغاز کیا تو نے ظہور عالم کا اور سر بہر کیا ان کے کمال کو اسرار نبوت کے ساتھ

فَظَهَرَتْ صُورُ الْحُسْنِ مِنْ فَيْضِهِ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَلَوْلَا هُوَ

پس ظاہر ہوئیں حسن کی صورتیں ان کے فیض سے احسن انداز میں اور اگر وہ نہ ہوتے

مَا ظَهَرَتْ لِصُورَةٍ عَيْنٌ مِّنَ الْعَدَمِ الرَّمِيمِ الَّذِي مَا اسْتَعَاثَكَ

تو نہ ظاہر ہوتا کسی صورت کا جو ہر شخص بوسیدہ عدم سے۔ وہ کہ جس بھوکے نے بھی ان کے ساتھ تجھ سے توسل کیا

بِهِ جَانِعٌ إِلَّا شَيْعَةً وَلَا ظَهْمَانٌ إِلَّا رُؤْيًى وَلَا خَائِفٌ إِلَّا أَمِنٌ وَلَا لَهْفَانٌ

تو وہ سیر ہو گیا اور جس پیاسے نے تو وہ سیراب ہو گیا اور نہ خوفزدہ لے گھرا امن میں ہو گیا اور نہ افسوس والے نے

إِلَّا أَعْيَتْ وَإِنِّي لِحَقَّانٌ مُسْتَعِيثُكَ اسْتَبَطِرُ رَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةَ

مگر اس کی امداد کی گئی اور میں افسوس زدہ ہوں۔ فریاد ہی ہوں طلب کرتا ہوں تیری وسیع رحمت کی بارش

مِنْ خَزَائِنِ جُودِكَ فَأَعِثْنِي يَا رَحْمَنُ يَا مَنْ إِذَا نَظَرَ بَعَيْنٍ حَلِيهِ

تیرے جوہر نوال کے خزانوں سے پس میری فریاد کو پہنچ اے رحمن اے کہ اگر نظر فرمائے اپنے بھل اور غفرو کی

وَعَفْوَةٌ لَمْ يَطْهَرْ فِي جَنْبٍ كَبْرِيَاءٍ حَلْبَهُ وَعَظْمَةٌ عَفْوَةٌ ذَنْبٌ

نگاہ سے تو نہ ظاہر ہو اس کے تحمل کی بڑائی اور عفو کی عظمت کے پہلو میں کوئی گناہ پس مغفرت فرما میرے لیے

فَاغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ وَتَجَاوَزْ عَنِّي يَا كَرِيمَ اللَّهِ مَصِلٌ عَلَى عَيْنِ بَحْرٍ

اور مجھ پر نظر رحمت فرما اور مجھ سے درگزر فرما دے کریم۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما حقائق وجودیہ

الْحَقَائِقِ الْوُجُودِيَّةِ الْمَطْلُوقَةِ الْلاهُوتِيَّةِ وَمَنْبِعِ الدَّقَائِقِ اللَّطِيفَةِ

مطلقہ، لاہوتیہ کے سرچشمہ پر اور دقائق لطیفہ مقیدیہ جسمانیہ کے

الْمَقِيدَةِ النَّاسُوتِيَّةِ صُورَةِ الْجَمَالِ وَمَطْلَعِ الْجَلَالِ وَجَلَى الْأَوْهِيَّةِ

منبع پیر جو جمال کی صورت اور جلال کا مطلع اور الوہیت کی جلوہ گاہ ہیں اور سربستہ

وَسِرِّ اِطْلَاقِ الْاِحْدِيَّةِ وَعَرْشِ اِسْتِوَاءِ الدَّاتِ وَوَجْهِ مَحَاسِنِ

راز ہیں احدیت مطلقہ کے اور عرش ہیں تیری ذات کے استواء وعلیہ کا اور چہرہ اور منظر ہیں حسین

الْصِّفَاتِ وَمَزْيَلِ بُرْقِعِ حِجَابِ ظُلُمَاتِ اللَّبِيسِ بَطْلَعَةِ شَمْسِ

صفات کا۔ اور زائل کرنے والے ہیں اشتباہ و اقباس کی ظلمات کے حجاب و برقع کو ساتھ نفیس ترین ذات کے

حَقَائِقِ كُنْهِ ذَاتِهِ الْاَنْفِيسِ عَنْ وَجْهِ تَجَلِّيَّاتِ الْكَمَالِ الْاِلَهِيِّ

حقائق کنہ و باطن کے آفتاب کی طلعت کے الوہیت کے کمال اقدس کی تجلیات کے چہرہ سے

الْاَقْدَسِ وَكِتَابِ مَسْطُورِ جَمْعِ اِحْدِيَّةِ الدَّاتِ الْحَقِّ فِي رِقِّ لَنْشُورِ

جو لکھی ہوئی کتاب ہیں ذات حق کی احدیت کے مرتبہ جمع کے وسیع و عریض طومار میں جو کہ ہے شوق الہیہ

تَجَلِّيَّاتِ الشُّعُونِ الْاِلَهِيَّةِ الْمَسْتَوِيَّةِ بِكَثْرَةِ صُورِهَا بِالْخَلْقِ وَجَانِبِ

کے تجلیات کا جس کو موسوم کیا گیا ہے صورتوں کی کثرت کی وجہ سے خلق کے ساتھ اور جو جانب امین ہیں کوہ طور

طُورِ الْحَقَائِقِ الرُّوحِيَّةِ الْاَيْمَنِ الْمَكْلَمِ مِنْهُ مَوْسَى النَّفْسِ يَا نَا اللَّهَ

کی بارگاہ قدس میں واسطے حقائق روحیہ الایمن کے جس سے موسیٰ نے نفس کے ساتھ کلام کیا گیا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں

لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا فِي حَضْرَةِ الْقُدْسِ يَا كَامِلَ الدَّاتِ يَا جَمِيلَ الصِّفَاتِ يَا

نہیں معبود برحق مگر میں۔ اے کامل ذات والے، اے جمیل صفات والے۔ اے



مُنْتَهَى الْغَايَاتِ يَا نُورَ الْحَقِّ يَا سِرَاجَ الْعَوَالِمِ يَا مُحَمَّدًا يَا أَحْمَدًا يَا

تمام غایات کا منتہا۔ اے نور حق۔ اے تمام جہانوں کے روشن چراغ۔ اے محمد۔ اے احمد۔ اے

أَبَا الْقَاسِمِ جَلَّ كَمَالُكَ أَنْ يُعْبَدَ عَنْهُ لِسَانٌ وَعَزَّ جَبَالُكَ أَنْ يَكُونَ

ابوالقاسم تیرا کمال اس سے بلند تر ہے کہ اسے کوئی زبان بیان کر سکے اور آپ کا جلال عزیز و غائب اس سے کہ وہ

مُدْرِكًا لِإِنْسَانٍ وَتَعَاظِمَ جَلَالُكَ أَنْ يَخْطُرَ فِي جَنَانٍ صَلَّى اللَّهُ سُبْحَانَهُ

اساطہ کیا ہوا ہو کسی انسان کا اور آپ کا جلال عظیم تر ہے اس سے کہ کھٹکے کسی دل میں۔ صلوات و سلام نازل فرمائے اللہ سبحانہ

وَتَعَالَى عَلَيْكَ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا مَجْلَى الْكَمَالَاتِ الْإِلَهِيَّةِ

و تعالیٰ آپ پر یا رسول اللہ۔ اے کمالات الہیہ کی عظیم تر جلوہ گاہ

الْأَعْظَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سُلْطَانِ حَضْرَاتِ الذَّاتِ مَالِكِ أَرْمَةِ

اے اللہ صلوات نازل فرما اپنی ذات والا کی بارگاہوں کے سلطان

تَجَلِّيَاتِ الصِّفَاتِ وَقُطْبِ رَحَى عَوَالِمِ الْأُلُوْهِيَّةِ وَكَثِيبِ الرُّوْيَةِ

پر۔ تجلیات صفات کی لگاموں کے مالک پر۔ الوہیت کے جہانوں کی چکی کے قطب و مرکز پر اور اپنی رویت

يَوْمَ الدُّوْرِ الْأَعْظَمِ فِي مَشَاهِدِكَ الْجَنَانِيَّةِ وَجِبَالِ مَوْجِ بَحَارِ

کے طور ٹیلے پر دور اعظم میں اپنی قلبی مشاہد و جلوہ گاہوں میں اور ذات احدیہ کے سمندروں کی

الذَّاتِ الْأَحْدِيَّةِ وَطَلْسَمِ كُنُوزِ الْمَعَارِفِ الْإِلَهِيَّاتِ الدَّائِمَاتِ وَ

پہاڑوں جیسی موج اور لہر پر الوہیات کے معارف ذاتیہ کے خزانوں کے (محافظ) طلسم پر اور مخلوقات کے صفات احاطیہ کے

سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى الْإِحَاطِيَّاتِ الْخَلْقِيَّاتِ الصِّفَاتِيَّاتِ وَبَيْتِ مَعْمُورِ

سدرة المنتہی پر باری تعالیٰ کی کتبہ و حقیقت کی تجلیات فاتیہ کے بیت معمور پر

التَّجَلِّيَّاتِ الْكُنْهِيَّاتِ الدَّائِمَاتِ وَسَقْفِ مَرْفُوعِ الْكَمَالَاتِ الْأَسْمَائِيَّةِ

کمالات اسمائیہ کی بلند و بالا چھت پر۔ علوم لدنیہ کے اُبلتے سمندر پر

وَبِحَرِّ مَسْجُورِ الْعُلُومِ الدُّنْيَا وَحَوْضِ الْأَعْظَمِ الْمُبْدِلِ لِبَحَارِ

الوہیت و موجب کے عظیم تر حوض پر جو مہاوں و مدہے صورتہائے عالم کی

أَمْوَاجَ صُورِ الْكُونِ الظَّاهِرَةِ مِنْ فَيُوضِ حَقَائِقِ أَنْفَاسِهِ وَقَلَمِ

امواج کے سمندروں کے لیے جو صورتیں ظہور پذیر ہونے والی ہیں ان کے انفاس حقائق کے فیوض سے اور

الْقُدْرَةِ الْإِلَهِيَّةِ الْعَظِيمَةِ وَالْكَاتِبِ فِي لَوْحِ نَفْسِهِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ

عظیم ترقدرت الہیہ کے قلم پر اور اپنے لوح نفس میں لکھنے والے پر جو کچھ ہو چکا اور جو ہو گا

مِنْ مَحَاسِنِ مُبْدَعَاتِ الْعَالَمِ وَتَقْدِيَاتِهِ وَجَمَالِ كُلِّ صُورَةٍ الْإِلَهِيَّةِ وَسِرِّ

جہان کے ایجادات کے محاسن اور تغیرات سے اور ہر صورت الہیہ کے جمال مجسم پر اور اس کے ستر

حَقِيقَتِهَا غَيْبًا وَشَهَادَةً وَجَلَالِ كُلِّ مَعْنَى كَمَا لِي بَدَاءِ آيَاتِي اللَّهُمَّ إِنِّي

حقیقت پر از روئے غیب و شہادت کے اور ہر معنی کمال افتتاحی کے جلال مجسم پر۔ اے اللہ میں

أَسْأَلُكَ سِرًّا مِنْ سِرِّكَ وَنُورًا مِنْ نُورِكَ وَرُوحًا مِنْ أَمْرِكَ يَا سُبْحَانِي

مجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے رازوں میں سے ایک راز کا اور مخصوص انوار میں سے نور کا اور تیرے عالم امر سے روح کا جو مجھے

السُّكُونِ لِمَقْدُورِكَ وَوَفَّقَنِي بِتَوْفِيقِكَ مِنْكَ يَوْقِظُنِي مِنْ غَفْلَتِي وَ

وارث بنانے سکون و قرار کا تیرے مقدر امر پر اور مجھے خاص توفیق متیا فرما جو مجھے غفلت سے جگاٹے اور

يُعَلِّمُنِي جَهْلِي وَيُوضِحُ إِلَيْكَ طَرِيقِي وَيَكُونُ فِي النَّجْعَةِ وَالرَّجْعَةِ

علم سے بدل دے میرے جہل کو اور واضح کرے میرے لیے راستہ کو اور میری رفیق ہو آغاز و ابتداء میں اور بازگشت میں

رَفِيقِي فِيكَ اجْتِهَادِي وَعَلَيْكَ اِعْتِمَادِي وَإِلَيْكَ مَرْجِعِي وَبَيْنَ

تیرے لیے ہی میری سعی ہے اور تجھی پر میرا اعتماد ہے اور تیری طرف ہی میری بازگشت ہے اور تیرے سامنے اور

يَدَيْكَ مَصْرَعِي تَعَلَّمُ حَقِيقَةَ أَمْرِي وَسُؤْلِي لَدَيْكَ سِرِّي وَجَهْرِي

رو برو ہے میری ہلاکت و فنا۔ تو جانتا ہے میرے معاملہ کی حقیقت اور میرا مطلوب تیرے سامنے ہے میرا اندرون اور بیرون۔

تَعَالَيْتَ عَنْ سَمَاتِ الْمُحَدَّثَاتِ وَتَنَزَّهْتَ مِنَ النَّقَائِصِ وَالْآفَاتِ

تو بلند تر ہے محدثات کے علامات و نشانات سے اور تو منزہ ہے نقائص اور آفات سے

وَتَقَدَّسَ عِلْمُكَ عَنْ مُعَارَضَةِ الشَّهَوَاتِ الْإِلَهِيَّ اسْأَلُكَ تَوْبَةً تَدْحُو

اور پاک ہے تیرا علم خواہشات کے معارضہ و رکاوٹ سے اے میرے الٰہ میں مجھ سے سوال کرتا ہوں ایسی توبہ کا کہ جس کے طفیل

بِهَازِلِي وَتَثَقِّلُ بِهَا عَمَلِي وَتُصَلِّحُ بِهَا ظَاهِرِي وَتُطَهِّرُ بِهَا بَاطِنِي

مٹائے میری لغزش کو اور فزنی بنائے میرے عمل کو اور درست فرمائے میرے ظاہر کو اور پاک فرمائے میرے باطن کو

وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلِي وَتُقَدِّسُ بِهَا سِرِّي وَتَيْسِّرُ بِهَا تَقْدِيرِي وَتُرْزِقُنِي

اور جمعیت بخٹھے میرے پرانگندہ امور کو اور پاک فرمائے میرے باطن کو اور آسان فرمائے لطیف اس کے میری تطہیر اور پاک کرے

بِهَآ نَفْسِي وَتُطَهِّرُنِي بِهَا مِنْ رَجْسِي وَهَبْ لِي نُورَ امْنِكَ اَمْتِنِي بِهِ فِي

میرے نفس کو اور پاک فرمائے مجھ ہر پلیدی سے اور مجھے عطا فرما اپنا خاص نور کہ اس کے ساتھ میں لوگوں میں

النَّاسِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا يُضْرَمُ مَعَهُ الذُّنُوبُ شَيْئًا وَ

روشنی پھیلا نا رہوں۔ اے اللہ مجھے وصل بخش اپنے عظیم اسم کے ساتھ کہ ضرر نہیں دیتے گناہ اس کے ساتھ ذرہ بھر اور

اجْعَلْ لِي مِنْهُ وَجْهًا تَقْضِي بِهِ حَوَائِجِ الْقَلْبِ وَالْعَقْلِ وَالرُّوحِ وَالشُّوقِ

مجھے لطیف اس کے ایسی وجاہت عطا فرما کہ پورے فرمائے بسبب اس کے تمام حاجات میرے قلب عقل کے اور روح و شوق

وَالنَّفْسِ وَالْبَدَنِ وَاذْرُجْ اَسْمَائِي تَحْتَ اَسْمَائِكَ وَصِفَاتِي تَحْتَ

کے اور نفس و بدن کے اور مندرج فرما میرے اسماء کو اپنے اسماء میں اور میری صفات کو اپنی

صِفَاتِكَ وَاَفْعَالِي تَحْتَ اَفْعَالِكَ اِلَى دَرَجَةِ السَّلَامَةِ عَنِ

صفات میں اور میرے افعال کو اپنے افعال میں انہیں لے جاتے ہوئے طرف راہ سلامت کے

الْاِسْقَاطِ وَالنَّدَامَةِ وَتَنْزِلِ الْكِرَامَةِ وَظُهُورِ الْاِمَامَةِ وَكُنْ لِي

گرائے جانے اور ندامت اٹھانے سے بچ نزول کرامت اور ظہور امامت کے اور تو میرا مددگار ہو ان

فِيْمَا اِبْتَلَيْتَ بِهِ مِنْ اَيِّمَةِ الْهُدٰى مِنْ عِلْمِكَ وَاَمْتِنِي حَتّٰى تَفْنِي

امور میں کہ آزمایا ان کے ساتھ ائمہ ہدی کو اپنے علم سے۔ اور مجھے اختیار موت دے حتی کہ فنا کر دے

بِيْ مِنْ شِدَّتِ وَاَحْيِنِي حَتّٰى تُحْيِيْ بِيْ مِنْ شِدَّتِ بِنِ عِبَادِكَ وَاَجْعَلْنِي

میرے ذریعے جس کو چاہے اور عطا فرما مجھے ایسی زندگی کہ زندہ کر دے میرے ذریعے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے اور بناکے

خَزَانَةَ الْاَرْبَعِيْنَ وَمِنْ خَاصَّةِ الْمُتَّقِيْنَ وَاغْفِرْ لِيْ قَاتَةَ لَا يَنْالُهٗ

مجھے خزانہ اربعہ کشتیوں کا اور خاص متقیوں سے اور مجھے بخش دے کیونکہ مغفرت و بخشش کو نہیں پاتے

الظالمون يا الله افتح قلبي بنورك وعلّمني من علمك واحفظني

اہل ظلم۔ اے اللہ میرا دل اپنے نور کے ساتھ کشاہہ فرما اور مجھے عطا فرما اپنے مخصوص علم سے اور مجھے محفوظ فرما

يحفظك واسمعني وفهمني علمك وبصرني بك وسبب لي سبباً

اپنی حفاظت خاصہ کے ساتھ اور مجھے سنا اور سمجھا اپنا علم۔ اور مجھے صاحب بصیرت بنا اپنے متعلق اور مینا فرما میرے سبب

من فضلك تغيني به من الفقر وتغيني به من الدال وتصلح

اپنے فضل سے جس کے ذریعے بے پروا کرے مجھے فقر سے اور عزت دے مجھے حقارت سے اور میری اصلاح فرمائے

لي به الدنيا والآخرة وتصلني به إلى نظرو وجهك الكريم في جنة

بسبب اس کے دنیا و آخرت میں اور واصل فرمائے بسبب اس کے اپنی ذات کریمہ کے دیدار تک جنت

التعظيم ثم أسئلك بفقير ميسر أن تقيمني إليك وأسئلك بحياتك

تعمیم میں پھر سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل تیری قیومیت کے کہ مجھے قائم فرمائے اپنی طرف اور سوال کرتا ہوں تجھ سے

حياة القلب وسلامته كذلك في الدين والدنيا والآخرة وفي ما

تیری حیات کے طفیل قلبی حیات کا اور اسی طرح اس کی سلامتی کا دین و دنیا اور آخرت میں اور ان

بينهما واحفظ على جميع ذلك يا من لا يؤده شيء من حفظه يا على

دونوں کے درمیان یعنی بزرخ میں اور محافظت فرما ان تمام امور میں اے کہ جسے نہیں تھکانی کوئی شے حفاظت کرنے سے اے بزرگتر

إلى أن ألقاك وأنت عني راض يا الله على أحسن حال منك وأنعم

یہاں تک کہ میں تجھ سے ملاقات کروں اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی ہو اے اللہ حسین ترین حالت میں اور خوش دلی کی

باك بلا محنة ولا عقوبة في الدين ولا في الدنيا ولا في الولد ولا في

کیفیت میں بغیر کسی محنت اور عقوبت کے دین و دنیا میں اور نہ اولاد و مال میں اور

المال في الدنيا ولا في الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا

نہ آخرت میں بطفیل اپنی رحمت کے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمیں محفوظ فرما

يا ذا ذات الكرمه والاسماء العظيمة أسئلك رزقا غالباً غير مغلوب

اے کریم ذات والے اے عظیم اسماء والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے رزق کا جو غالب ہو مغلوب نہ ہو

طَالِبًا غَيْرَ مَطْلُوبٍ بِأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

اور طالب نہ ہو بظیفیل اپنے اس قول کے تو نے ان پر انعام فرمایا نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کا

أَمِينَ اللَّهُ إِنْ كَانَ رِزْقِي فِي السَّمَاءِ فَأَنْزِلْهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ

آمین۔ اے اللہ اگر میرا رزق آسمان میں ہے تو اس کو اتار اور زمین ہے تو اس کو نکال

فَأَخْرِجْهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَقَرِّبْهُ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَيَسِّرْهُ وَإِنْ كَانَ

اور اگر دور ہے تو اسے قریب فرما اور قریب ہے تو آسان فرما اور معدوم ہے تو

مَعْدُومًا فَأَوْجِدْهُ وَإِنْ كَانَ مَسْنُوعًا فَأَثْبِتْهُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا

موجود فرما اور محال و متنوع ہے تو اسے ثابت و محقق فرما اور قلیل ہے

فَاكْثِرْهُ وَبَارِكْ اللَّهُمَّ وَفِيهِ وَإِتْنِي بِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَتَوَلَّ أَنْتَ

تو کثیر اور بابرکت بنا لے اللہ عطا فرما مجھے اپنی بارگاہ سے اور متولی و کار ساز ہو

أَمْرِي فِيهِ وَاجْعَلْ يَدَيَّ عَالِيَةً بِالْإِعْطَاءِ وَلَا تَجْعَلْهَا سَفْلَى

میرا اس امر میں اور میرے ہاتھ کو بند و بتر بنا ساتھ عطا کرنے کے اور نہ پست بنا اسے

بِالِاسْتِعْطَاءِ بِرَحْمَتِكَ يَا رِزَّاقُ يَا فَتَّاحُ يَا كَرِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحْمَنُ

بِسَبَبِ طَلَبِ دُعَايِ كَيْ بَطْفِيلِ اِبْنِ رَحْمَتِكَ كَيْ لَيْ رِزْقٍ - لَيْ قَنَاحٍ - لَيْ كَرِيمٍ لَيْ رَحِيمٍ - لَيْ رَحْمَنٍ

أَجِبْ دُعَائِي بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ

قبول فرما میری دعا اپنے فضل و کرم سے، بیشک تو ہر چیز پر کامل دسترس والا ہے۔ لے اللہ

إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَلْهَامِنِ اسْمِكَ الْأَعْظَمِ بِالثَّلَاثِ الْعَصِيِّ وَ

میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے اسم اعظم (اللہم) کی ماہ کے طفیل بمعینین (حروف الہ) کے جلائیوں

الْأَلْفِ الْمَقْصُورَةِ وَبِأَلِيمِ الطَّبِيسِ الْأَبْتَرِ وَاللَّامِ وَالْأَرْبَعَةِ

کی مانند ہیں۔ اور الف مقصورہ کے اور ایم کے جوڑے ہوئے اور اندھے (سرے والا) اور آخر سے کٹا ہوا ہے اور طفیل لام کے اور طفیل چاروں حرف

الَّتِي كَالْكَافِ بِلَا مَعْصِمٍ وَبِأَلْهَاءِ الْمَشْفُوقَةِ وَالْوَاوِ الْمَعْظَمِ

کے جوڑک کی مانند بغیر جوڑ اور کائی کے ہیں اور بھاری ہوئی کے اور (د) کے جوڑک و او معظم کی مانند ہے کہ جو صورت

صُورَةٌ اسْمُكَ الشَّرِيفِ الْأَعْظَمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ د

ہے تیرے اسم شریف اسم اعظم کی کہ صلوات نازل فرمائے سیدنا محمد پر مطابق تعداد

كُلِّ حَرْفٍ جَرَى بِهِ الْقَلَمُ وَأَنْ تَقْضِيَ حَاجَتِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

ہر اس حرف کے کہ جاری ہوا ساتھ اس کے قلم قدرت اور پوری فرما میری ہر حاجت۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

بِطَاءِ طَوْلِكَ وَرِبَاءِ بَقَائِكَ وَبِقَارِفِ قُدْرَتِكَ وَبِتَاءِ تَبَرُّكَ

تیرے طول و طاقت کی طام کے طفیل اور تیری بقا کی باد کے طفیل اور تیری قدرت کے قاف کے طفیل اور تیرے تبرک کی تاء کے

وَرِبَاءِ ثُبُوتِ مُلْكِكَ وَوَسْعِ كُرْسِيِّكَ يَا مَنْ لَا تَخَالُطُهُ الظُّنُونُ

طفیل اور تیرے ملک کے ثبوت (دوام) کی تاء کے طفیل اور تیری کرسی کی وسعت کے طفیل اے کرجس کو اشتباہ میں نہیں ڈالتے ظنون

فِي مُلْكِهِ يَا مَنْ يُسْتَجِيرُهُ كُلُّ شَيْءٍ وَلَا شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا وَهُوَ

اپنے ملک میں۔ اے کرجس سے ہر شئی پناہ طلب کرتی ہے اور مخلوق میں سے سبھی اسی سے پناہ طلب کرتے ہیں اور اسے پناہ نہیں

بِهِ يُسْتَجِيرُ وَلَا يُجَارُ فِي مُلْكِهِ اللَّهُمَّ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا

دی جاتی اپنے ملک میں، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ کیونکہ میں مالک نہیں ہوں اپنے نفس کے نفع کا

وَلَا ضَرًّا إِلَّا بِإِذْنِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْوَعْدِ الَّذِي وَعَدْتَ بِهِ

اور نقصان کا مگر تیرے اذن سے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس وعدہ کے طفیل جو تو نے کیا

أَنْبِيَائِكَ وَأَرْشَدْتَ بِهِ أَوْلِيَاءَكَ اللَّهُمَّ يَا جَلِيلُ يَا عَظِيمُ يَا قُدُّوسُ

اپنے انبیاء کے ساتھ اور رہنمائی فرمائی ساتھ اس کے اپنے اولیاء کی۔ اے اللہ اے جلیل۔ اے عظیم۔ اے قدوس

يَا اللَّهُ يَا مَنْ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَاهِكَ

اے اللہ، اے کہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا ملک۔ اے اللہ بیشک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں طفیل تیرے عز و مجاہد

وَبِعَيْنِ عِلْمِكَ وَبِعَيْنِ غُفْرَانِكَ وَبِقَاءِ فَضْلِكَ وَبِكَبْرِيَاكَ

اور تیرے علم کی عین کے طفیل اور غفران کی عین اور فضل کی فاء کبریائی کی کاف

وَبِلَامِ لُطْفِكَ وَبِيَاءِ يَقِينِكَ وَبِأَلْفِ الْوَهْبِيَّتِكَ وَبِضَادِ ضِيَاءِكَ وَ

لطف کے لام۔ یقین کی یاء کے طفیل۔ الوہبت کی الف اور ضیاء کی ضاد اور

بِزَارِ زِينَتِكَ وَبِشَيْنِ شِفَائِكَ وَبِقَافِ الْقُدْرَةِ وَالْإِحَاطَةِ وَبِلَامِ

تیری زینت کی زار اور شفاء کی شین اور قدرت و احاطہ کے قاف اور لوح و لطف کے لام

اللَّوْحِ وَاللُّطْفِ وَبِهَاءِ الْهَيْبَةِ وَالْهِدَايَةِ وَبِوَاوِ الْوِلَايَةِ أَنْ تَجْعَلَ لِي

اور ہیبت و ہدایت کی ہاء اور ولایت کی واؤ کے طفیل سوال کرتا ہوں کہ پیدا فرمائے میرے لیے

قُدْرَةً وَإِحَاطَةً عَلَى دَقَائِقِ الْكَائِنَاتِ الْوَحِيدَةِ مُبْتَهَجًا بِبَاءِ الْهَيْبَةِ

قدرت و احاطہ لوح محفوظ کی کائنات کے دقائق پر جبکہ میں فرحال و شادان ہوں ساتھ ہیبت کی ہاء کے

مُهْتَدِيًا هَادِيًا لِمَنْ شَدَّتْ هِدَايَتُهُ أَنْتَ الْهَادِي مَنْ اسْتَهْدَيْتَهُ يَا مَنْ

ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا ہو جاؤں ہر اس شخص کو جس کی ہدایت تو جہاں ہے تیری ہی ہدایت دینے والا ہے طالب ہدایت

تَنَزَّاهُ عَنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ وَالتَّغْيِيرَاتِ وَالتَّعْطِيلَاتِ وَالْحَوَادِثِ وَالنَّظِيرِ

کوئے کہ جو منزہ ہے تمام جہات اور تغیرات سے اور تعطیل و بیکاری سے اور حوادث سے اور نظیر و

وَالضُّدِّ وَالْإِنْقِسَامِ وَالْعَدَدِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يَا وَاحِدٌ فِي دَيْمُومِيَّةِ

اضداد سے اور انقسام و تعدد سے۔ فرما دو وہ اللہ یکتا ہے۔ اے جو یگانہ ہے اپنے دوام اور شان قدیمی میں

الْقَدِيمِ عَنْ غَيْرِ تَحْوِيلٍ وَلَا تَجَسُّمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَاوِ الْوَحْدَانِيَّةِ

تغیر و تبدیل سے اور جسامیت اختیار کرنے سے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وحدانیت کی واؤ کے طفیل

وَالْأَلْفِ الْمَعْطُوفِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ النَّشْأَةِ الدَّوْرِيَّةِ وَبِحَاءِ الْحَيَاةِ

اور الف معطوفہ مدورہ کے طفیل جو کہ اصل ہے کردی مخلوقات کی اور بطفیل حیات

الْأَزَلِيَّةِ وَبِدَالِ الدَّوَامِ الْأَيْدِيَّةِ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ وَوَقْتٍ وَعَدَدٍ وَلَا

ازلیہ کی حاد کے اور دوام ابدیت کی دال کے بلا کسی حصر اور توقیت اور تعداد کے اور

صَاحِبَةِ وَلَا وَلَدٍ أَنْتَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَحَدًا مِّنْ

غیر بیوی اور بیٹے کے۔ تو ہی اللہ ہے واحد و یکتا۔ اے اللہ مجھے بنا دے یکتا اپنے یکتا

الْأَحَادِ وَقَرْدًا مِّنَ الْأَفْرَادِ وَأَمْدُ دُنِي بِنَشْأَةِ مِّنْ نَّشْأَةِ الرُّوحَانِيَّةِ

اور یگانہ روزگار لوگوں سے اور منفرد انفرادی شان والوں سے اور میری امداد فرما ساتھ ایجاد خاص کے الف معطوفہ مدورہ کی روحانی نشاۃ

الْأَلْفِ الْمَعْطُوفِ حَتَّىٰ أَخْوَضَ بِعَوْضِ ذَلِكَ بِجَاهِ الْمُقْتَرِبِينَ فِي

وایجاد سے حتیٰ کہ میں داخل ہو جاؤں اس کے عوض بطفیل تیرے مقربین کی عنوجاہ کے

الْأَفْرَادِ وَأَحْيِ نَفْسِي بِتَفْحَةٍ حَكِيمَةٍ مِّنْ تَفْحَاتِكَ وَرَوْحَانِيَّةٍ

افراد منفردہ میں اور زندہ فرما میرے نفس کو ساتھ حکمت والی تمک کے اپنی تمکوں میں سے اور ساتھ روحانیت کے

مَمْدُودَةٍ بِعَظِيمِ الْإِمْدَادِ حَتَّىٰ أَكُونَ رَاجِيًا مِّنَ السَّعَادَةِ وَالْإِرْشَادِ

جو بڑھائی گئی ہو عظیم امداد کے ساتھ حتیٰ کہ ہو جاؤں امید و سعادت و ارشاد کا اور

وَوَجِيهًا بَيْنَ عِبَادِكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْمَعَادِ وَأَسْئَلُكَ بِصَادِقِ الصَّدَقِ وَالصَّبْرِ

صاحب و جاہت تیرے بندگان خاص میں قیامت تک کے لیے اور میں سوال کرتا ہوں بطفیل صدق و صبر کی صاد

وَرَبِيمِ الْمَلِكِ وَالْمَجْدِ وَبِيَاءِ الْيَقْظَةِ وَالْيَقِينِ أَنْ تَجْعَلَنِي صَادِقًا صَادِقًا

اور ملک و مجد کی مہم اور یقظہ (بیداری) اور یقین کی بناء کے طفیل کہ بناؤں مجھے صادق و صدوق

مَالِكًا مُّجِيدًا أُمَّجِدًا بِالْيَقْظَةِ مُعْتَقِدًا بِالْيَقِينِ مَمْدُودًا مِّنْ عَظِيمِ كَرَمِكَ

مالک، بزرگ اور بڑائی دیا ہوا ساتھ بیدار مغزی کے، صاحب اعتقاد ساتھ یقین کے، مدد دیا ہوا اپنے کرم عظیم سے

وَصِدِّيقًا مِّنْ مَّلَائِكَتِكَ أَسْتَعِينُ بِهِ عَلَىٰ صِلَاحِ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اور بنائے میرے صدیق اپنے ملائکہ میں سے کہ مدد حاصل کروں اس سے دنیوی اور اخروی امور کی اصلاح میں

وَأَجْعَلْ لِّي عَوْنًا مِّنْ غَيْرِ عَائِقِ مُضِرِّ إِلَىٰ الْآبِدِ اللَّهُمَّ الْفِتْنَىٰ بِكَافٍ

اور بناؤں میرا معاون بغیر کسی ہزر رسال رکاوٹ کے ہمیشہ کے لیے - اے اللہ میری کفایت فرما بطفیل اپنی کفایت کا

كَفَايَتِكَ حَتَّىٰ لَا أَلْتَجِيَ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ مَّخْلُوقَاتِكَ وَنُورِنِي بِنُورِ نُورَانِيَّتِكَ

کے حتیٰ کہ میں نہ پناہ ڈھونڈوں تیری مخلوق میں سے کسی کی اور مجھے منور فرما اپنی نورانیت کے نور سے یہاں تک

حَتَّىٰ أَفُوزَ بِفَاءِ الْفَوْزِ وَالنَّجَاةَ بَيْنَ عِبَادِكَ الْمُقْتَرِبِينَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ

کہ میں کامیاب ہو جاؤں بطفیل فوز و نجات کی خاطر کے تیرے مقرب بندوں کے درمیان بے شک تو ہر

شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا قَادِرِيَا مُقْتَدِرٌ قَدَارِي بِقَدْرِ مَحَبَّتِكَ لِأَرْوَاحِ الْأَنْبِيَاءِ

شئی پر کامل و متوسر والا ہے۔ اے قادر، اے صاحب اقتدار، مقتدر، قدری، بقدر محبت کے ساتھ ارواح انبیاء

وَالْأَوْلِيَاءِ فِي رُوحِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

و اولیاء کے میری روح میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ رَدِيٍّ وَرَمِيٍّ وَخَدَلٍ وَجَزَلٍ وَخَزَلٍ وَرَقِيَّتِ

محمد پر مطابق تعداد ہر روزی شئی اور ریت کے اور ہر برگشت اور فریب کے اور گناہ اور باریک

وَ حَاقٍ وَ حَذِقٍ وَ حَلِقٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور متوسط اور چابک و چت اور نبال کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ رُدِّهِ وَرَهْيَاءِ رَدِّهِ وَرَجِبٍ وَرَدِّهِ وَرَسْبٍ وَرَحَبٍ

محمد پر مطابق تعداد ہر پشت بیان اور سہارا کے اور کمر و رکاب کے اور شیبے کے اور نڈکوبے اور تیز دھار والی تلوار کے اور محبت

وَ حَبَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و باہمی دوستی کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

بَعْدَ دِكْلِ رَطْبٍ وَرُعْبٍ وَرَعْبٍ وَرَقِيْبٍ وَرَيْبٍ وَرَغِيْبٍ وَرُقُوبٍ

مطابق تعداد ہر ترنوازہ اور رعب و دبہ اور رغبت کے اور ہر گران و محافظ اور ریب و زرد اور رغب و پسندیدہ اور انتظار کے

وَ رُكُوبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور سوار ہونے کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

بَعْدَ دِكْلِ رَيْتٍ وَرَيْتَةٍ وَرَيْثٍ وَرَايَةٍ وَرَحْبٍ وَرَحْبَةٍ وَرَجْوَةٍ

مطابق تعداد ہر سختی اور پھیلائے ہوئے کے اور کمزوری حالت اور انتظار و صمت اور امیدوار اور چکنے والے اور کچے اندرائن اور رخ کرنبرائ

وَ رَوَائِحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور تمام تر خوشنویوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

بَعْدَ دِكْلِ رَبِحٍ وَرَخَابِجٍ وَرَخُودَةٍ وَرُشْدٍ وَرَفْدٍ وَرَأْشِدٍ وَرُشْدٍ

مطابق تعداد ہر منفعت اور ضیعت و ناتوانی اور ملامت و فری کے اور بھلائی و عطیہ کے اور رد کرنے کے اور ہدایت یافتہ اور ہدایت

وَ رَشِيدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور صاحب رشد و ہدایت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر



بَعْدَ كُلِّ رَقْدٍ وَرَكُودٍ وَرُودٍ وَرَبِيزٍ وَرَجَزٍ وَحَيُودٍ وَوَحِيدٍ وَحَمِيدٍ

مطابق تعداد نیند اور ایڑی مارنے اور وزلانے کے اور ہرزیرک دداتا کے اور گناہ اور بازگشت اور ہر حمد اور لائق حمد

وَخُودِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

اور اساطیر و حفاظت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد

كُلِّ زَوْجٍ وَزِيَاطٍ وَتَرِيغٍ وَزَأْفٍ وَزُخُوفٍ وَزُخْرَفٍ وَجُدُوفٍ وَبَدِيقٍ

ہر جفت کے اور ہر بیج و پیکار کے اور ناز و ادا سے چلنے والے اور مشکب کے اور تراش و خراش اور تیز رفتاری اور

وَجُزْفٍ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تخمینہ و اکل بیج کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

بَعْدَ كُلِّ زَرْقِفٍ وَزَعْرَفٍ وَزَعْفٍ وَزَلْفٍ وَزَبَعْبِقٍ وَزُبَابٍ وَزَرْبٍ وَ

مطابق تعداد ہر ایک کے اور دافریانی والے اور ہر ٹھٹھے اور ہر درجہ اور بخلق و بدکردار اور ہر کبھی اور لاعلاج بیماری

ذَعَابٍ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

اور زور سے برسنے والے بادل کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد

كُلِّ زَحْلِقٍ وَزِدْقٍ وَزُعْبِقٍ وَزَعَاقٍ وَزَعْلُوقٍ وَخَلُوقٍ وَخَلَاقٍ وَ

ہر پھسلن اور سبائی اور پراگندہ اور سخت کڑوسے پانی اور شادمان اور مرکب خوشبو اور زعفرانی پلڑے اور

خُفُوقٍ وَخَفِيقٍ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

چمک و دمک کے اور مصیبت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ زَقْزَاقَةٍ وَزَلِقٍ وَزَهْرَقَةٍ وَزَاعِقٍ وَزِهَاقٍ وَدُورِقٍ

پر مطابق تعداد ہر چوگرہ دہینے والے جانور اور پھسلن اور دوری اور چلانے والے اور نیستی و نابودگی اور بڑے لوٹے اور

وَحَلِقٍ وَرَاحِقٍ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہر مویشی اور ہر خالص شے کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ زَبَعْبِكٍ وَزَبْتَلٍ وَزَحِلٍ وَزَعْفَلٍ وَزَفْقَلَةٍ وَخَلَةٍ وَ

پر مطابق تعداد ہر بدکردار اور کوتاہ قامت اور الٹ نخلک اور کذاب اور سرعت اور حاجت اور



خَيْرَةٌ وَخَلْوَتِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

خیر والی اور ہر درخت کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ سَوَادٍ وَسَاكِنٍ وَسَعِيدٍ وَعَدِيدٍ وَعَسْبَدٍ وَعَدَاذِ اللَّهِ

پر مطابق تعداد ہر سیاہی اور ساکن اور نیک بخت اور تیار شئی کے اور ہر جوہر اور گنتی و شمار کے۔ لے اللہ

صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ سَاعَةٍ وَسَاعَةٍ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر حسن و جمال کے اور ہر ساعت کے

وَسَعْسَعٍ وَسَوْغٍ وَسِجَافٍ وَكُفٍّ وَكُفِّفٍ وَكُشَافٍ وَكُفَافِ اللَّهِ

اور ہر تحریک و جنبش اور خوشگواری اور پردہ اور جانب و پیلو اور محبت و الفت اور کھولنے والے اور گزرنے والے لے اللہ

صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ سُرْعُوفٍ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر مطابق تعداد ہر ناز و نعمت والے

وَسَفِيْفٍ وَسَلْفٍ وَسَوْفٍ وَسَاهِفٍ وَعَفَافٍ وَعَكُوفٍ وَعَاكِفٍ

اور کھجور کے پتوں کی ٹوکری اور پیش رو اور صبر و تاخیر اور فرحت والے اور پاکدامنی اور دست بستہ قیام اور مغنت کے

اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر

سُحْقٍ وَسَيْلَاقٍ وَسُقِّقٍ وَسَمُوقٍ وَسَهْمُوقٍ وَعَعْبِقٍ وَعَعْتَاقٍ وَعَعْتِقِ اللَّهِ

دوری کے اور تیز رفتار سواری اور بندش و رکاوٹ اور زرخش بھل والے و ذمت اور کذاب اور نمک اور قوت و توانائی اور آزادی کے

صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ سَفْوَكٍ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر خونریز ظالم اور

وَسُبْتَلٍ وَسُتَيْلٍ وَسِفَالٍ وَسَخْمٍ وَعَمَلٍ وَعَمُولٍ وَعَعَادِلٍ وَعَوْلِ اللَّهِ

بیزلیوں کے بیج تنگ راستہ اور ہر کمینہ و زویل اور بعض و کینہ اور عمل اور شریک عمل اور تمام بلیوں اور بازگشت کے۔ لے اللہ

صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ سَدٍّ وَسُرْعَةٍ وَ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر رنج و الم اور سرعت اور

سَاكِبٌ وَسَمِيعٌ وَسَمِعٌ وَفَنِيعٌ وَقَتِعٌ وَصَنِيعٌ وَقُلُوعٌ وَقَلُوعٌ اَللّٰهُمَّ

مسافر و اجنبی اور سننے والے اور سننے اور مالدار اور کثرت سخا اور نیلی اور بہت کالٹنے والے اور تمام کھولنے کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ شَرِّ وَشَقِيٍّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر شہر اور بد بخت

وَشَيْطَانٍ وَشَعْرٍ وَشَرَفٍ وَشَطَافٍ وَشَنْطُوفٍ وَشَحْسَارٍ وَشَرِّ شَرِيْرَةٍ

اور شیطان کے اور ہر بال اور بندی اور ہر تنگی اور سختی اور ہر شئی کی فرع اور دراز قدر اور ہر پھین یا کھلے

وَشَطْرٍ وَشَنْزَرَةٍ وَشَرِيْرٍ وَشَائِسٍ وَشَحْطٍ وَشَقِيْظٍ وَشَطِطٍ وَ

اور جزو حصّہ اور موٹائی و سختی اور صاحب ہلاکت و شدت اور پھری جگہ اور آلودگی اور ٹھیکری اور رکاوٹ اور

شَوَاظٍ وَشَبْعٍ وَشَرْجِعٍ وَشَعْدَعٍ وَشَوْعٍ وَشَوْقٍ وَشَرْمٍ وَشَجِنٍ

اُگ کے شعلے اور بیری اور دراز قدر اور طویل قامت اور بالوں کی پراگندگی۔ شوق و ذوق اور ہمندر کے گھرے حصّے

وَشَطْرٍ وَشَوْبُوْبٍ وَشَمِيْجٍ وَكَلِيْجٍ وَكَسِيْجٍ وَكَادِيْجٍ وَكَلِيْجٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

غم و اندوہ۔ کنارہ و ساحل۔ موسلا دھار بارش اور آمیزش۔ شجاع و بہادر و عجز و ناتوانی اور سختی و خالص کے۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ صَغِيْرٍ وَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر صغیر اور

صُوْفٍ وَصَوَابٍ وَصَالِحٍ وَصَابِرٍ وَصَنْبٍ وَصَعِيْبٍ وَصَمِيْتٍ وَصَمَلِيْجٍ وَ

اون اور صبح و صواب اور صالح و صابر اور شور و غل۔ سخت۔ خاموش۔ شدت و سختی اور

صِيْرٍ وَصَرِيْحٍ وَصَرْلَفِيْحٍ وَصَلَاحٍ وَصِيَاحٍ وَصِنْدِيْدٍ وَصِيْرٍ وَصَقِيْرٍ وَ

تندرستی بلند مکان۔ پیچ و پکار۔ نیکی و تقویٰ اور پیچ و پکار۔ رئیس و سرغنہ۔ صبر اور شکرے اور

صَنَافِرٍ وَصَعُوْطٍ وَصِرَاطٍ وَصَدَاعٍ وَصْنَعٍ وَصَبِيْعٍ وَصَمْعٍ وَصَرْفٍ وَصَنْفٍ

جوہر و اصل کے اور نساور۔ راستہ۔ زور سے پھٹنے۔ کاریگری۔ رنگ۔ گوند۔ تبدیلی اور نوع و قسم کے

وَصَدِيْقٍ وَصَمِيْكِيْكَ وَصَدْمٍ وَكُظْمٍ وَكُظْمِيْمٍ وَكَاطِمٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور سچائی۔ جاہل و شر پسند۔ دفاع۔ غصّہ پینے۔ بہت غصّہ پینے والے اور سیراکی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ ضَيْقٍ وَضُوضٍ وَضَوْءٍ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر تنگ اور دشوار کے اور سدن وکان اور

وَالضَّهْيَانَةِ وَضَيْدَةَ وَضَيْدًا وَضَيْدًا وَضَيْدًا وَضَيْدًا وَضَيْدًا وَضَيْدًا وَضَيْدًا وَضَيْدًا وَضَيْدًا

روشنی کے اور دودھ سے خالی عورت کے اور زکام والی، مد مقابل، بہت سخت، نقصان، ضرر اور مستقت والی ضرورت

ضُرُورَةَ وَضَفِيرٍ وَضَخْرٍ وَضَمْرٍهَا وَضُورٍهَا وَضَفِيرٍ وَضَمْرٍهَا وَضَبِيرٍ وَضَبِيرٍ

و مجبوری، زلفت، منکب و مغرور، شدید و سخت، سخت بھوک، نازک بدن اور سخت مزاج کے

ضُوضَاةٍ وَفَانُوسٍ وَفَرَادِيسٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لڑائی کے شور وغل اور فانوس اور باغات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ طَوِيلٍ وَطَلٍّ وَطَبَاةٍ وَطَاءَةِ وَطُنٍّ وَ

اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر دراز قد، بھی بارش، خصمت، پامالی اور پر عزم کے اور

طَبٍّ وَطَرْبٍ وَطَرْحَتَةٍ وَطَلُوْثٍ وَطَرْجٍ وَطَافِحَةٍ وَطَلِحٍ وَطَفْدٍ وَ

علاج، خوشی و طرب، ہلکاپن، جاری و ساری، چینی اور خشک یا بھرپور، خاردار درخت اور قبر کے اور

طَبْدَرٍ وَطَيْسِرٍ وَطَيْرَانٍ وَطَبْرِزٍ وَطَحْرٍ وَطَبْرِسٍ وَطَبْسٍ وَطَخِسٍ وَ

شر و فساد، وافر مقدار، پرواز، پہاڑ کے کنارے، غلط بیانی، کذاب، سببہ نام، انتہاء و غایت کے اور

طَرْطَبِسٍ وَتَقْمُوسٍ وَطَفْرِسٍ وَطَبْسٍ وَطَشٍّ وَطَفِيفٍ وَتَرُوْتِيْقٍ

وافر پانی، سرکش شیطان، نرم و سہل، کثیر النسل، پھوار، حقیر و ناقص، طاق، قابل اعتماد

وَتَوْفِيْقٍ وَتَسْنِيْقٍ وَتَنْبِيْقٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور توفیق اور پرزے اور سجاد و خوبصورتی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ ظَرْءٍ وَظَابٍ وَظَنْبٍ وَظِرٍّ وَظَالٍ وَظَرْفٍ

آل محمد پر مطابق تعداد منجمد پانی، ظالم، پنڈلی کی باریک ہڈی، دھاردار پتھر، لٹڑے، طرف و برتن

وَظَلْفٍ وَظَلٍّ وَظَلَّةٍ وَظَلَالَةٍ وَظَلَالٍ وَظَامٍ وَظَلْمٍ وَظَلْمٍ وَظَعْنٍ وَظَنْ

اور جائزہ مباح کے اور عام سایہ، خاص قسم کے سایہ، سایہ دار شئی اور سلیے، ہمزلف، ظلم و زیادتی اور ہم زلف، کو توجہ کرنے اور گمان

وَضْرَابٍ وَضَرْبٍ وَظَمَاءٍ وَظَبْطَابٍ وَظَهْرَةٌ وَظُهُورٍ وَظَلِيفٍ وَظَاهِرٍ

بڑے ٹیلے۔ چھوٹے ٹیلے۔ پیاس۔ عیب و نقص۔ گھر کے سامان۔ ظہور۔ بد حال و زبیل اور ظاہر و

وَظَهِيرٍ وَظِلٍّ وَظِلَالٍ وَأَظْلَالٍ وَظَلَالٍ وَظَلِيلٍ وَظُلُولٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

غالب کے اور مددگار۔ سایہ۔ سائے۔ سایہ دار اشیاء۔ بادل۔ چھتریوں اور آرام و سکون کے۔ اے اللہ صلوات

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْرِ كُلِّ عَرَضٍ وَعَظِيمٍ وَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر چوڑائی۔ ہر بڑی شئی کے اور ہر چوڑی

عَرِيضٍ وَعَمِيْقٍ وَعَبِيٍّ وَعَعِيٍّ وَعَعْبَبٍ وَعَعْنَتٍ وَعَعْنَكَيْتٍ وَعَعَجَابِجٍ

چیز اور گہرے کے۔ بہ تیزی۔ حسن و خوبی۔ طغیانی کے ابتدائی حصے۔ مشقت اور اجتماع اور غبار اڑانے والے

وَعَذَابٍ وَعَعِيدٍ وَعَعْبِدٍ وَعَعْدَرٍ وَعَعْرَبِدٍ وَعَعْسَبِدٍ وَعَعْوَدٍ وَعَعْمَوْدٍ وَ

شیریں و خوشگوار۔ عید و خوشی۔ عبد و غلام۔ عداد و شمار۔ بد خلقی۔ قیمتی جوہر اور شدید اور طویل و دراز

عَوْدٍ وَعَعِيدَانٍ وَعَعْبَقْرِيٍّ وَعَعْبَهْرِيٍّ وَعَعْتَرٍ وَعَعْسَكِرٍ وَعَعَشِيرٍ وَعَعَصِرٍ وَعَعْمِرٍ

رجوع۔ پناہ و سہارے۔ رئیس و سردار۔ زگس۔ اصل جوہر۔ شکر۔ عشر اور زمانہ۔ عمر۔ کوسے

وَعَوِيْرٍ وَمَرَامِرٍ وَمَرِيْرٍ وَمَدَارٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

باطل و ناسخ۔ پختہ عزم والے اور زوردار بارش کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْرِ كُلِّ غَلِيْظٍ وَغَافِلٍ وَغَائِبٍ وَغَضْرِبٍ

اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر سخت جگہ اور غافل اور غائب۔ سبزہ زار۔

وَعَيْهَبٍ وَغَيْبٍ وَغَرْتَانٍ وَغَعِيْتٍ وَغَعْنَابِجٍ وَغَزِيْدٍ وَغَلِيْذٍ وَغَبُوْرٍ

سخت تاریک۔ غیب۔ بھوکے۔ بارش۔ ناز و نخرہ اور شدید آواز۔ سخت طبع۔ پیچھے رہنے

وَعَزِيْرٍ وَغَزِيْرٍ وَغَزْرِيٍّ وَغَشْمَرَةٍ وَغَضِيْرٍ وَغَمِرٍ وَغَوْمِرٍ وَغَضِيْسٍ

طبعی ثقافتے۔ جھگڑاؤ۔ بھجور کی ٹوکری۔ ظلم۔ سخت آواز اور نرم و نازک کے سمندر کے گہرے حصے۔ گہرائی

وَعَرَشٍ وَعَرَضٍ وَغَطَطَةٌ وَغَوْغَاءٌ وَغَرْفٍ وَغَدَقٍ وَغَيْطَلَةٌ

بہی نہات۔ دونی کے سکے۔ نشاندہ و ہدف۔ جوش و تموج اور تمام شریروں کے چلو بھرتے۔ ہر سبز و شاداب ہونے! امن کی فرحت

وَعَظْمٍ وَعَصَاةٍ وَغُدُوَّةٍ وَغَالِيَةٍ يَا نُورُ كُلُّ شَيْءٍ وَهَذَا أَنْتَ الَّذِي

وسیع سمندر - تروتازگی - صبح کی سیر اور خوشبو کے لئے نور ہر شئی کے اور ہدایت ہر شئی کی تو

فَلَقْتَ الظُّلُمَاتِ بِنُورِهِ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ الَّتِي كَتَفْتَهَا بِنُورِكَ الْجَامِدَةَ

ہی نے بھاڑا ہے ظلمتوں کو اپنے نور کے ساتھ۔ تو ہی روشن کرنے والا ہے تمام آسمانوں کو جنہیں تو نے لباس پہنایا اپنے نور کے ساتھ

بِتَخْلِيطِ الْأَنْجِزَةِ الْجَلَالِيَّةِ وَالْجَمَالِيَّةِ وَأَشْرَقَتِ الشَّمْسُ بِتَخْلِيْقِكَ

جو آسمان کو ٹھوس ہیں بسبب ملائے جلالی اور جمالی تجارات کے اور چمکایا سورج کو بسبب پیدا کرنے تیرے

قُرْصَهَا مِنْ نُورِ الْجَلَالِ الْغَالِبِ حَتَّى عَكَسَتْ عَلَى النَّوْرِ وَصَارَتْ

اس کی مہمہ کو غالب نور جلال سے یہاں تک کہ اس نے عکس و پیر توڑا اور ہر تنور کے اور ہوا

الْهَوَاءُ حَارَّةً بِتَحَرُّرِ الشُّعَاعَاتِ طَبَاخَةً وَخَلَقْتَ الْقَمَرَ مُضِيًّا بَارِدَةً

گرم ہو گئی بسبب شعاعوں کی حرارت کے در آنحالیکہ وہ بجز بچت کا کام دیتی ہیں اور پیدا کیا تو نے چاند کو در آنحالیکہ روشن ہے اس

شُعَاعَاتِهِ وَكَوْنَتِ الْكَوَاكِبُ بِرَأَقَةٍ هَادِيَةٍ رَاحِمَةً أَنْفَصَلَتْ شُعَاعَاتُهَا

کی شعاعیں ٹھنڈی ہیں۔ اور بنا یا تو نے ستاروں کو چمکدار۔ رہنمائی کرنے والے اور سبب ہلاکت (شیاطین کے لیے) جدا ہوتی ہیں ان سے شعاعیں

فِيهَا أَنْتُمْ تَتَّصِلُ بِمَقَارِهَا وَمَرَاكِزِهَا حَتَّى صَارَتْ السَّمَوَاتُ السَّيْعَ مَزِينَةً

بچھ متصل ہوتی ہیں اپنی قرار گاہوں اور مرکزوں کے ساتھ حتی کہ ہو گئے ساتوں آسمان

بِأَحْسَنِ زِينَةٍ ثُمَّ أَيْدَعَتْ أَشْخَاصَ الْمَلَائِكَةِ مِنْ غَيْرِ تَأْمُورٍ وَتَأْمُورَةٍ

نوبتین زینت کے ساتھ مزین پھرتو نے از سر نو پیدا فرمایا ملائکہ کے اشخاص کو بغیر مذکورہ مومنٹ کے (کے ملاپ کے

مِنْ إِهَابٍ وَلَحْمٍ وَعَظَامٍ مَسْكُودَةٍ بَلْ أَوْجَدْتَهَا مِنْ صِرْفِ نُورٍ لَطِيفٍ

بغیر چمڑے۔ گوشت اور ہاڈم مرتب ہڈیوں کے بلکہ تو نے انہیں ایجاد فرمایا خالص لطیف نور سے

قَابِلِ الشَّكْلِ اللَّطِيفِ أَوِ الْكَثِيفِ مَعَ بَقَاءِ الْهَيْئَةِ الْمَلَكِيَّةِ النَّوْرَانِيَّةِ

جو قبول کرنے والا ہے لطیف و کثیف شکل کو بچ باقی رہنے نورانی ملکی ہیئت کے ان

فِي هَيْئَاتِهَا الْجَمَلِيَّةِ حَتَّى تَيْسَّرَ عَلَيْهِمُ الْهَبُوطُ وَالصُّعُودُ فِي أَدْنَى لَمَحَةٍ

کی جمالی اور خلقی ہیئات میں حتی کہ آسان ہو گیا ان پر اترنا اور چڑھنا ادنی لمحہ میں

وَالْجِهَاتُ طَوِيَتْ فِي لَطَافَةِ بَرَاقَتِهَا وَصَارَتْ جِهَةً وَحَدَانِيَّةً وَعَيْدًا

اور تمام جہات سمیٹ دی گئیں ان کی لطیف پنک اور نورانیت کے سامنے اور وہ مانند ایک جیت کے ہو گئیں اور ان کے

سَوَاسِيَّةٌ يَدْلَحُظْنَ بِهَا أَحْوَالَ الْمَوْجُودَاتِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِفٍ عَلَى كَسْبٍ

ہو گئے سربا آکھ کر ملاحظہ کرنے ہیں تمام موجودات کے احوال کا بغیر کسب و حیلہ گری کے

بَلْ هُمْ ذَوَاتٌ بِالْفِعْلِ نَقَازَةٌ مَخْلُوعَةٌ مُجَلَّجَةٌ تَتَرَشَّحُ مِنْهَا الْأَنْوَارُ

بلکہ وہ بالفعل نفوذ و سرایت کرنے والی ذاتیں ہیں۔ اشیاء کے اندر حلول کرتے والے ہیں، قوی آواز والے ہیں جن سے انوار منعکس

عَلَى قُلُوبِ الْعَارِفِينَ بِهَا يَهْتَدُونَ إِلَى اللَّهِ وَتَشْرَحُ صُدُورَهُمْ بِالنُّورِ

ہوتے ہیں عارفوں کے دلوں پر جن کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راہ پاتے ہیں اور ان کے سینے کشادہ ہوتے ہیں ان معارف

سَمِّيَتْ بِالْهَامَاتِ الْمَلَكِيَّةِ وَخَلَقَتْ الْأَرْوَاحَ مِنْ نُورِهِ الْمَقْرَبِ الْمُهْدِي

کے ساتھ جنہیں الہام کہا جاتا ہے اور تو نے پیدا فرمایا ارواح کو اپنے (حبیب) کے مقرب اور ہادی نور سے

وَفَلَقَتْ الْبَيْضَاءُ الْفُرْقَاءَ مِنَ السُّودِ أَيْ الْقَبْصَاءِ اللَّهُمَّ نُورَكَ فَوْقَ كُلِّ

اور بھٹا تو نے بیبہ سحر کو جو جدا ہوتے والا ہے رات کے سیاہ مٹھس سے۔ اے اللہ تیرا نور خالق و بلند تر ہے ہر

نُورٍ وَنَارٍ وَكُلِّ مَنْ فَرُوعَ أَنْوَارِكَ وَسَمَاكَ فَتُورِ قَلْبِي لِاسْتِعْدَادِ

نور و نارسے اور سبھی فروعات ہیں تیرے انوار کے اور آسمان کے پس منور فرما میرے دل کو انوار کے کرات کے مشابہ

مُشَاهِدَةٍ كَرَاتِ الْأَنْوَارِ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ وَلَا تَغْيِيبٍ وَأَعِدْ نَفْسِي لِحُلُولِ

کی اہمیت و استعداد کے لیے بغیر تھکان اور غیبت کے اور مستعد فرما میرے روح و نفس کو فیوض اور

الْأَفْيَاضِ وَأَنْوَارِ الْحَقَائِقِ الَّتِي هِيَ عُلُومٌ بِالنِّسْبَةِ وَخَوَارِقُ بِالْقُدْرَةِ وَ

انوار حقائق کے نزول کے لیے جو کہ ایک لحاظ سے علوم ہیں اور قدرت کی روسے کرامات ہیں۔ اور پیدا

اجْعَلْ فَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا مُحِيطًا حَتَّى لَا أَرَى بِالْبَصَرِ وَالْبَصِيرَةَ إِلَّا نُورَكَ

فرما میرے اوپر نور اور نیچے نور محیط حتی کہ نہ دیکھوں میں سر کی آنکھ اور دل کی آنکھ سے مگر تیرے رہنما نور کو

الْهَادِي بِنُورِكَ الْقَاضِي وَجَمَلُ رُوحِي بِحَيْثُ تَتَهَافَتُ الْأَنْوَارُ عَلَيْهِ

یعنی تیرے نور قضا و حکم ازل کے اور میری روح کو جمیل بنا اس انداز سے کہ انوار برسوں

وَتَسْرِي مِنْهُ الْمُسْتَرْشِدِينَ وَالْمُتَوَجِّهِينَ إِلَى هَذَا الدَّاعِي وَالِإِلَى

اس پر اور پھر اس سے مریدین کی طرف سرایت کریں اور ہر اس شخص کی طرف جو متوجہ ہو اس دعا گو کی طرف اور ہر

مَنْ أَرَادَ بِهِ نَفْعًا يَأْمُرُ كُلَّ جَبَّارٍ عَيْنِي بِقَهْرِكَ عَزِيزُ سُلْطَانُهُ

اس شخص کی طرف جو نفع حاصل کرنے کا ارادہ کرے۔ اے ذلیل کرنے والے ہر سرکش و معاند کو ساتھ اپنے قہر کے

ذَلِّلْ أَيْ عَدُوِّي وَعَدُوَّ أَحِبَّائِي وَذَلِّلْ أَبَا مَرْثَةَ حَيْثُ يَشَاءُ

غالب ہے تیرا تصرف و تسلط۔ ذلیل فرما میرے اور میرے احباب کے ہر دشمن کو اور ذلیل فرما شیطان کو جب بھی وہ

التَّسَلُّطُ عَلَيَّ بِالْجَبْرِ وَالْقَهْرِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُدَالُّ لِكُلِّ جَبَّارٍ قَهَّارٍ

مجھ پر تسلط اور غلبہ چاہے ساتھ جبر و قہر کے۔ اے اللہ تو ہی ذلیل کرنے والا ہے ہر جبار و تمہارے

كَمَا ذَلَّلْتَ فِرْعَوْنَ وَمَنْ مَعَهُ بِيَدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُمَّ

جیسے کہ تو نے ذلیل کیا فرعون اور اس کے لشکریوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ اے اللہ

أَنْتَ قَهْرٌ مَنِيعٌ ذُو سُلْطَانَةٍ وَغَلْبَةٍ وَسَلَاطِينُ الْأَرْضِ مُذَلَّلَةٌ

تو قہر - بلند شان - ماکہ ملک اور غالب ہے اور سلاطین عالم مغلوب ہیں

تَحْتَ سُلْطَانَتِكَ فَاجْعَلْنِي مِمَّنْ تُجِيبُ دَعْوَتَهُ يَا ذَلَّالَ لِكُلِّ جَبَّارٍ

تیری سلطنت کے سامنے پس بنا مجھے مستجاب اور عورت لوگوں سے۔ اے مغلوب کرنے والے ہر جبار کو

عَيْنِي مُفَرِّطٍ أَيَّا كَانَ بَرِيًّا أَوْ بَحْرِيًّا أَوْ جَنِيًّا أَوْ مَلِكِيًّا كَمَا ذَلَّلْتَ

سرکش اور قصور وار کے خواہ خشکی کا ہو یا زمی کا اور جن ہو یا فرشتہ (بالفرض والتقدير) جیسے مغلوب اور مطیع

الطُّيُورِ وَالْجِنِّ وَالرِّيْحِ تَحْتَ أَمْرِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَكِنَّ الْوِلَايَةَ

فرمایا پرندوں کو اور جنوں اور ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لیکن نبوت کا سلسلہ باقی

بِأَقْبِيَّةٍ إِلَى يَوْمِ الْفَجَاءِ فَاجْعَلْنِي مِنَ الرَّؤْسَاءِ الْمُتَصَرِّفِينَ فِي الْأَعْرَازِ

نہیں رہا تو سلسلہ ولایت باقی ہے قیامت تک پس مجھے بنا رؤساء اولیاء سے جو ارباب تصرف ہیں عزت دینے

وَالْأَرْضَ ذَالِ بِحَقِّ قَوْلِكَ تَعَزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدَالُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ

اور ذلیل بنانے میں بطغیل ایسے اس قول کے تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ذلت دیتا ہے جسے ذلیل کرنا چاہے تیرے

الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا قُدُّوسَ الطَّاهِرِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ

سنت اکرم میں خیر ہے۔ بیشک تو ہی ہر چیز پر کامل دسترس والا ہے۔ اے ہر نقص سے مقدس و طاہر

فَلَا شَيْءٌ يَعْانُ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ بَلْطَفِهِ قَدْ سَنِي مِنْ هَذِهِ الدَّرَنِيَّةِ

تمام مخلوقات میں سے کوئی شئی ایسی نہیں جس سے تعاون لیا جاسکے تیرے لطف و کرم کے بدلے۔ مجھے پاک فرما اس تڑپ

الْمِبَالَةِ إِلَيْهَا طَبِيعِي وَنَفْسِي وَهُوَ نَقْصٌ عِنْدَ الْقُدُّوسِ وَطَهَّرْنِي عَنْ كُلِّ

و کمینگی سے جس کی طرف میری طبیعت اور نفس راغب ہے جبکہ وہ عیب و نقص ہے تجھ قدوس کے نزدیک۔ اور مجھے پاک فرما ہر

نَقْصٍ عَائِقٍ مِنْ أَسْبَابِ الْوُصُولِ ثُمَّ جَرَّدْنِي مِنْهَا حَتَّى لَا تَبْقَى فِي قَلْبِي

اس نقص سے جو مانع ہے اسباب و وصول سے پھر مجھے خالی اور فارغ فرما اس سے حتیٰ کہ نہ باقی رہے میرے دل میں

الْأَهْوِيَّةِ أَحَدِيَّةٌ هِيَ عَيْنٌ وَحَدَاةٌ بِوَجُودِ كُلِّ حَقِيقَةٍ قُدُّوسِي طَاهِرٍ عَنْ

مگر ہوت احدیہ جو کہ بین وحدت ہے ساتھ کلی حقیقی کے وجود کے جو مقدس و طاہر ہے تمام

جَمِيعِ النَّقَائِصِ فَلَا يُغَالِبُهُ أَحَدٌ مِنْ جَمِيعِ الوجودَاتِ الْفِعْلِيَّةِ وَلَا

نقص سے پس غلبہ نہیں یا سکتا اس پر کوئی موجودات فعلیہ اور

الْمَكَانِيَّةِ الْمُحَضَّةِ الْقَرِيبَةِ أَوِ الْبَعِيدَةِ مِنَ الْفِعْلِ فَأَنْتَ قُدُّوسٌ مِنْ

امکانیہ محضہ سے جو تحقیق کے قریب ہیں یا اس سے بعید ہیں۔ پس تو پاک ہے ہر

جَمِيعِ مَا تُنْسَبُ إِلَيْهِ كَيْفِيَّةً وَكَمِيَّةً وَخَلَقْتَ الْمَجْدَادَاتِ مُتَنَزِّهَةً

کیفیت و کمیت سے جو تیری طرف نسبت کی جاتی ہے۔ اور تو نے پیدا فرمایا اس نئی مخلوق کو اس حال میں کہ منزہ

عَنِ الشَّهَوَاتِ وَالْكَفْرِ وَسَائِرِ مَا لَا يَنْبَغِي فَقَدَّسَتْ وَطَهَّرَتْ

ہیں خواہشات نفسانیہ سے اور کفر و برادری سے اور تمام نامناسب امور سے پس وہ مقدس و مطہر ہو گئے

بَطْهُورًا قَدْ سَيِّتَكَ حَتَّىٰ بَرَأَتْ عَنِ الْمَعَاصِي فَلَا يَعْصُونَ وَ

تیرے ظہور قدوسیت کے طفیل حتیٰ کہ میرا و منزہ ہو گئے تمام تر معاصی سے لہذا نافرمانی نہیں کرتے اور

يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ فَطَهَّرْ قَلْبِي وَقَدِّسْ سِرِّي لِاقْتِبَاسِ مَا فِي

و ہی کرتے ہیں جس کا حکم دئے جاتے ہیں۔ پاک فرما میرے دل کو اور مقدس فرما میرے اندرون کو واسطے حاصل کرنے



عَالَمِ الْمَجْرَدَاتِ الْمَسْتَبِي بِعَالَمِ الْمَلَكُوتِ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ تَرُبُّ

عالم مجردات کے انوار کے جس عالم کو ملکوت کہا جاتا ہے۔ اے اللہ تو رب العالمین ہے پرورش فرماتا ہے

مَنْ تَشَاءُ وَأَنْتَ الْعَلِيمُ اللَّهُمَّ أَرَجِبُ أَمِينٌ دَعْوَةَ هَذَا الْإِسْمِ فِي

ہر اس شئی کی جسے چاہے اور تو ہی دائمی علم والا ہے۔ اے اللہ قبول فرما آمین دعوت اس اسم کی اس اسم

مَفْهُومِ هَذَا الْإِسْمِ الَّذِي شَرَحْتَهُ عَلَيَّ فِي قَضَائِكَ وَقَدْرِكَ وَ

کے مفہوم میں جس کی شرح فرمائی مجھ پر اپنی قضاء و قدر میں اور تمام

سَائِرِ الْخَوَاصِّ الَّتِي لَمْ تَطَّلِعْ عَلَيْهَا أَمِينٌ مَعَ كُلِّ رُوحِي قُدْسِي وَ

تمام خواص میں جن پر ہم مطلع نہیں ہیں آمین ساتھ ہر روحانی قدسی کے اور

نَبِيٍّ وَوَلِيِّي يَا مُبْدِي الْبَرَايَا وَمُعِيدَهَا بَعْدَ فَنَائِهَا بِقُدْرَتِهِ قَدْ أَوْجَدْتَ

ہر نبی اور ولی کے۔ اے پیدا کرنے والے مخلوقات کے پہلی دفعہ اور دوبارہ پیدا کرنے والے فنا کے بعد اپنی قدرت کا ملہ سے۔ البتہ ایسا

أَجْنَاسًا وَأَنْوَاعًا تَمَّ فَصْلَتُهَا فَنَوْعٌ تَنْحَصِرُ الْأَشْخَاصُ فِيهِ وَنَوْعٌ مِنْهُ

فرمایا تو نے اجناس و انواع کو پھرانے میں متاثر فرمایا، کوئی نوع ایسی ہے کہ مخصوص اشخاص میں منحصر ہے اور کوئی ایسی ہے کہ اس میں

تَوَالِدُ وَتَتَأَسَّلُ حَتَّى امْتَلَأَتْ الْأَرْضَ ثُمَّ تُهْلِكُهَا وَتَقْدِّسُهَا فَتَحْشُرُهَا

توالد و تناسل ہے حتیٰ کہ بھر دیا تو نے اس سے زمین کو، پھر تو انہیں ہلاک فرماتا ہے اور مقدس ٹھہراتا ہے پھر ان کا حشر فرماتا ہے

بِقُدْرَتِهِ وَقُوَّتِهِ فَلَا يُعَارِضُكَ أَحَدٌ فِيهِ وَلَا يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ إِلَّا مِنْ تَأْذُنِ

گا اپنی قدرت غالبہ سے اور نہیں معارضہ و مقابلہ کر سکے گا تیرے ساتھ کوئی بھی اس معاملہ میں اور نہ کلام کر سکے گا مگر وہی جسے تو اجازت

لَكَ وَتَقْدَرُ أَنْ تُخْرِجَ الْمَوْتَى مِنَ الْأَرْضِ وَالْمَرْقَدَةَ عَلَى هَيْئَةٍ جَمِيلَةٍ

دے گا اور تو قادر ہے اس پر کہ نکالے مردوں کو زمین اور قبروں سے خوبصورت حالت پر

وَإِنْ كَانَتْ عَلَى هَيْئَةٍ قَبِيحَةٍ وَكَذَلِكَ الْمَذْنِبِينَ تَسْتُرُهُمْ تَحْتَ سِتْرِ

اگرچہ ہوں (نبات خود) قبیح حالت پر اور ایسے ہی پروردہ ڈالے گا گناہگاروں پر اپنی

رَحْمَتِكَ وَغُفْرَانِكَ وَلَا تَفْضَحُ بَيْنَ يَدَيْ الْخَلْقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

رحمت اور مغفرت کا اور نہیں رسوا کرے گا انہیں مخلوق کے سامنے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ فَرْعٍ وَفَرْدٍ وَفَطِيحٍ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر فرع اور فرد کے اور سخت قبیح امر کے

فَوْلَفٍ وَفَسِقٍ وَفَوْقٍ وَفَبَايَةِ وَفَتَاءٍ وَفَلِيحٍ وَفَرْحٍ وَفَرَسِيحٍ وَفَصِيحٍ وَ

اور ہر خلاف و پردہ اور فسق و فجور اور فقیہت و بلندی کے۔ موسلا دھار بارش۔ قنار۔ کشادگی۔ فرحت فراخی و راحت

فَدَائِدٍ وَفَوْحٍ وَفَاخِرٍ وَفَقْرٍ وَفَسِيحٍ وَفَوْتٍ وَفَدِيمٍ وَفَكْرٍ وَفَرْنٍ وَفَقْرٍ وَ

بلندی آواز۔ قوح۔ صاحب فخر۔ فقر۔ کشادگی۔ کامیابی۔ سر بلند فکر۔ جدائی۔ موت و ہلاکت اور ہر

رَكَازِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

دفعینہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد

كُلِّ فَاخِشَةٍ وَفَارِضٍ وَفَيْضٍ وَفَرَطٍ وَفَلَقِطٍ وَفَلِطٍ وَفَلَاطٍ وَفَرْعٍ

ہر فاختہ اور بوڑھی کے اور ہر فیض اور سبقت کے اور حیرانگی اور اچانک آمد کے اور چوٹی کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ قَصِيرٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر کوتاہ قامت کے

وَقَاعِدٍ وَقَائِمٍ وَقَدِيمٍ وَقَلِيلٍ وَكَثِيرٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور بیٹھے اور کھڑے اور قدیم کے اور ہر قلیل و کثیر کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ فَتْحٍ وَفَصِيحٍ وَمَلِيحٍ وَفَلِيحٍ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر کفتار۔ فصیح۔ خوبصورت۔ کشادہ اور

قَبِيحٍ وَرَجِيحٍ وَعَجِيحٍ وَعُرُوحٍ وَعُجِيحٍ وَكَانِيحٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

بدصورت کے ہر چیلانے والے اور ہر پیچ کے اور بلندی پر چڑھنے اور دوڑنے کے اور مہیجی گوند کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ قَنَاءٍ وَقَابَةِ وَقَتِيحٍ وَقَصْلِيحٍ وَ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر نضاب والی اور خشک شئی کے اور عطیہ و ہدیہ اور قوی و شدید

قَطْرٍ وَعَكْبٍ وَعَاكِبٍ وَعُكُوبٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور ہر چور یا بھیڑیا اور غبار اور بھیڑ اور آزدہاموں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ كُلِّ تَعْتِبٍ وَقَعَائِبٍ وَقَهْزِبٍ وَ

آل محمد پر مطابق تعداد ہر کثیر وافر اور طویل و دراز اور کوتاہ قامت اور

قُنُوتٍ وَقَرْزِجٍ وَفَسِيحٍ وَفَوْجٍ وَفِيَاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

عجز و انکسار۔ گھوڑے۔ فرانی۔ مہک اور مہکنے والے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ كُلِّ قَرْذٍ وَقَفْعِدٍ وَقَدْرٍِّ وَتَعْرِوِّ

محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر قصد و ارادہ پلستہ قدر۔ مقدار۔ گرائی اور بہت بڑے شکاری کے

قُتُورٍ بِفَضْلِ قُرْآنٍ عَلَىٰ قَرِيْبِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

مطابق پہاڑوں کی برتری کے تمام سٹی سٹی اشیاء پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ كُلِّ قَدَاحِيسٍ وَقَدَّوْسٍ وَقَيْسٍ وَقَسْقَاسٍ وَ

آل محمد پر مطابق تعداد ہر شجاع و بہادر۔ مقدس۔ تلاش و جستجو والے اور رہبر و رہنما کے اور

قَيْسٍ وَقَدَيْسٍ وَقَابُوسٍ وَقَدَّوْسٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

غوطہ خور۔ پاکیزہ۔ حسین و خوبصورت اور منزہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ كُلِّ قَبْضٍ وَقَطْقَطٍ وَقَفْلٍ وَقَلِّ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر تنگی و فقر۔ اولے۔ رجوع۔ قات کے

قَوْلٍ وَقَبُولٍ وَاسْتِئْذَانٍ وَمِفْصَالٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

اور ہر قول۔ قبول۔ بلا اجازت سوار ہونے اور بہت جدا کرنے والے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ كُلِّ كَبِيْرٍ وَكَلِمَةٍ وَكَلَامٍ وَقَسْمٍ

محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر کبیر۔ کلمہ اور کلام کے اور قسم

وَقَسَامٍ وَقَسِيْمٍ وَقِيَامٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

تقسیم کرنے والے اور بٹھنے والے اور منظم کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ كُلِّ كَلَاءٍ وَكِبَابٍ وَكُتَاتٍ وَكُرْبِيَّةٍ وَكُوْتِيٍّ وَ

آل محمد پر مطابق تعداد ہر سبزہ اور تمام اونٹوں کے۔ اور آہستہ چلنے اور ہر صیبت کے اور کوتاہ قامت

قَاضِي وَ قَفِي وَ مَرَّصِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

قاضی - مشفق اور مضبوط و مستحکم کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ كَثَابَةٍ وَ كُنَافَةٍ وَ كَدْحٍ وَ كَثْرَةٍ وَ

آل محمد پر مطابق تعدد ہر سنگینے۔ لا تعداد اشیاء مشقت۔ بلند کومان اور

كَثْرَةٍ وَ قَزِيرٍ وَ قَرَارٍ وَ مُطْرَبِنٍ وَ مِرَّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

بہت تاب اور سگڑنے سمٹنے والے اور مٹی وغیرہ کی مٹی بھرنے والے اور نقش و نگار والے اور ہر تیز نصیحت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام

مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ كَوْنٍ وَ كَيْفٍ وَ كُفْرٍ وَ كَيْسٍ وَ كَعْصٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ

نازل فرما سیدنا محمد پر مطابق تعدد ہر کثرت۔ بلند بہاؤ۔ کفر و بے دینی۔ لوگوں کے اجتماع۔ طعام کے ہر دفعہ خارج ہونے

وَ شَاحِصٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَي آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

اور برآمد ہونے کی مقدار۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعدد

كُلِّ كَضْكَضَةٍ وَ كَرْتَعٍ وَ كَرَعٍ وَ كَرَاعٍ وَ كَنْفٍ وَ قَاحِفٍ وَ قَحَافٍ وَ

ہر تیز رفتاری اور پچھاڑنے۔ منہ لگا کر پینے۔ گھوڑوں۔ اونٹوں۔ جماعت۔ شدید آندھی۔

قَعَافٍ وَ شَرِيفٍ وَ أَشْرَافٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَي

زبردست سیلاب۔ زور دار بارش اور ہر شریف اور تمام اشراف کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ كَدِّفٍ وَ كَسْفَةٍ وَ كَنْفٍ وَ كَحْلٍ وَ غَسُولٍ

آل محمد پر مطابق تعدد ہر آواز پا۔ ہر کھڑے پہلو و جانب۔ سرمہ۔ صابون اور غسل

وَ غَسِيلٍ وَ غَزَالٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَي آلِ سَيِّدِنَا

دئے ہوئے اور ہر ہرن کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ لَيْلٍ وَ لَيْنٍ وَ لَبٍ وَ لَجِبٍ وَ لَسُوبٍ وَ لَيْثٍ وَ لَطِثٍ وَ

آل پر مطابق تعدد ہر رات۔ نرمی۔ خالص عقل پہنچانے کے شعور بہت مارنے والے۔ نمی۔

غَنَبٍ وَ غَمْبٍ وَ غَمْبٍ وَ غَمْبٍ وَ غَمْبٍ وَ غَمْبٍ وَ غَمْبٍ وَ غَمْبٍ وَ غَمْبٍ وَ غَمْبٍ

چمڑی چیز سے پٹائی۔ ناز و نحرہ۔ گھونٹ بھرنے اور تلوا میاں میں ڈالنے اور بھر لڑکتی کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ لَوْتٍ وَكَيْتٍ وَوَلِيَّاحٍ وَوَلَدَيْدَانٍ وَ

اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر آلورگی اور تمام بہادروں اور ہر سفید و روشن چیز اور وادی کے دو پہلوؤں

لِيَا دِكْرَاتٍ وَكَيْتٍ وَكَشُوتٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور سرکش و باغی اور گندنے اور گھنے بالوں والے کے اور اقیقوں کے لئے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ لَجْدٍ وَوَلَدَةِ وَكَمَزٍ وَوَلَعْبِسٍ وَوَلَيْفِسٍ

آل محمد پر مطابق تعداد ہر چاٹ اور لذت عیب جوئی - کاٹنے یا گنجان ہونے -

وَسُوَيْسٍ وَسَائِسٍ وَقَلَّاسٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

شجاع و بہادر - گھن - بھگان اور ہر بجز خار کے - لئے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ لِيَصٍّ وَوَلَعَضٍّ وَوَلَمَوْصٍ وَوَلْفِطٍ وَوَلْعَاعِ

آل محمد پر مطابق تعداد ہر بچر اور سخت و دشوار اور جھوٹے - فریبی - کلام کے شور - ابتدائی روئیدگی

وَدِفَاعٍ وَوَدْفَعٍ وَوَدِرْعٍ وَوَدَارِعٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دور کرتے دفع کرنے اور ہرزہ اور زہہ پوشش کے - لئے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ لَعَلَعَةٍ وَوَلَمَيْقٍ وَوَلَمَلُومٍ وَوَلَدِينٍ وَوَلَسِّنٍ

اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر شکتگی کے اور رکھنے یا مٹانے اور جماعت اور نرم و ملائم اور فصیح زبان

وَحُسَيْنٍ وَوَحْسَيْنٍ وَوَحْسَانٍ وَوَجْدِيْنٍ وَوَحْدِيْنٍ وَوَحْزِيْنٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور حسن اور حسین اور بہت خوبصورت اور دوست اور پیارے دوست اور ہر ذبیحہ کے - لئے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ مَا نَشِئُ وَوَسْتَيْقِظُ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر پیابہ اور بیدار

وَمِرٍّ وَوَمَوْجُودٍ وَوَمَعْدُومٍ وَوَحْرَمٍ وَوَحْرِيْحٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

اور کڑوے اور ہر موجود اور معدوم اور تمام تر عزتوں اور عزت والے مقام کے - لئے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ مُوَجِدٍ وَوَمُشْرِكٍ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر موجد اور مشرک کے

وَمَذَكَّرٌ وَمَوْتٌ وَمُحَدِّثٌ وَذَيُّوْتِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

اور ہر مذکورہ موت کے اور بچنے اور دیوث کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ مَوَاتٍ وَمَعْتٍ وَمَوْجٍ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر پردہ اور لطائف اور موج و

مَهْجَةٍ وَمَوْجٍ وَصَبِيحٍ وَصَبَاحٍ وَصَحِيحٍ وَصَحَابِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

لہر اور روح و حیات اور بوسیدہ بچنے کے اور حسین اور روشن ترین اور تندرست اور مژدن درست کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ مَرَجٍ وَمَسْحٍ وَمَصُوْرٍ

سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر ناز و ادا اور حسن کرنے اور سرد اور مغز اور تر تازگی اور کھلنے

وَمَوْجٍ وَمَادٍ وَفُلْدٍ وَفَوْنٍ وَقَزِيْنٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور بوند کے اور مصاحب و ساتھی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ مَدٍّ وَمُدَّةٍ وَمَصْدٍ وَمَلْدٍ وَمَمَهْدٍ

اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر مد اور مدت کے اور گرمی کی شدت اور معتدل کیفیت کے اور مسلمان رکھنے

وَمَنْصُدٍ وَمَلَاذِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

کے میل اور جائے پناہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ مَيِّدٍ وَمَيِّدٍ وَمَذْمَاذٍ وَمَجْرٍ وَمَطْرٍ وَزَيْدٍ وَسَرْجٍ

آل پر مطابق تعداد ہر جنبش کے اور جھوٹے کے اور بہت باتنی اور بڑی فوج اور بارش اور حد سے تجاوز اور حال رخ

وَسِرَاجِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

اور ہر چراغ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد

كُلِّ مَوْبٍ وَمَاتِعٍ وَمَتَاعٍ وَمَلِكٍ وَمَقِيلٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

ہر گردش۔ ہر نفع رساں۔ سامان اور فرشتہ اور دیکھنے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ نَامٍ وَنَائِمٍ وَنَهَارٍ وَنَبَاةٍ وَنَشِيْءٍ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر نشوونما کے اور سوتے والے اور دن اور نبردینے اور پیدائش



وَنَحْبٍ وَمُحَبَّةٍ وَنُحْرُوبٍ وَنَيْرِبٍ وَنَقَبٍ وَنَقِيبَةٍ وَنُقْبَةٍ وَنُوبٍ وَ

اور شدید گریہ وزاری اور زخم اور سوراخ اور چنٹی و فساد اور سوراخ اور تھکانی اور دراز اور سادہ پیش آنے اور

نَبْتٍ وَنَعْتٍ وَنَكِيثَةٍ وَنُورَجَةٍ وَنَشِجٍ وَنُدْجٍ وَنَطْحٍ وَنَقَاحٍ وَنَجِدٍ وَ

انگے اور نعت گوئی اور بازگشت اور نکتہ چینی اور سیرابی اور فراموشی و کشادگی اور مقابلہ و لڑائی اور مغرور و تحقیقت تک رسائی اور

نَشْدَةٍ وَنَفَاذٍ وَنَزْوَنِيَّةٍ وَنَفْسٍ وَرَائِيَتَيْشٍ وَرَائِكُمَايشٍ وَرَائِنَعَايشٍ

قوت و توانائی اور آواز و اعلان اور نافذ کرنے اور چنبول والی جگہ اور کھٹکار و اینٹ اور سانس اور کپڑے اور کپڑے اور سستی کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ

بے حسنی کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد ہر

وَجُوبٍ وَذُوبٍ وَوَسْبٍ وَوَصْبٍ وَوُطْبٍ وَوَكُوبٍ وَوَلُوبٍ وَوَقْتٍ

ثبوت و تحقق اور پھلنے اور گھاس اور بیماری اور دائمی عمل اور آہستگی سے چلنے اور جلدی سے داخل ہونے اور زمانہ کے

وَوَلَيْتٍ وَوَارِثٍ وَوَأَسِغٍ وَوَدِدٍ وَوَلَيْتٍ وَوَجَّ وَوَشِيحَةٍ وَوُجَّ وَوَجَّاجٍ وَ

تعیین اور حق میں کمی کرنے اور وارث اور وسیع اور محبت و الفت اور بچے و مددہ اور نیزی اور باطنی تعلق اور جلدی داخل ہونے اور بہت تیز و جلدی

وَجَّ وَوَادٍ وَوَطْبٍ وَوَذُوذَةٍ وَوَلِدٍ وَوَبِدٍ وَوَتِدٍ وَوَجْرٍ وَوَسُوسَةٍ وَ

اور دردناک اور زندہ درگور کرنے اور مضبوط کرنے اور جلدی کرنے اور جہم دینے اور بد حالی اور مینج اور حاجت اور وسوسہ اور

إِخْتِصَاصٍ وَاتِّرَاصٍ وَرِاحِلَاصٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

مخصوص ٹھہرانے اور ہموار اور خاص کرنے کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ هَبٍ وَهَبِيَّابٍ وَهَجِبٍ وَهَدَلِيَّةٍ وَهَلْبٍ

آل محمد پر مطابق تعداد ہر قوی اٹھان اور اٹھان والے اور سرعت اور ہلکائین اور بہت بالوں والے

وَهَنْقَبٍ وَهَوْبٍ وَهَمْرَجَةٍ وَهَجُودٍ وَهَوْنٍ وَهَجِسٍ وَهَلْسٍ وَهَمْسٍ وَ

اور کوتاہ قامت اور دوری والے اور خیر میں گڑ بڑ کرنے والے اور شب بیدار اور مخلوق اور اندیشہ اور لاعلمی کرنے اور صبی آواز اور

هَنْشِنَشٍ وَهَمُودٍ وَهَمَادِيٍّ وَهَيْتِرٍ وَهَتِرٍ وَهَزِيْرٍ وَهَوْشٍ وَهَيْشٍ فَهَنْفِصٍ

بلکے پھلنے اور بے آب و گیاہ اور تیز رفتار اونٹ اور کوتاہ قد اور بہتگ کرنے اور جنبش دے ہونے اور عالی پیتھ اور تخریب کار اور



وَهَرَمَعٍ وَهُوعٍ وَأَسْبَاعٍ وَأَصَابِعٍ وَاسْتَفْرَاغِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کونہ قامت اور تیز رفتار اور سخت بری حوصل اور کامل و مکمل کرنے کے خوشخالی و شادابی اور خالی کرنے کے۔ سے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَبَارِحَ وَيَبْنَ بِنَ وَيَبْرَهَ وَيَسِرُ

پر اور آل محمد پر مطابق تعداد یا جوج و ماجوج کے ہر ہر فرد کے اور قلب اور بردبار اور شدت اور آسانی اور تو نگی

يَسَارٌ وَيَسْتَعُورُ وَيَعْرِ وَيَهْرُ وَيَاسُ وَيَيْسُ وَيَيْشُ وَيَتْرَعُ وَيِرَاعَةُ وَيُرْدَعُ وَيُفَعُّ

اور باطل و ناسحق اور بگری کے بچ کے جو شکار بچھانے کیلئے باندھا جائے اور وسیع جگہ اور نامیدی اور خوشی اور مسرت و خوشی اور شیردار پر سے اور جگہ توار

يَانِعَاتٍ وَيَانِعٌ وَيَيْقُ وَيَيْتِيمٌ وَيَوْمٌ وَيَبِينُ وَيَمِينُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بزدل اور جوان اور پختہ پھل اور تیار پھل اور سفید بگری اور یتیم اور دن اور قسم اور ہر برکت کے۔ سے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ أَلِفٍ وَبَاءٍ وَتَاءٍ وَثَاءٍ وَجِيمٍ وَحَاءٍ وَخَاءٍ وَذَالٍ

و آل محمد پر مطابق تعداد ہر الف - باء - تاء - ثاء - جیم - حاء - خاء - ذال اور ذال کے

ذَرَاءٍ وَزَاءٍ وَسِينٍ وَشَيْنٍ وَصَادٍ وَضَادٍ وَظَاءٍ وَعَيْنٍ وَعَيْنٍ وَفَاءٍ

اور راء - زاء - سین و شین - صاد و ضاد - ظاد و ظاد - عین و عین - فاء کے اور فاء

وَقَافٍ وَكَافٍ وَلَامٍ وَمِيمٍ وَنُونٍ وَوَاوٍ وَهَاءٍ وَلَا مِرَّ وَهَمْزَةٌ وَيَاءٍ فِي التَّوْرَةِ

وقاف - کاف - لام - میم و نون - واؤ اور ہاء اور لام و ہمزه اور ہاء کے جو تورات

وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَفِي مِائَةِ صَحَائِفِ اللَّهُمَّ

واجیل اور زبور اور فرقان حمید - قرآن مجید اور سو صحیفوں میں ہے۔ سے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ أَلِفٍ وَبَاءٍ وَتَاءٍ وَثَاءٍ وَجِيمٍ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر الف - باء - تاء - ثاء اور جیم کے

وَخَاءٍ وَذَالٍ وَذَالٍ وَرَاءٍ وَزَاءٍ وَسِينٍ وَشَيْنٍ وَصَادٍ وَضَادٍ وَظَاءٍ وَ

اور حاء - خاء - ذال - ذال - راء - زاء - سین - شین - صاد - ضاد - ظاد اور ظاد کے اور

عَيْنٍ وَعَيْنٍ وَفَاءٍ وَقَافٍ وَكَافٍ وَلَامٍ وَمِيمٍ وَنُونٍ وَوَاوٍ وَهَاءٍ وَلَا مِرَّ وَهَمْزَةٌ

عین - عین - فاء - قاف - کاف - لام - میم - نون - واؤ - ہاء اور لام و ہمزه



وَيَا عَرَفِيَّ أَحَادِيثَ الرَّسْلِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْإِنْسِ وَكُلِّ ذِي رُوحٍ وَالْجِبَاتِ وَغَيْرِهِمْ

اور پیام کے جو رسل کرام اور ملائکہ اور انسانوں اور ہر ذی روح اور جنوں وغیرہ کی کلاموں میں ہے

مَنْ لِسَانِ الْحَالِ وَالْقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

خواہ زبان حال سے سرزد ہوئی ہوں یا زبان قال سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ تَفْصِيلٍ وَجَمَلٍ وَأَشَارَاتٍ وَمُعْجِمٍ وَتَقْطِطٍ وَمُحْكَمٍ وَ

پر مطابق تعداد ہر تفصیل اور تمام جمیوں اور اشاروں اور حروف منقوطہ اور نقطوں کے اور ہر محکم اور

مَنْطُوقٍ وَمَفْهُومٍ وَخَاصٍّ وَعَامٍ وَأَخْبَارٍ وَأَحْكَامٍ وَشَكْلِ وَحَرَكَاتٍ وَ

مدلول صریح اور مدلول غیر صریح اور خاص و عام اور اخبار و احکام اور ہر شکل اور تمام حرکات و

سَكَنَاتٍ وَمَهْمَلٍ وَمُفْصَلٍ وَجَزْئِيَّاتٍ وَكُلِّيَّاتٍ وَمُتَشَابِهَاتٍ وَأَمْرٍ وَنَهْيٍ

سکنات کے اور مہمل و مفصل اور تمام جزئیات و کلیات اور متشابہات کے اور امر و نہی

وَنَاسِخٍ وَمَنْسُوخٍ وَعِبْرٍ وَقَصِصٍ وَعُدَاوَةٍ وَعَيْدٍ وَوَعْدٍ وَمِدَاوَةٍ وَحُرُوفٍ وَ

اور ناسخ و منسوخ اور تمام عبارات و قصص اور ہر وعدہ و وعید اور ہر شد و مد اور تمام حروف کے اور

حَلْقَةِ الْحُرُوفِ وَأَنْوَابِ الْحُرُوفِ فِي الْقُرْآنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

حروف کے حلقہ اور ان حروف کے انوار کے جو قرآن مجید میں ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا فِي خَلْفِي وَأَمَامِي وَغَيْرِهِمْ فِي عِلْمِي

محمد و آل محمد پر مطابق تعداد ان اشیاء کے جو پچھلی اور سامنے والی جہت اور ان کے ماسوا میں ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے

اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ إِلَيْكَ مَدَدُ يَدِي وَفِي مَا عِنْدَكَ عَظَمَتُ رَغْبَتِي

مطابق اے محمد۔ اے اللہ میں نے تیری طرف ہی بڑھایا ہے اپنے ہاتھ کو اور جو کچھ تیرے پاس ہے اسی میں عظیم ہوئی میری

فَأَقْبِلْ دَعْوَتِي وَأَقْلِبْ عَثْرَاتِي وَأَرْحَمْ تَضَرُّعِي وَجَدَلِي بِمَغْفِرَتِكَ

رحمت پس میری دعا قبول فرما۔ میری لغزشوں سے درگزر فرما۔ میری حالت زار پر رحم فرما اور میرے لیے اپنی رحمت کی سخاوت فرما

وَأَعِزَّنِي مِنْ مُضَلَّاتِ الْفِتَنِ اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ حَقُّوقًا فَتَصَدَّقْ بِهَا عَلَيَّ

اور مجھے گمراہ کن فتنوں سے پناہ دے۔ اے اللہ بیشک تیرے حقوق ہیں مجھ پر پس وہ مجھ پر صدقہ فرما

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ الْجَلِيِّ وَالشَّرِّ الْخَفِيِّ وَالْجَلِيِّ وَ

اے اللہ بیشک میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں واضح شرک سے اور خفی و جلی شرک سے اور

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَحِيمٌ

میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس شے کے شر سے جس سے پناہ طلب کی تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیقوں کے لئے

كُلِّ صَرِيحٍ وَمَكْرُوبٍ وَيَا غِيَاثَهُ وَمَعَاذَ سَجَرِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ مَقَاهِرِهِ

ہر فریادی اور اندر ہنک پر اور اس کے فریادوں اور جائے پناہ مستخر فرما میرے لیے مظاہر

الرَّحْمِيَّةِ مِنْ فَلَكَئِ وَنَبِيٍّ مُرْسِلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَهِيدٍ مُسْطُورٍ فِي كَلَامِ

رحمیت کی ہر شے نکلے ہو یا نبی مرسل اور ولی و مرشد ہو یا شہید جو کلمے ہوئے ہیں کلام

إِلَهِي حَتَّى يُحِبُّونِي وَيَنْصُرُونِي فِي الدِّينِ وَالْدُّنْيَا بِرَحْمَتِكَ لِلْعِبَادِ

الہی میں حتیٰ کہ مجھ سے محبت کریں اور میری مدد کریں دین و دنیا میں بظہیر تیری رحمت کے واسطے ان بندوں کے

الْمُضْرَحِينَ فِي دَعْوَاتِهِمْ وَأَصْوَاتِهِمْ عِنْدَ نَزُولِ الْبَلَاءِ وَالتَّحَاقُّ الدَّاءِ

جو فریاد کرنے والے ہیں اپنی دعاؤں اور زاریوں والی آوازوں میں بلاؤں کے نزول اور بیماریوں کے لاحق ہونے پر

إِمَّا لِلْجِسْمِ كَأَنْوَاعِ الْأَمْرَاضِ فَتُعْطَى الشِّفَاءَ السَّارِيَّ فِي سَوَادِ الْأَدْوِيَةِ

نخواہ جسم کے لیے مانند مختلف اقسام کے امراض کے پس تو عطا فرما ایسی شفا جو سرایت کرے مرکب اور مفرد

الْمُرْكَبَةِ أَوِ الْبَسِيطَةِ وَإِمَّا لِلْبَوَاطِنِ الْحَسِيَّةِ حِينَ تَسْرِي الْهَوَاءَ فِيهَا

اور یہ میں اور نخواہ باطنی حواس کو لاحق ہوں جبکہ سرایت کرے ان میں ہوا و باد

مُعْتَمِدًا لِلْهَوِيَّةِ الْفَاسِدَةِ الْمَتَمَكِّنَةِ فِي الْعُرُوقِ فَتُخْرِجُهَا بِرَحْمَتِكَ وَ

ان فاسد ہواؤں کے بل بوتے پر جو رگوں میں قرار پذیر ہوتی ہیں پس نکال دے تو انہیں اپنی رحمت اور

شَفَقَةٍ ذَاعِيَةٍ إِلَى حِكْمَةٍ نَاجِيَةٍ وَتَرْحَمُ عَلَى السَّالِكِينَ الْمَتَوَجِّهِينَ إِلَيْكَ

شفقت سے جو داعی ہے نجات دینے والی حکمت کی طرف اور رحم فرما ان اہل سلوک پر جو تیری طرف متوجہ ہیں

حِينَ تَسْبِقُ الْخَطَرَاتُ الْمَانِعَاتُ لِلْوَصُولِ الْمَدْنِيِّ إِلَى رُوحِ تَطَهَّرَ قَدْ وَسِيٍّ

جبکہ شفقت سے جائیں خطرات و ممانعات جو وصول سے مانع ہوں طرف ان کے پاکیزہ قدوسی اور سبوحی

اور سبوحی

أَوْ سُبُوْحِي فَتَزِيْلُهُمَا مَحْوَةٌ فَطَهَّرْ مِنْ الْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى حَيْنَ

روحوں کے پس توڑنے زائل فرمائے انہیں ملیا میٹ کرتے ہوئے۔ پس پاکیزہ فرما ادنیٰ سے اعلیٰ ترین کی طرف ترقی دیتے

يَقُولُ عِنْدَكَ السَّالِكُ وَطَهَّرْ نِيَّ عَنِ الْخَطَرَاتِ كُلِّهَا صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا

ہوئے بگیر غرض کرے حضور سالک۔ اور پاک فرما مجھے تمام تر صغیرہ و کبیرہ خطرات و خیالات سے جو

الْمَانِعَةُ لِتَقَرُّبِي بِالْأَرْوَاحِ الْقُدُّوسِيَّةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْإِجَابَةُ لِصِرِّيْخِ نَاسُوتِي

مانع ہوں میرے تقرب میں ساتھ ارواح قدوسیہ کے اور اگر نہ میسر ہو تو قبولیت ناسوتی و مادی

أَوْ مَلَكُوتِي لَسَدَّ طَرِيقَ الرَّحْمَةِ وَفَرَحَتِ الشَّيَاطِينُ الدَّارِيَّةُ الْجَهَادِيَّةُ وَ

اور ملکوتی و روحانی فریادیوں کے لیے تو رحمت کا راستہ بند ہو جائے گا اور خوش ہوں گے جمادی و

الَّذِينَ مَجْبُوعُونَ عَنِ رِعَايَةِ الْحَقُوقِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْآخِرَوِيَّةِ الرَّحْمَانِيَّةِ فَالْجَنَّةُ

ناری شیاطین اور دنیوی و آخروی رحمانی حقوق کی رعایت سے محجوب و محروم لوگ پس جنت

رَحْمَةٌ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِي رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْمُظَاهِرَةُ الرَّحْمَانِيَّةُ ذَرَأَتُهَا تَصْرُخُ

رحمت ہے اور جو سعادت مند کئے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے منظر محل رحمت میں ہیں اور مظاہرہ رحمانیہ کے تمام ذرات نزاری اور فریاد

وَكُلُّ يَصْرُخُ وَيَسْتَعِيْثُ عَلَى قَابِلِيَّتِهِ وَتَعَلَّقَهُ بِمُظَهَّرِ خَاصِّ دُونِ خَاصِّ حَتَّى

کرتے ہیں اور مدد طلب کرتے ہیں اپنی قابلیت و استعداد اور تعلق پر ساتھ مظہر مخصوص کے بغیر دوسرے مظہر کے حتیٰ کہ

الْأَشْجَارُ وَالْجِبَادَاتِ عَلَى حَسَبِ أَجْدَارِيَّتِهِ حَتَّى قُلَّتْ وَخَاطَبَتْ لِزَكَرِيَّا عَلَيْهِ

نباتات اور جمادات بھی اپنی لیاقت اور صلاحیت کے مطابق حتیٰ کہ توڑنے فرمایا اور خطاب کیا حضرت زکریا علیہ

السَّلَامُ عِنْدَ الصَّرَاخِ وَالِدَّعْوَةِ إِلَى الرَّحْمَةِ بَعْدَ الصَّرَاخِ لِسَبْقَةِ الرَّحْمَةِ

السلام کو ان کی فریاد اور التجاہ رحمت کے وقت ساتھ (صبر اور) سکوت کے بسبب سبقت لے جانے رحمت باری کے

الذَّلِيْقَةُ بِالنُّبُوَّةِ الصِّدِّيَّةِ السَّابِقَةِ الْجَمَالِيَّةِ الْكَمَالِيَّةِ عِنْدَ الْفَرْعِ الْأَكْبَرِ وَهُوَ

جو لائق ہے مقام نبوت کے جو سبقت لے جانے والے صبر اور جمال و کمال والی ہے قیامت کے دن۔ اور وہ

فِي عَيْنِ الرَّحْمَةِ لِتَقْدِيرِ النُّبُوَّةِ الَّتِي هِيَ عَيْنُ ظُهُورِ الْمَالِكِيَّةِ وَالسَّلْطَنَةِ

عین رحمت میں ہیں بسبب مقدر ہونے ان کی نبوت کے جو سراپا ظہور ہے مالکیہ و سلطنت کا



الْمَجْرَدَةِ عَنْ شَوَائِبِ الظُّلْمَةِ مِنْ تَعْيِنَاتِ الْمُقَيَّدَةِ وَالشَّهَوَاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ

جو مبرا ہے ظلمت اور تاریکی کی آہیزشوں سے یعنی تعینات مقیدہ سے اور مختلف قسم کی خواہشات نفسانیہ سے

وَلَمْ يَكُنْ زَكْرِيَّا مَكْشُوفَ الْحَالِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَالْأَلَمَ يَقْصُدُ إِلَى

اور حضرت زکریا علیہ السلام مطلع نہ تھے حقیقت حال پر اس حالت میں ورنہ قصد نہ کرتے فریاد

الصَّراخِ وَالِاسْتِعَانَةَ بَلْ مَنَعَ الْقَلْبَ عَنِ الدَّعْوَةِ الْحَقِيقِيَّةِ لِإِيصَالِهِ

اور استغاثہ کا بلکہ روکنے دل کو حقیقی دعا سے بسبب واصل ہونے ان کے حق

إِلَى الْحَقِّ بِسَبَبِ دَاءٍ شَدِيدٍ أَلِيَمٍ مُفْرِقٍ لِلْهَيْئَةِ الْبَدَنِيَّةِ فَيَا إِلَهَ كُلِّ

کی طرف بسبب شدید اور دردناک بیماری کے جو پراگندہ کرنے والی تھی بدنی ہیئت کو پس لے تمام

مَوْجُودَاتٍ أَنْتَ رَحِيمٌ رَحِمَ بِاسْتِعْدَادِ الْخَاصِّ حَتَّى أَتَرْتَنِي فِي كُلِّ

موجودات کے معبود تو رحیم ہے پس رحم فرما استعداد خاص عطا فرما کہ حتیٰ کہ میں ترقی کروں ہر ہر

لِحُجَّةٍ وَبَرَهَةٍ مِّنْ غَيْرِ مَانِعٍ إِلَى جِسْمِي أَوْ قَلْبِي أَوْ غَلْبَةِ نَفْسِ أَمَّارِيَّةٍ

حجہ اور ساعت بغیر کسی جہان اور قلبی مانع کے اور نفس امارہ کے غلبہ کے

مُلْحَقَةٍ بِنَارِيَّةٍ وَهَارِيَّةٍ إِلَهِي الْأَنْتَ مُتَعَابِقَةٌ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ ظَاهِرَةٌ

جو لاحق کرنے والا ہے دوزخ کی آگ کے ساتھ اور اس میں گرانے والا ہے۔ لے میرے الٰہی تعینات مسلسل اور غیر محدود اور ظاہر ہیں

مُجُوبَةٌ عَنْ تَعْدِيدِ وَأَحْصَاءِ بَلْ مُتَحَيِّرَةٌ فِي قُوَّةٍ بَاصِرَةٍ فَحَمْدُكَ طَوِيلٌ

ان کی گنتی اور احاطہ ناممکن ہے بلکہ وہ تگاہوں کو حیران اور حیرہ کرنے والی ہیں پس تیری حمد کا سلسلہ دراز ہے۔

وَشُكْرُكَ عَسِيرٌ وَلُطْفُكَ يَسِيرٌ وَالْأَكِينُ أَنَا مُصِيبُ إِلَهِي قَدْ تَمَّتْ

اور تیرا شکر مشکل ہے اور تیرا لطف و کرم آسان ہے (از روئے حصول کے) ورنہ میں اسے کس طرح پا سکتا۔ لے میرے الٰہی شک نام

الْحَرَكَاتِ فِي الشَّخْصِيَّاتِ وَالسَّكِّنَاتِ فَكَيْلَنِي الْآنَ وَالْآنَ حَتَّى أَتَصَرَّفَ

و کمال ہرچی ہیں حرکات و سکنات کائنات کے اشخاص میں ہیں اب مجھے کمال فرما اور میرے اعضاء و اجزاء کو حتیٰ کہ میں تصرف

كُلًّا فِي مَرْكَزِهِ وَحَلِّهِ مَعَ بَصِيرَةٍ عَرَّافَةٍ لِحُجْرِيَّاتٍ لِاحْتِقَاقِ مَنَدْرَجَةٍ تَحْتَ

کروں ہر فرد کائنات میں اس کے مرکز اور محل میں مع اس بصیرت کے جو پہچان کرنے والی ہو جزئیات لاحقہ کی جو مندرج ہوں



وَلَايَةَ كَلْبِيَّةٍ بَحِيثٌ يُوَافِقُهَا الْوَلَايَةَ الْأَقْطَابِيَّةُ وَالْأَوْتَادِيَّةُ مَعَ فَتُونِ

ولایت کلبیہ کے تحت اس انداز سے کہ موافق ہوان کے ولایت اقطابیہ اور اوتادیہ بمع اپنے مختلف طریقوں کے

طُرُقَهَا طَاوِيَةً لِعَلِيٍّ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا اللَّهُمَّ كَيْسَلُ أَوْقَاتِي

در آنجا یکہ وہ ولایت لیٹنے والی ہو ظاہری و باطنی علموں کو ان کے ظاہر سے - لے اللہ کامل فرما میرے اوقات

وَتِمِّمْ اِنَانِي بِحَيْثُ تُمَخَّلِصُهُ عَنْ تَشْوِيْشَاتِ خَطَرَاتِي وَوَسَاوِسِ خَنَاسِي

کو اور مکمل فرما میرے لمحات کو اس انداز سے کہ خالص کر دے انہیں میرے اندیشوں کی پراگندگیوں اور خاس کے دوسوں کے

اللَّهُمَّ بِنُورِكَ السَّاطِعِ فِي بَدَنِي حَتَّى تَمْلَأَ عُرْوَتِي وَأَمْعَانِي وَيُخْرِجَ مِنْ

لے اللہ بسبب اپنے نور کے جو غلبہ پانے والا ہے میرے بدن میں حتی کہ میری رگڑ اور استریوں کو کھری کر دے اور

حَدَقَةِ بَصَرِي شُعَاعٌ مُجِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَيَصِيرُ نَحْوَ الْعَلْتِ غِذَاءً لِمَنْ

برآمد ہو میری آنکھ کی پتلی سے ایسی شعاع جو ہر شئی کو محیط ہو اور ہو جائے مانند جو ملی گندم کے غذا واسطے ہر اس شخص

يُقَابِلُ بِهِ وَيَسْتَرْشِدُ هَذَا مِنْ اِعْطَائِكَ وَاللَّهُمَّ نُورِكَ مِعْرَ لِمَنْ

کے جو سامنے آئے اور یہ رشد اور بھلائی تیری عطا اور توفیق سے ہی حاصل کی جاسکتی ہے - لے اللہ تیرا نور عزت بخشنے والا ہے تیری

يَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ وَمِنْ اِلْمَنْ يُعْرَضُ عَنْكَ فَعِظْمِي بِمِشَاهِدَةِ اِنْوَارِكَ وَبِالْعَلْتِ

طرف متوجہ ہونے والے کو اور ذلیل کرنے والا ہے تجھ سے منہ موڑنے والے کو، مجھے عظمت بخش اپنے انوار کے مشاہدہ کے ساتھ اور ساتھ اختلاط

مَعْ هَذِهِ الْأَمَارَةِ حَتَّى تَصِيرَ مُطْمَئِنَّةً فَادْخُلِي يَوْمَ السَّرُورِ فِي الْخِطَابِ فَذَلِكَ

انوار کے ساتھ نفس امارہ کے یہاں تک وہ نفس مطمئنہ بن جائے تاکہ ہو جائے مخاطب دخول جنت کے حکم کا سرور کے دن - یہی ہے

غَايَةُ مُجْدِي وَفَخْرِي فَأَعْطِنِي فِيهَا أَمِينٌ يَا عَظِيمُ ذَا الشَّنَاءِ الْفَاخِرِ وَالْعَزْوِ

میری انتہائی بزرگی اور سرمایہ فخر پس مجھے عطا فرما اس سے آمین - لے عظیم - لے قابل فخر شفاء اور عزت و کبر بانی

الْكِبْرِيَاءِ عَظْمِي بِالشَّنَاءِ لَكَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ وَاجْعَلْنِي ذَا فِخْرِي بِحَيْثُ

کے مالک مجھے عظمت بخش اپنی ثنا کے ساتھ مانند اس ثنا کے جو ذات کے لیے کی ہے اور بنا دے مجھے ایسے فخر و اعزاز والا

لَا يَزَالُ وَلَا يَخْفِضُ وَاجْعَلْنِي عَزِيْزًا فِي الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ أَمِينٌ يَا قَرِيبُ

کہ جو نہ زائل ہو اور نہ پست ہو اور بنا مجھے عزت والا اپنے ملک و مملکت میں آمین - لے قریب

الْبُحْبُوبِ الْمَكْدَانِيِّ دُونَ كُلِّ شَيْءٍ قَرِيبَةٍ قَرِيبِي إِلَى الْعَقْلِ الْأَوَّلِ وَالْمَلِكِ

اے قبول کرنے والے۔ اے بہت فیض رساں۔ ہر چیز سے مقدم ہے قرب جس کا مجھے قریب فرما عقل اول اور ملک

الْمُقَرَّبِ صَاحِبِ اللُّوحِ وَالْأَمِّ نَمَّ مِنْهُ إِلَى أَنْوَارِهِ قِيَادِينَ الْجَمَالِ وَالْجَلَالِ فَأَجِبْنِي

مقرب کے جو لوح محفوظ اور ام کتاب پر منکمل ہے۔ پھر اس سے ان انوار کی طوف جرحال و جلال کا وسیع میدان ہیں پس قبول

يَا مُجِيبَ اللَّهُمَّ أَنْتَ مُحِيطٌ قَرِيبٌ بِكُلِّ شَيْءٍ بَلَّا كَيْفٍ وَلَا كَيْفَ بَلْ هَذَا الْوَصْفُ

فرما مجھے۔ اے قبول کرنے والے۔ اے اللہ تو محیط و قریب ہے ہر شئی کے بلا کیف و کم بلکہ یہ توصیف بھی

أَيْضًا كَيْفٌ عِنْدَ التَّنْزِيهِ الْإِطْلَاقِي وَالْتَّعْبِيرُ لِرُضْرُودَةِ دَاعِيَةٍ فِي الْعَبْدِ بوجُودِ

اشیاء کیف (کے علم میں) ہے تنزیہ مطلق کے وقت اور ہماری یہ تعبیر لوجہ مجبوری کے ہے جو داعی ہے عبد کے لیے بسبب پلنے

التَّعَدُّرِ فِي الْأَدَاءِ الْمَطْلُوقِي وَأَنْتَ مُتَزَكِّةٌ لَنْ أَنْ تُعْبَدَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي مَقَامِ

جلانے تغدر و استخار کے اداء مطلق میں اور تو منزہ ہے اس سے کہ تجھ پر حکم کیا جائے۔ اے اللہ بنا مجھے مقام

الْإِطْلَاقِ بِالْقُرْبِ مِنْكَ إِلَى أَنْ يُسْقَطَ غَيْرُكَ ثُمَّ الْعِبَارَةُ أَيُّ عِبَارَةٍ كَانَتْ بَلْ

اطلاق اپنا قرب عطا فرما کر حتیٰ کہ ساقط ہو جائے تیرا مساوا (میری نظر سے) پھر تعبیر جیسی ہی ہو مضائقہ نہیں بلکہ ہو

مَلَا حِظًا بِعَيْنِ الْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْحَصِرَ فِي مَقَامِ دُونَهُ بَلْ تَشْرَعُ إِلَى وَرَاءِ

جا میں مشاہدہ کرنے والے دل کی آنکھ کے ساتھ بغیر مقید ہونے کے ساتھ ایک مقام کے بغیر دوسرے مقام کے بلکہ تیزی سے پیچھے وہ تعبیر

فَلَكَ الْأَفْلَاقُ وَلَا تُقَرِّبْنِي مِنَ النَّاسِ وَتَنِي الصَّلَاةَ إِلَى الْعَنْصَرِيِّ الْكَثِيفِيِّ

فلک الافلاک کے پار اور نہ قریب فرما مجھے ناسوتی، اضنی، خشک بچنے والی کثیف عنصر والی مادی اشیاء کے

وَقَرِّبْنِي إِلَى أَبِي الْأَرْوَاحِ الْمُحَمَّدِيِّ بِالرُّوحِ وَالْقَلْبِ حِينَ بَقَاءِ

بلکہ قریب فرما مجھے البر الارواح روح محمدی کے روح و قلب کے ساتھ تا وقتیکہ

الشَّخْصِ الْعَنْصَرِيِّ أَمِينٍ بِحَقِّ يَا غِيَا تَنِي عِنْدَ كُلِّ كُرْبَةٍ وَمَعَاذِي عِنْدَ

شخص عنصری باقی ہے آمین بطغیل (ان التماؤل کے) اے میرے فریادرس ہر غم و اندوہ میں اور جانے پناہ

كُلِّ شِدَّةٍ وَمُجِيبِي عِنْدَ كُلِّ دَعْوَةٍ وَرَجَائِي حِينَ تَنْقَطِعُ حِيلَتِي أَرْجَبُ

ہر شدت اور سختی میں اے قبول فرمانے والے دعا کے وقت ہر سوال و دعا کے۔ اے میری جہاد و امید وقت منقطع ہو جانے جیگر کی

هَذِهِ الدَّعَوَاتُ مِنِّي عِنْدَ كُلِّ دَعْوَةٍ مِّنْ شَبَرِ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ إِلِلَهِيَّةِ أَمِينٍ ط

قبول فرما میری ان دعوات کو وقت قبول فرمائے کسی بھی دعا کے بطفیل و تصدق ان اسماء الہیہ کے آمین

يَا مَوْلَانِي وَيَا نَجْوَانِي وَيَا شَكْوَانِي عَبْدُكَ قَدْ ضَاقَتْ بِهِ الْأَسْبَابُ وَ

اے میرے مولیٰ۔ اے میرے ہمنشین و مشیر۔ اے میری شکایات دور کرنے والے تیرے اس عبد پر اسباب و وسائل

غُلِقَتْ دُونَهُ الْأَبْوَابُ وَتَعَدَّرَ عَلَيْهِ سُلُوكُ طَرِيقِ الصَّوَابِ وَزَادَ بِهِ

تنگ ہو چکے ہیں اور اس کے سامنے دروازے بند کر دئے گئے ہیں اور مشکل ہو گیا ہے اس پر راہ راست پر چلنا اور بڑھ گیا

الْهَمُّ وَالْغَمُّ وَالْإِكْتِيَابُ وَالنَّقْضُ عُمُرًا وَلَوْ يَفْتَحُ لَهُ إِلَى فَيْسِحِ تِلْكَ الْحَضْرَاتِ

ہے اس کا غم و اندوہ اور حزن و ملال اور ختم ہونے کو ہے عمر اس کی اور ابھی تک نہیں دور ہوئی اس کے لیے ان بارگاہوں کے وسیع میدانوں

وَمَنَاهِلِ الصَّفْوِ وَرَاعَاتِ بَابِهِ وَالتَّفْسُ ذَاتُفَةٌ فِي مِيدَانِ الْغَفْلَةِ وَذَنِيٌّ

اور شفاف پانی کے گھاٹوں کی طرف جانے والے راستہ کی رکاوٹیں۔ اور اس کا نفس لذت گیر ہے میدان غفلت میں اور اینٹے ہونے

الْإِكْتِسَابِ وَأَنْتَ الْمَرْجُو لِكَشْفِ هَذَا الْمَصِيبِ هَاهَا هَاهَا هَاهَا

ہے گھٹیا افعال کو اور تجھی سے امید کی جاتی ہے اس اُفتق کے دور کرنے کی۔ افسوس، افسوس ۱-۱

هَاهَا هَاهَا هَاهَا أِقْبَمِي بِصَدَقِ الْعِبُودِيَّةِ بَيْنَ يَدَيْكَ أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ

اے۔ اے۔ اے۔ قائم فرما مجھے سچی بندگی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں آمین۔ آمین۔ آمین

أَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

آمین۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان اسماء کے طفیل کہ صلوات نازل فرمائے محمد کریم پر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَرْزُقَنِي إِيْمَانًا وَأَمَانًا مِّنْ عُقُوبَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اور آل محمد پر اور مجھے ایمان و امان نصیب فرمائے دنیا و آخرت کی عقوبتوں سے

وَأَنْ تُصَرِّفَ عَنِّي أَبْصَارَ الظُّلْمَةِ وَالْمُرِيدِينَ بِنَا السُّوءِ وَأَنْ تُصَرِّفَ

اور پھیر دے مجھ سے ظالموں کی اور بڑے ارادہ والوں کی نظروں کو اور پھیر دے

قُلُوبَهُمْ عَنِ شَرِّ مَا يُضْهِرُونَ نَهْ إِلَى خَيْرٍ فَالْإِبْدَكَ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ

ان کے دلوں کو اس پر شہیدہ شر سے طرف اس خیر کے جس کا سوائے تیرے کوئی مالک نہیں ہے۔ اے اللہ یہ دعا و التجاہ ہے

مِئِي وَمِنْكَ الْإِجَابَةُ وَهَذَا الْجُهْدُ مِئِي وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا

میری طرف سے اور قبولیت تیری طرف سے ہی ہے۔ اور یہ میری سعی و کوشش ہے اور تجھی پر توکل ہے اور نہیں

قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

قوت و طاقت مگر ساتھ اللہ علی عظیم کی توفیق کے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْيِي بِهَا رُوحِي وَتُوقِرُ بِهَا قَلْبِي وَتُرْفَعُ بِهَا حُجُبِي وَتُنَوِّرُهَا

جس صلوات کے طفیل زندہ کر دے میری روح کو اور باوقار بنائے میری فتوحات کو اور اٹھائے میرے حجابات کو اور نور فرمائے

قَلْبِي وَتُتَاكِدْ بِهَا حُبِّي وَتُحَقِّقْ بِهَا قُرْبِي وَتُرْزُقْنِي بِهَا لَبِّي وَتُفَرِّجْ بِهَا

میرے دل کو اور راسخ فرمائے میری محبت کو اور پائیدار بنائے میرے قرب کو اور پاک فرمائے میری عقل کو اور دور فرمائے

كُرْبِي وَتُكْشِفْ بِهَا غَيْبِي وَتَغْفِرْ بِهَا ذَنْبِي وَتَسْتُرْ بِهَا غَيْبِي وَتُوَهِّلْنِي

میرے رنج و الم کو اور دور کرے غم و اندوہ کو اور بخش دے میرے گناہ اور چھپا دے میرے عیوب کو اور اہل و قابل بنائے مجھے

بِهَا لِرُؤْيَيْهِ وَمُشَاهَدَتِهِ وَرِضَايَهُ وَتُعَهِّدْنِي بِمُكَالَمَتِهِ وَمُشَافَهَتِهِ

اپنے محبوب کے مشاہدہ و دیدار کے اور ان کی رضامندی کے اور تو عہد فرما میرے ساتھ ان سے ہمکلام کرنے اور رو بہ رو بات چیت

وَوَقْفَتِي لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى بِتَوَجُّهِ الْعَاقِفَةِ بِالرِّضَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

کرنے کا۔ اور مجھے توفیق دے اپنے محبوب اور پسندیدہ امور کی بسبب متوجہ کرنے و رغبت و رضاکے میری طرف۔ اے اللہ صلوات

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ الْأَحَادِيثِ وَالْأَثَارِ فِي جَمِيعِ

نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر مطابق تعداد تمام احادیث اور آثار کے جو تمام

كُتُبِ السَّمَاوِيِّ وَكُتُبِ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آسمانی کتابوں اور ابرار کی کتابوں میں ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَخْبَارِ فِي الْإِحْفَاءِ وَالْإِظْهَارِ مِنْ

آل محمد پر مطابق تعداد تمام دلائل اور اخبار کے خواہ اخفاء سے منقطع ہیں یا اظہار سے

كُلِّ الدُّنْيَا وَالذُّهُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ساری دنیا سے اور تمام زمانوں سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ بَعْدَ دُخُلِ حَرَكَاتِ الْقَائِمِينَ الْقَائِدِينَ وَذَرَاتِ الْأَرْضِينَ وَحَرَكَاتِ

پر مطابق تعداد تمام اہل قیام اور اہل قعود کی تمام حرکات کے اور تمام زمینوں کے تمام ذرات کے اور آسمانوں

السَّمَوَاتِ وَقَرَارِ الْأَرْضِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کی حرکات اور زمینوں کے قرار کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الرَّحْمَةِ وَالرَّضْوَانِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالْغُفْرَانِ فِي بُحْبُوحَةِ

محمد پر مطابق تعداد ہر رحمت اور رضوان کے اور مغفرت اور غفران کے جنتوں کے وسط اور اعلیٰ مقام

الْجَنَّةِ بِفَضْلِ الرَّحْمَانِ بِالْإِيقَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

میں ساتھ فضل رحمن کے سبب توفیق ایقان کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دَمْلِ الْمِيزَانِ وَأَقْرَبِ الصَّنَدَانِ وَشَتَائِنِ وَشُبَّانِ وَ

آل محمد پر مطابق میزان کی پری۔ بلند ٹیلوں کی مقدار اور عداوت و دشمنی اور تمام جوانوں اور

نُجُجَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا

بہادروں کی مقدار کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد شب و روز

تَكَرَّرَ الْجُدِيدَانِ وَمَا تَعَاقَبَ الْعَصْرَانِ وَمَا اسْتَحَبَّ الْفَرَقْدَانِ وَحُلُوبَانِ وَ

کے تکرار کے اور زمانوں کے تعاقب و تسلسل کے اور فرقان نامی ستاروں کی باہمی محبت کے اور ہر شیرینی و ہدیہ

فِيضَانِ وَفُرْقَانِ وَمُدَاهَا مَتَّانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور فیضان و فرقت اور سرسبز ترین جنتوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

بَعْدَ الْقُدْرَةِ وَالْإِمْكَانِ وَالْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ وَالْخَيْرِ وَالْإِيقَانِ وَالْإِسْلَامِ وَ

مطابق تعداد تقدر ببرات اور ممکنات کے اور برو احسان اور خیر و ایقان اور اسلام

الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

و ایمان کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد

صَائِمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي آخِرِ عَشْرَةِ الرَّمَضَانَ اللَّهُمَّ

ماہ رمضان کے روزہ داروں کے اور قیام کرنے والوں کے لیلۃ القدر میں عشرہ اخیرہ کے اندر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دَمْلِحِ الْعَيُونِ

صلوٰۃ و سلام نازل سیتنا محمد پر اور سیتنا محمد کی آل اطہار پر مطابق تعداد شور چشموں کے

وَخَيْرِ مِمَّا يَجْمَعُونَ ۝ وَالْخَوَاطِرَ وَالظُّنُونِ وَفُتُونِ وَيَسْحُونِ وَيَجْبُونِ وَعَوْنِ

اور جمع کی ہوئی خیر اور بھلائیوں کے اور خیالات و گمانوں کے اور فتون و اقسام اور یسحون و یجبون اور امداد و اعانت کے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ اِلْعَاضَاءِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد اعضا کے

وَتَسْحِيْرَهَا وَالسَّفَرِ وَمَنْزِلِهَا وَالْهَدْيِ وَسُكَّانِهَا وَالْقَدْرِ وَعُطَيِّهَا اللّٰهُمَّ

اور ان کی سحر نیز بوں کے اور سفروں اور ان کی منزلوں کے اور سیرتوں اور ان پر کار بند لوگوں کے اور تقدیروں اور ان کی پردہ داروں

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ النُّجُومِ وَكُوَاكِبِهَا وَ

کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد نجوم و کواکب کے اور

النَّبَاتَاتِ وَاصْنَافِهَا وَالْاشْجَارِ وَاوْرَاقِهَا وَالْاحْجَارِ وَرِمَالِهَا اللّٰهُمَّ صَلِّ

نباتات اور ان کے اقسام کے اور درختوں اور ان کے پتوں کے اور پتھروں اور ان کے ذرات کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذُرَّاتِ الشَّمْسِ وَ

و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ذرات آفتاب کے اور

مَنَازِلِهَا وَالطُّيُورِ وَاَجْنِحَتِهَا وَالْمَدَارِ وَالثَّقَالِهَا وَالْقَمَرِ وَاَنْوَارِهَا اللّٰهُمَّ

اس کی منزلوں کے اور پرندوں کے اور پرندوں کے اور وھیلوں کے اور ان کے نقل و اوزان کے اور چاند اور اس کے انوار کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْوُحُوشِ وَبِلِهَا

صلوات و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد جنگلی جانوروں کے اور ان کے احوال کے

وَالْاَعْوَامِ وَشُهُورِهَا وَدَوَامِ دُهُورِهَا وَالْعُمُومِ وَسُرُورِهَا اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور سالوں کے اور ان کے مہینوں کے اور زمانوں کے دوام اور ان کے عمول اور خوشیوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْبِحَارِ وَاَمْوَاجِهَا وَالْاَيَّامِ

نازل فرما سیتنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد سمندروں کے اور ان کی امواج کے اور ایام

وَكَيْالِيهَا وَالْعِلْمَ وَاقْتِيَاسَهَا وَالْعُلُومَ وَاقْتِيَاسَهَا وَالْكَوَاكِبَ وَمَنَازِلَهَا

اور ان کی راتوں کے اور علم کے اور اس کے قیاسات کے اور علوم اور ان کے حصول و استفادہ کے اور ستاروں اور ان کی منازل کے

وَالْمَلَائِكَةَ وَتَسْبِيحِهَا وَالسِّيَّارَاتِ وَتَسْبِيحِهَا وَالْقَمَرَ وَتَثْلِيثِهَا وَالشَّمْسَ وَ

اور ملائکہ اور ان کی تسبیحات کے اور سیارات اور ان کے شش پہلو ہونے کے اور چاند اور اس کے سہ پہلو ہونے کے اور سورج

تَحْوِيلِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْإِيَّامِ

اور اس کے ڈھٹنے بدلنے کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ایام

وَسَاعَاتِهَا وَالْأَحْيَاءَ وَأَمْوَاتِهَا وَشُهُورِهَا وَسَنِيَّاتِهَا وَدُهُورِهَا وَدِيُومِهَا اللَّهُمَّ

اور ان کی ساعات کے اور زندہ لوگوں اور ان کے فوت شدگان کے اور مہینوں۔ سالوں اور زمانوں اور ان کی قدیمی و درازی

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْبَخْلُوقَاتِ وَأَنْفُسِهَا

کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد مخلوقات کے اور ان کے نفوس کے

وَالْأَجْسَامَ وَأَرْوَاحِهَا وَالْأَقْطَابَ وَخِيَالِهَا وَالْأَعْوَاتِ وَحَالِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ

اور اجسام اور ان کے ارواح کے اور اقطاب اور ان کے خیالات کے اور اعوات اور ان کے احوال کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْإِفْلَاقِ وَأَبْرَاجِهَا وَالطَّبَائِعِ

و مسلم نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد انفلاق کے اور ان کے برجوں کے اور طبائع کے

وَأَمْتَرِاجِهَا وَمُتَرَدِّدِ الْحَالِ وَاسْتَمْرَاجِهَا وَالْمَرِيضِ وَاسْتِعْلَاجِهَا اللَّهُمَّ

اور ان کے باہم اختلاط کے اور پرانندہ حال اور موافق طبائع والوں کے اور مریضوں کے اور ان کے معالجات کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الدَّوَابِّ وَنَوَاشِيئِهَا

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد جانوروں اور نویشیوں کے

وَالشَّرَافِ وَأَشْرَافِهَا وَالْإِنْكَشَافِ وَالْإِنْكَشَافِهَا وَالتَّحَافِهَا وَالطَّافِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ

اور شرفاء و اشراف کے اور انکشافات و توضیحات کے اور پٹنے اور عنایات کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَنْفَاسِ الْبَخْلُوقَاتِ وَحُرُوفِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تمام مخلوقات کے انفاس کے اور لوح محفوظہ کے حروف کے

اللَّوْحِ وَالذَّعْوَاتِ وَالتَّوْبَةِ وَاسْتِجَابَتِهَا وَالْخُشُوعِ وَاجْبَاتِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور دعوات کے اور توبہ اور اس کی قبولیت کے اور خشوع و فروتنی کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دَسْوَاكِنِ سَبْعِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد سکونت پذیروں کے ساتوں زمینوں اور آسمانوں میں

وَأَشْعَارِ الْمَوْجُودَاتِ مَعَ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالْإِرَادَاتِ وَالْخَيَالَاتِ اللَّهُمَّ

اور موجودات کے بالوں اور حرکات و سکنت کے اور ان کے ارادوں اور خیالات کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ فَضْلِ اللَّهِ وَشُكْرِ اللَّهِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد اللہ تعالیٰ کے فضل و شکر کے

وَذِكْرِ اللَّهِ وَاقْتِصَادِ اللَّهِ وَأَفْصَادِ اللَّهِ وَأَطَادِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور اس کے ذکر کے اور اس کی عطا کردہ میانہ روی اور جاگیروں اور بلند لیوں اور برتریوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ قَضَاءِ اللَّهِ وَبِهَاءِ اللَّهِ وَإِصْطِفَاءِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنی قضاء اور اس کی نورانیت اور اس کے انتخاب کے

اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِعْنَايَةِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنی عنایت کے

اللَّهُ وَحِمَايَةِ اللَّهِ وَأَحْبَابِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور حمایت اور احباب کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ إِسْخِيَاءِ اللَّهِ وَأَنْبِيَاءِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر مطابق تعداد اپنے سخیوں اور نبیوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ اتَّقِيَاءِ اللَّهِ وَأَوْلِيَاءِ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنے متیقن اور اپنے اولیاء کرام

اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنے



سَعْدَاءِ اللَّهِ وَشَهْدَاءِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سعادتمندوں اور شہیدوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دُنْبِيِّ اللَّهِ وَرَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر مطابق تعداد اپنے ہر نبی اور ہر رسول کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَوْلِيَاءِ الْعِزْمِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنے اولوالعزم مرسلین کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ نَجِيبِ اللَّهِ وَأَقْبَابِ اللَّهِ وَبَيِّنِ اللَّهُ

زما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنے ہر نجیب و بلند شان اور امین بندے کے اور اپنے بیان

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ خَيْرَةِ اللَّهِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنے پسندیدہ افراد کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ خَيْرِ اللَّهِ وَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد اپنے ہر پسندیدہ اور

حَبِيبِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

محبوب کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد

كَرَامَةِ اللَّهِ وَحُجَّةِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اپنی کرامت و بزرگی کے اور اپنی دلیل و حجت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ بَعْدَ إِهْدَائِهِ اللَّهُ وَصَفْوَةِ اللَّهِ وَعِبَادِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پر مطابق تعداد اپنی ہدایتوں کے اور اختیار و انتخاب کے اور تمام بندوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ رِضَاءِ اللَّهِ وَعِلْمِ اللَّهِ وَخِلَاصَةِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر مطابق تعداد اپنی رضا اور علم اور اپنی خالص و مخلص مخلوق کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد

نُقْبَاءَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنے مقرر کردہ نقباء و نگہبانوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

بَعْدَ نَجْبَاءِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مطابق تعداد اپنے عالی مرتبت بندوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل

مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَقْطَابِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

پر مطابق تعداد اپنے مقررہ فرمودہ اقطاب کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ غَوَاثِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آل اطہار پر مطابق تعداد اپنے مقرر فرمودہ غواث کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ عُشُوقِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آل اطہار پر مطابق تعداد اپنے تمام تر عشقوں اور محبتوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ عُشَاقِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

آل محمد پر مطابق تعداد اپنے تمام عشاق کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ عِشْقِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

محمد پر مطابق تعداد ہر عشق خلق کے جو متعلق ہے تیری ذات سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَعْشُوقِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

پر مطابق تعداد اپنے ہر معشوق و محبوب کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ بَيِّنَاتِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کی آل پر مطابق تعداد اپنی تمام بیانات و واضح آیات کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ بِلَادِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ کی آل پر مطابق تعداد اپنے تمام بلاد اور آبادیوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَصْفِيَاءِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد اپنے تمام اصفیاء و خاص عباد کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دُخْلُوقِ اللَّهِ إِلَهُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَىٰ

محمد و آل محمد پر مطابق تعداد اپنی تمام مخلوق کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ طَهِّ وَطَسِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد طہ اور طس کے۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ إِسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد اسماء حسنی کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْوَرَىٰ وَالثَّرَىٰ اللَّهُمَّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد تمام مخلوق کے اور دلہنی ٹٹی کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلَّمَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ السَّيَّارِ وَالثَّرِيَّا

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد سیارات کے اور تریار کے ستاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الرِّيحِ وَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر آندھی اور

الْبَوَارِي وَالصُّحُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

جنگلات اور صحراؤں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطوار

مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا خَلِقَ فِي الْبَدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

پر مطابق تعداد تمام مخلوق کے ابتداء و انتہاء میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا دَامَتِ الْبَرَكَاتُ وَالصَّلَوَةُ وَالرَّحْمَةُ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق برکات و صلوات اور رحمت کے دوام کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كَيْلَةِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق شب معراج

الْبِعْرَاجِ وَالْإِعْمَامَةِ وَالنَّجَاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور عمامہ اور تاج کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنَازِلِ الْقَمَرِ وَالسَّفْعِ وَالْوَتْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

کی آل پر مطابق تعداد منازل قمر کے اور ہر جنت و طاق کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الشُّوكِ وَالشَّجَرِ وَالشَّمْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر کانٹے اور درخت اور پھل کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا دَارَ الدَّهْوَرُ اللَّهُمَّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جب تک زمانہ دائروں ساڑ رہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا تَكَرَّرَ رَجَبٌ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جب تک بہترین مہینہ رجب

خَيْرِ الشُّهُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

بار بار آنار سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد

بَرَكَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ رَحْمَتِكَ

اپنی برکات کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد اپنی رحمتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا أَفْتِكَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد اپنی رافت و مہربانی کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ رِضْوَانِكَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد اپنی رضا و رضوان کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَعْلُومٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ایسے معلومات

لَكَ وَقِرَانِ اسْمِهِ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

کے اور مقارن ہونے اس (محبوب) کے اسم کے ساتھ تیرے اسم کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

آل پر مطابق تعداد روزہ رکھنے والوں کے ماہ رمضان میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْبَحْرِ وَأَنْهَارِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

محمد پر اور آل محمد پر مطابق تمام سمندروں اور دریاؤں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الرُّسُلِ إِلَىٰ أَعْلَىٰ الدَّرَجَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد بلند مرتبت رسولوں کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ وَاهِبِ الْعَطِيَّاتِ وَالْخَيْرَاتِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد عطیات و خیرات کے ہمہ کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا خَلَقَ فِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق سمندروں کی مخلوقات

إِبْحَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنْ صَلَّى

کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد درود بھیجنے

عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

والوں کے ان پر تیری مخلوق میں سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

بَعْدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

مطابق تعداد ان اشیاء کے جنہیں تیرا علم محیط ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا جَرَىٰ بِهِ قَلْبُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

پر مطابق تعداد ان اشیاء کے جن کے ساتھ تیرا قلب جاری ہوا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا نَفَذَتْ بِهِ مَنِيَّتُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کی آل پر مطابق تعداد ان اشیاء کے کہ نافذ ہوئی ان کے ساتھ تقدیر تیری۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنْ عَلَّمَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور آل محمد پر مطابق تعداد ان حضرات کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ان علوم کے جو اللہ نے سکھائے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ اللَّيَالِي وَالذُّهُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر مطابق تعداد راتوں اور زمانوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ خَلْقِ نُورِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

اور آل محمد پر مطابق تعداد اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ انوار کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر رات کے جو اپنی تاریکی کے ساتھ ڈھانپ لے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر دن کے جبکہ روشن ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الرَّمْلِ وَالْثَرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ریت کے ذرات کے اور گیل مٹی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ خَلْقِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد اپنی مخلوقات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ رَمْلِ الْفَقَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ویرانوں کی ریت کے دانوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الزُّهُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد تمام کلیوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ التَّوَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد گناہ سے بھاگنے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دُحُوشِ الْفَقَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد جنگلات کے جانوروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْبَرَايَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد تمام مخلوقات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَنْتَ مُلَاحِظُهَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد ان اشیاء کے جن کا تو ملاحظہ کرنے والا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دَخْلِكَ اللَّهُ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد اس مخلوق کے

فِي حَيْثُ مَحْفُوظٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جوان کی محبت کی وجہ سے محفوظ ہے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

بَعْدَ مَا فِي اللَّهِ مَلْطَاطُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

مطابق تعداد اللہ تعالیٰ کی شدید محبت کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دَرَاغِ الْمَظَاطِ حِفَاطُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اطہار پر مطابق تعداد بدخلقی سے منزہ محافظوں کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنْ تَبَعْتَهُ يَوْمَ الْبَعْثِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد ان لوگوں کے جنہیں تو اٹھائے گا قیامت کے دن۔ لے اللہ صلوات

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا هُوَ حَاضِرٌ بَيْنَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد حاضر ہونے والوں کے

يَدَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

تیرے حضور میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد

مَا هُوَ تَابَتْ بِتُبَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ان کے جو تابت و قائم ہیں تیرے قائم رکھنے سے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنْ أَحْبَبْتَهُمْ وَنَصَرْتَهُمْ عَلَى أَعْدَاءِ الدِّينِ اللَّهُمَّ

آل اطہار پر مطابق تعداد ان اہماء کے جن سے تو نے محبت کی اور انہیں اعدا دین پر مدد دی۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الدَّاءِ وَالذَّوَاءِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر بیماری کا ویراں کی دوا کے



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد

جَوَاهِرِ الْفَرْدِ الَّتِي أَثْبَتَهَا الْكَلَامِيُّونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ان جواہر فردہ کے جنہیں متکلمین نے ثابت کیا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْإِسْتِعْدَادِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْعَقْلِيُّونَ اللَّهُمَّ

اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ان استعدادات کے جن کا تذکرہ کیا اہل عقل اور فلاسفہ نے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْمَذَاهِبِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد مذاہب کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْمَشَارِبِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد مشارب و سالک کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَقْوَالِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد اقوال کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَحْوَالِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد احوال کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَفْعَالِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد افعال کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَعْمَالِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اعمال کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ آيَاتِكَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنی آیات

الْبَيِّنَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

بیانات کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد



مُقَدِّرَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنے مقدرات کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

بَعْدَ مُرَادَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اپنے ارادہ کے متعلقات کے مطابق۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَسْمُوعَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

پر اپنے مسموعات کے مطابق۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مُبْصِرَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آل محمد پر اپنے مبصرات کے مطابق۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَرْضَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنی رضامندیوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مُكُونَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنی مخلوقات کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ زَلَالِ اسْمَائِكَ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنے اسماء کے عکسوں اور پرتوں کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ صِفَاتِكَ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنی صفات کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد

شَاهِدَاتِهِ الْأَبْصَارُ وَسَمِعَاتِهِ الْأَذَانُ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ

ان اشیاء کے جن کا آنکھوں نے مشاہدہ کیا اور جنہیں کانوں نے سنا اور صلوات و سلام نازل فرما آنحضرت پر مطابق تعداد

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَ

ان پر درود بھیجنے والوں کے اور صلوات و سلام فرما ان پر مطابق تعداد درود نہ بھیجنے والوں کے۔ اور صلوات و

سَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا

سلام نازل فرما ان پر جیسے تجھے محبوب و پسندیدہ ہے کہ ان پر درود بھیجا جائے اور صلوات و سلام نازل فرما ان پر جیسے کہ

أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ

تو نے ہمیں ان پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے اور صلوات و سلام نازل فرما ان پر جیسے کہ لائق ہے ان کے کہ ان پر درود بھیجا جائے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ نِعْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ان پر اور ان کی آل پر مطابق تعداد اپنی نعمتوں کے اور

أَفْضَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

فضل و کرم کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کے اہل و اصحاب

وَأَوْلَادِهِ وَأَحْفَادِهِ وَأَسْرُؤِ وَجْهِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِزَّتِهِ

اور اولاد پر۔ نواسوں۔ ازواج مطہرات اور ذریعات و اہل بیت پر اور عزت

وَعَشِيرَتِهِ وَأَصْهَارِهِ وَأَصْحَابِرِهِ وَأَخْتَانِهِ وَأَحْبَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَ

و عشیرت پر اور آپ کے تمام سسرول پر اور دامادوں پر اور احباب و متبعین پر اور

أَشْيَاعِهِ وَأَنْصَارِهِ وَخَزَائِنِ أَسْرَارِهِ وَمَعَادِنِ أَنْوَابِرِهِ وَكُنُوزِ

اہل جماعت و انصار پر اور آپ کے اسرار کے خزانہ کرنے والوں اور انوار کے معاون و مظاہر پر اور

الْحَقَائِقِ وَهَدَاةِ الْخَلَائِقِ وَنُجُومِ الْإِهْتِدَاءِ لِمَنْ اقْتَدَىٰ بِهِمْ

حقائق کے خزانوں پر اور ہادیانِ خلائق اور ستارگانِ ہدایت پر واسطے اہل اقتداء کے

وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا دَائِمًا أَبَدًا وَأَرْضَ عَنْ كُلِّ الصَّحَابَةِ رِضَىٰ

اور سلام نازل فرما بے شمار۔ دائمی و ابدی سلام اور راضی ہو تمام صحابہ کرام سے دائمی رضامندی کے ساتھ

سَرْمَدًا عَدَدَ خَلْقِكَ وَبِرَنَّةِ عَرْشِكَ وَرِضَىٰ نَفْسِكَ وَمَدَادِ

مطابق تعداد اپنی تمام مخلوق کے اور اپنی وسعت عرش کے اور اپنی رضامندی کے اور اپنے کلمات کی

كَلِمَاتِكَ وَكُلِّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَكُلِّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ

سیاہی کے اور مطابق ہر بار تیرا ذکر کرنے والوں کے ذکر کے اور ہر بار تیرے ذکر سے غافل ہونے والوں کی غفلت کے

لُغَافِلُونَ صَلَوةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَ لِحَقِّهٖ اَدَاءٌ وَ لَنَا صَلَاحًا

ایسی صلوات جو تیری رضا کا سبب ہو اور ان کی ادائیگی کا موجب اور ہماری بھلائی اور بہتری کا موجب

اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ لِیْ فِیْ مُدَّةِ حَیَاتِیْ وَ بَعْدَ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ بنائے میری طرف سے میری حیاتی میں اور میری ممات

مَمَاتِیْ اَضْعَافَ اَضْعَافِ ذٰلِكَ اَلْفَ اَلْفِ صَلَوةً وَ سَلَامٍ

کے بعد ہزار در ہزار صلوات و سلام سے کئی گنا زائد اور کئی گنا زیادتی کے

مَضْرُوبِیْنَ فِیْ مِثْلِ ذٰلِكَ وَ اَمْثَالِ اَمْثَالِ ذٰلِكَ عَلٰی عَبْدِكَ وَ نَبِیِّكَ

جو ضرب دیئے گئے ہوں اپنی مثل اعداد صلوات میں اور ان کی امثال در امثال اپنے عبد خاص اور نبی و

وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِیِّ وَ عَلٰی اٰلِهِ وَ

رسول سیدنا محمد نبی امی اور رسول عربی پر اور آپ کے آل و

اَصْحَابِهِ وَ اَوْلَادِهِ وَ اَنْرَ وَاِجْرَ وَ ذُرِّیَّاتِهِ وَ اَهْلَ بَیْتِهِ وَ اَحْبَابِهِ

اصحاب پر اور اولاد و ازواج اور ذریات و اہل بیت اور احباب

وَ اَصْحَابِرِهِ وَ اَنْصَارِهِ وَ اَشْیَاعِهِ وَ مَوَالِیْهِ وَ خَدَّامِهِ وَ

اور سرال اور انصار اور اہل جماعت اور اہل محبت پر اور خدام پر اور

مُجَابِبِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ كُلَّ صَلَوةٍ مِّنْ كُلِّ ذٰلِكَ تَفُوْقَ وَ تَفْضُلُ

دریائوں پر۔ اے اللہ بنا ہر صلوات ان صلوات میں سے فائق اور عمدہ

صَلَوةِ الْمُصَلِّیْنَ عَلَیْهِ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَ اَهْلِ الْاَرْضِیْنَ اَجْمَعِیْنَ

ان پر صلوات بھیجنے والوں کی صلوات سے خواہ اہل سموات ہوں یا اہل ارض

كَفْضَلِهِ الَّذِیْ فَضَّلْتَهُ عَلٰی كَاثَرَةِ خَلْقِكَ یَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِیْنَ وَ یَا اِذَا

مانند ان کی ذاتی تفضیلت کے جو کہ افضل و برتر ہیں تیری تمام مخلوق سے، اے سب سے بزرگتر

الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ الْاَمِیْنِ رَبَّنَا تَقْبَلُ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ط

عرش عظیم و امین کے مالک۔ اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما بیشک تو ہی سنے جاننے والا ہے

وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

اور ہم پر نظر رحمت فرما بیشک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ لِدُخْلِكَ نُورًا وَرَحْمَةً

سیدنا محمد پر و آل محمد پر کہ سابق و اول ہے تمام مخلوق سے نور ان کا اور سربا رحمت ہے

لِلْعَالَمِينَ ظُهُورًا عَدَدَ مَا مَضَىٰ مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِيَ وَمَنْ سَعِدَا

تمام جہانوں کے لیے ظہور ان کا مطابق تعدد اس مخلوق کے جو گزر چکی اور جو باقی ہے اور جنہے سعادت مند ہوئے

مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ صَلَوةً تَسْتَعْرِقُ الْعَدُوَّ وَتُحِيطُ بِالْحَدِّ صَلَوةً لَا

اور جنہے بد بخت ہوئے ایسی صلوات جو تمام اعداد و شمار کو مستغرق ہو اور حدود و نہایات کو محیط ہو۔ ایسی صلوات کہ نہ ہو

غَايَةَ لَهَا وَلَا انْتِهَاءً وَلَا أَمَدَ لَهَا وَلَا انْقِضَاءً صَلَوةً الَّتِي

اس کی غایت اور انتہاء اور نہ ہو اس کا آخر و اختتام مانند تیری صلوات کے جو

صَلَّيْتَ عَلَيْهِ صَلَوةً مَعْرُوضَةً عَلَيْهِ مَقْبُولَةٌ لَدَيْهِ مَحْبُوبَةٌ

تو نے ان پر نازل فرمائی۔ ایسی صلوات جو ان کی بارگاہ میں بار بار اور مقبول ہو ان کے نزدیک اور محبوب و پسندیدہ

إِلَيْهِ صَلَوةً دَائِمَةً بَدَاؤِكَ وَبَاقِيَةَ بَقَائِكَ لَا مُنْتَهَىٰ لَهَا

ہو ان کے ہاں۔ ایسی صلوات جو دائم ہو تیرے دوام کی طرح اور باقی رہے تیری بقا کی مانند نہ ہو اس کی انتہاء و تحدید

دُونَ عِلْمِكَ صَلَوةً تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ وَتَرْضَىٰ بِهَا عَنَّا

بغیر تیرے (غیر محدود) علم کے، ایسی صلوات جو تجھے راضی کرے اور انہیں راضی کرے اور راضی ہو تو ہم سے سبب بسبب اس کے

صَلَوةً تَمَلُّهُمُ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

ایسی صلوات جو بھر دے زمین اور آسمان کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الرَّاهِدِ الرَّسُولِ الْمَلِكِ الصِّدِّيقِ الْوَاحِدِ صَلِّ

محمد پر جو تارک دنیا نبی، شہنشاہ رسول، بے نیاز خلق اور یکتائے روزگار ہیں۔ صلوات بھیجے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةً دَائِمَةً إِلَىٰ مُنْتَهَىٰ الْأَبَدِ بِلا انْقِطَاعٍ

اللہ تعالیٰ اور سلام ان پر ایسی صلوات جو دائم ہو منتہائے ابد تک بغیر انقطاع

وَلَا نَفَادَ لِلَّهِمْ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى

واختتام کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ نبی اُمّی پر اور آپ کی

إِلَيْهِ وَسَلِّمْ صَلَوَةٌ لَا يُحْصَى لَهَا عَدَدٌ وَلَا يُعَدُّ لَهَا مَدَدٌ

آل پر ایسی صلوات کہ نہ احاطہ کیا جاسکے اس کے اعداد کا اور شمار کیا جاسکے اس کی کثرت و ارتقاء کا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ الْإِتِّصَالِ وَالتَّوَالِي مُتَعاقِبَةٌ بِتَعاقِبِ الْأَيَّامِ

ایسی صلوات کہ جس کا اتصال و تسلسل دائم ہو اور جو متواتر و متعاقب ہو دنوں اور راتوں

وَاللِّيَّالِيِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

کے تواتر و تعاقب کے مطابق۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ پر اور آپ کی پاکیزہ و

الطَّيِّبِينَ الْكِرَامِ صَلَوَةٌ مَوْصُولَةٌ دَائِمَةٌ الْإِتِّصَالِ بَدَاوَامِ

عالی مرتبت آل پر ایسی صلوات جو متصل اور دائمی تسلسل ہو مطابق تیری

ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

ذات جلیل و کریم کے دام کے۔ اے اللہ صلوات و سلام اور برکات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ صَوْرِكَ الْعَلِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ

محمدؐ پر اور آل محمدؐ پر مطابق تعداد مخلوقات کی ان صورتوں کے جو تیرے علم ازلی

وَالْكُونِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

میں ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَرْوَاحِكِ اللَّطِيفَةِ الْمَجْرَدَةِ الْعَقْلِيَّةِ

کی آل اطہار پر اپنے مخلوق لطیف و مجرد ارواح عقلیہ

وَالنَّفْسِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

و نفسیہ کی تعداد کے مطابق۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الصُّوَرِ الْبِثَالِيَةِ وَالْمُطْلَقَةِ الْمُقَيَّدَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اطہار پر مطابق تعداد صور مثالیہ کے اور تمام صور مطلقہ و مقیدہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ صُوَرِ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد

الْأَجْسَامِ الْحَسِيَّةِ الشَّهَادِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اجسام محسوسہ و مشہودہ کی صورتوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَا وَجَدَ وَسَيُوجَدُ اللَّهُمَّ

اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر اس شئی کے جو موجود ہو چکی اور جو موجود ہوگی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد

قَطْرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

عاشقوں کے آنسوؤں کے قطرات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ قَطْرَاتِ دُمُوعِ الْمَعْشُوقِينَ

اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد معشوقوں کے آنسوؤں کے قطرات کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

بِعَدَدِ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

مطابق تعداد اہل ذکر کے انفاس کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْأَحْوَالِ الْمُعْتَوْرَةِ عَلَىٰ قُلُوبِ

آپ کی آل پر مطابق تعداد ان احوال کے جو وارد ہوں یکے بعد دیگرے عارفوں کے

الْعَارِفِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

قلوب پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ بَعْدَ رَكَعَاتِ الْمُتَطَوِّعِينَ الْمُتَعَبِّدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل پر مطابق تعداد نفلی عبادات والوں کی رکعات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ سَجْدَاتِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر شکر گزار اہل توفیق کے

الشَّاكِرِينَ الْمُؤَيَّدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سجدوں کی تعداد کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ شُيُونِكَ مِنْ أَوَّلِ الْأَنْزِلِ إِلَى آخِرِ

اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنے شیون و تجلیات کے ابتداء ازل سے انتہائے

الْأَبَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ابد تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

بَعْدَ كُلِّ ذَرَّةٍ فِي الْجِبَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مطابق تعداد ان ذرات کے جو پہاڑوں میں ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ قَطْرَةٍ فِي الْبَحَارِ أَلْفَ مَرَّةٍ

اور آل محمد پر مطابق تعداد ان قطرات کے جو سمندروں میں ہیں ان سے دس لاکھ گنا

فِي كُلِّ لَمْحَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہر ہر لمحہ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَظَاهِرِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْوَهْبِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر مطابق تعداد مظاہر ربوبیت والوہیت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَظَاهِرِ اللَّاهُوتِ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ان مظاہر کے جو عالم لاہوت و تجرود

وَالْجَبَرُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور عالم جبروت و تعلق میں ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَظَاهِرِ الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

پر مطابق تعداد ان مظاہر کے جو عالم محسوس اور غیر محسوس عالم میں ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَظَاهِرِ الْقَبْضَةِ الْيُمْنَى

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر مطابق تعداد ان مظاہر کے جو تیسری دائیں مٹھی میں ہیں

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

دُنْيَا وَ آخِرَت میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَظَاهِرِ الْقَبْضَةِ الْيُسْرَى فِي الدُّنْيَا وَ

آل محمد پر مطابق تعداد تیسری بائیں مٹھی والے مظاہر کے دُنْيَا وَ

الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

آخِرَت میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَعْمَالِ الْحَقِيَّةِ الْخَلْقِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

پر مطابق تعداد اعمال حق کے جو مخلوق سے متعلق ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ قُوَى الْأَسْمَاءِ مَا

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اسماء کی قوتوں کے جو

ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا لَمْ يَظْهَرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ظاہر ہو میں ان میں سے خواہ ظاہر نہیں ہوئیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَظَاهِرِ الْأَنْبِيَةِ الْهُوِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

آل محمد پر مطابق تعداد وجودات شخصیت کے مظاہر کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَحْدَاثِ الْوَاحِدِيَّةِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد احدیت، واحدیت اور وحدانیت

الْوَحْدَانِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے مظاہر کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اظہار پر



بَعْدَ إِتِّصَالِ كُلِّ اسْمٍ إِلَى مَوْجُودٍ وَمَعْدُومٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

مطابق تعداد ان اتصالات و تعلقات کے جو اسماء کے لیے موجودات و معدومات سے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا يَتَكَوَّنُ مِنْ أَنْفَاسٍ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد اہل نعمت اور ارباب کرامت

أَهْلِ النَّعِيمِ وَالْكَرِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کے انفاس کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ بَعْدَ إِضْعَافِ مَرَاتِبِ الْعَدَدِ الْغَيْرِ الْمُنْتَاهِيَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر اعداد کے مراتب غیر منتہیہ سے کئی گنا زائد تعداد میں۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ مَلِكٍ فِي السَّمَوَاتِ السَّبْعِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ان ملائکہ کے جو ساتوں آسمانوں

وَالْأَرْضِينَ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُسَبِّحِينَ وَالرَّاكِعِينَ وَالسَّاجِدِينَ وَ

اور زمینوں وغیرہ میں ہیں خواہ تسبیح خواہ رکوع و سجدہ کرتے والے یا

الْمُرْكُوعِينَ وَالْمُسْجُودِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رکوع و سجدہ میں جھکائے جانے والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام اور برکات نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بَاقِيَةٌ بِبِقَائِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

اور آل محمد پر ایسی صلوات جو دائم و باقی ہو بطغیث تیرے باقی رکھنے کے قیامت تک

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام اور برکات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

بَعْدَ مَنْ مَضَى مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِيَ وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ

مطابق تعداد اس مخلوق کے جو گزر چکی اور جو باقی ہے اور جو سعادت مند ہیں ان میں سے یا بدبخت

صَلَوَةٌ تَسْتَعْرِقُ الْحَدَّ لِأَنْصَرَامِ لَهَا وَلَا يُقْضَاءُ لَهَا اللَّهُمَّ

ایسی صلوات جو مستغرق ہو حدود و نہایت کو اور ایسی صلوات جو منقطع ہو اور نہ اتمام پذیر ہو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

صلوٰۃ و سلام اور برکات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد

كُلِّ إِنْسَانٍ وَنَحْلِ وَنَمْلِ وَجَرَادٍ وَجِيحَانٍ وَقُمَّلَةٍ وَبَعُوضَةٍ

تمام انسانوں، شہد کی مکھیوں اور چوٹیوں کے اور مکڑیوں کے اور دریائے جیحان اور جوڑوں اور مچھروں کے

وَمَا فَوْقَهَا وَمَا تَحْتَهَا مِنَ الْحَيَوَانَ وَكُلِّ ذِي رُوحٍ وَجِنٍّ وَ

اور ان سے جسم میں زائد اور کم حیوانات کے اور تمام ذی روح اشیاء اور جنوں اور

دَابَّةٍ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَى تَحْتِ الثَّرَى

جانداروں کے جو زمین کے مشرقی اور مغربی حصوں میں ہیں بل ان کے درمیان (اوپر سے لیکر) تاحث الثری

مَنْ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

تک دنیا کی تخلیق کے دن سے روز قیامت تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق ساتوں آسمانوں کے

إِلَى الْعَرْشِ الْعُلِيِّ وَمَا بَيْنَهُمَا وَبَعْدَ الْأَرْضَيْنِ إِلَى تَحْتِ

بع عرش اعلیٰ کے اور ان کے درمیان کی اشیاء کے اور مطابق تمام زمینوں کے بمع تحت

الثَّرَى وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا لَمْ تُنْتَهَى لَهَا وَغَيْرِهِمْ مَا فِي عِلْمِ

الثری کے اور ان کے درمیان والی اشیاء کے اور مطابق ان تمام اشیاء کے جن کی انتہاء نہیں اور ان کے علاوہ جو کچھ علم

اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

الہی میں ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام اور برکات نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِثِقَلِ بِهِمُوتِ الَّذِي عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ وَ

آل محمد پر مطابق وزن و ثقل اس جانور کے کہ زمین اس کی پشت پر ہے اور

طُولِهِ وَعَرْضِهِ وَمَا حَمَلَهُ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ وَمَا فِيهَا

مطابق اس کے طول و عرض کے اور مطابق تعداد ان کے جو اس نے اٹھا رکھے ہیں یعنی آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے



فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ أَلْفٍ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى

ان کی تعداد سے کروڑوں گنا زائد ہر دن میں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام اور برکات نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِزِنَةِ الْقَلَمِ وَطُولِ الْقَلَمِ وَمَا

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق قلم کے وزن کے اور اس کی درازی کے مطابق اور مطابق

يَجْرِي بِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ أَلْفٍ مَرَّةٍ

تعداد ان اشیاء کے جن کے ساتھ جاری ہوگی قیامت تک ہر دن میں اس قدر کروڑوں بار

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام اور برکات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ بِطُولِ مَلِكِ الَّذِي دَخَلَ تَحْتَ الْأَرْضَيْنِ السَّيْعِ وَطُولِهِ

پر مطابق درازی اس فرشتہ کے جو داخل ہوا ساتوں زمینوں کے نیچے اور اس کے طول

وَعَرْضِهِ وَتَنْفُسِهِ وَتَقْدِيسِهِ وَتَسْبِيحِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ أَلْفٍ

و عرض اور تنفس اور تقدیس و تسبیح کی مقدار ہر دن میں کروڑوں

أَلْفٍ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

مرتبہ - اے اللہ صلوٰۃ و سلام اور برکات نازل فرما سیدنا محمد اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِزِنَةِ الثُّورِ الَّذِي أُهْبِطَ مِنَ الْفِرْدَوْسِ وَ

آل محمد پر مطابق وزن اس بیل کے جو اتارا گیا فردوس اعلیٰ سے اور

بَطُولِهِ وَعَرْضِهِ وَبَعْدَ قَرُونِهِ وَقَوَائِمِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ

مطابق اس کے طول و عرض کے اور مطابق اس کے سینگوں اور پاؤں کے ہر دن میں

أَلْفٍ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کروڑوں مرتبہ - اے اللہ صلوٰۃ و سلام اور برکات نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِزِنَةِ يَاقُوتَةِ خَضْرَاءَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ اللَّهُمَّ

اور آل محمد پر مطابق وزن سبز یاقوت کے جو اس کی پشت پر ہے - اے اللہ



صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوات و سلام اور برکات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

بَعْدَ قَطْرَاتِ الْبَحْرِ الَّتِي يَتَنَفَّسُ فِيهَا وَبَعْدَ مَدِّ الْبَحْرِ وَ

مطابق تعداد قطرات اس سمندر کے جس میں وہ سانس لیتا ہے اور مطابق اس سمندر کے اور

جَزِيرِ الْبَحْرِ بِتَنَفُّسِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مدو جزر کے بسبب اس کے تنفس کے۔ اے اللہ صلوات و سلام اور برکات نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِزَنَةِ صَخْرَةِ الَّتِي ذَكَرَ لِقْمَانَ لِابْنِهِ وَبُطُولِهِ

اور آل محمد پر مطابق وزن اس پتھر کے جس کا تذکرہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا اور اس

وَعَرْضِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ أَلْفٍ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ

کے طول و عرض کی تعداد ہر دن میں کروڑوں بار۔ اے اللہ صلوات و سلام اور برکات

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر تمام اولین و آخرین میں اور

فِي الْمَلَائِكَةِ الْأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ملاء و اعلیٰ میں قیامت تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِزَنَةِ الْقَافِ وَطُولِهِ وَعَرْضِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

اور آپ کی آل پر کوفہ قاف کی مقدار اور اس کے طول و عرض کی مقدار ہر دن میں

أَلْفَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہزاروں مرتبہ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

بِثِقَلِ الْأَشْجَارِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ

تمام روئے زمین کے درختوں کے ثقل و وزن کی مقدار ہر دن میں ہزار بار۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِثِقَلِ الْبَحَارِ وَ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر روئے زمین کے سمندروں



الْأَنْهَارِ وَالْأَبَارِ وَالْعَيُونِ عَلَى الْأَرْضِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ

دریاؤں، کنوؤں اور چشموں کے ثقل و وزن کی مقدار ہر دن میں ہزاروں بار۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِزَنَةِ الرَّمْلِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق وزن روئے زمین کی

فِي الْأَرْضِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ریت کے ہر دن میں ہزار بار۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلًّا الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهَا مِنَ الْأَجْجَارِ

محمد پر اور آل محمد پر مطابق زمین کی پری کے اور اس پر موجود اشیاء کے

وَالْأَشْجَارِ وَالْأَشْجَارِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

یعنی پتھروں، درختوں اور پھلوں کے ہر دن میں ہزار بار۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر یہاں تک کہ نہ باقی رہے

صَلَوَاتِكَ شَيْءٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

تیری صلوات میں سے کوئی صلوات۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ سَلَامِكَ شَيْءٌ اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پر حتیٰ کہ نہ باقی رہے تیرے سلاموں میں سے کوئی سلام۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ رَحْمَتِكَ شَيْءٌ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آل محمد پر حتیٰ کہ نہ باقی بچے تیری رحمتوں سے کوئی رحمت (جو ان پر نازل ہوئی ہو) اے اللہ

بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ

برکت نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر حتیٰ کہ نہ باقی رہے تیری برکات سے

بَرَكَاتِكَ شَيْءٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کوئی برکت (جو ان پر نازل نہ ہو)۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد



مُحَمَّدٍ رِضَاءَ نَفْسِكَ وَبِرَّانَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ وَمُنْتَهَى عِلْمِكَ

پر مطابق اپنی رضائے ذات کے اور مطابق وسعت عرش کے اور اپنے کلمات غیر متناہمیر کی سیاہی اور منتہی علم

وَزَنَةَ جَمِيعِ مَخْلُوقَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور تمام مخلوقات کی مقدار کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَلَأَ الدُّنْيَا وَمَلَأَ الْآخِرَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آل محمد پر وسعت دنیا اور وسعت آخرت کے مطابق۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَعَقَلَ عَن

محمد پر اور آل محمد پر ہر بار کہ ذکر کریں ان کا ذکر کرنے والے اور ہر بار کہ غافل ہیں

ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ان کے ذکر سے اہل غفلت۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ قَطْرَةِ الْمَطَرِ مُنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

پر مطابق تعداد قطرات باران کے تخلیق دنیا کے آغاز سے قیام قیامت تک

فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ أَلْفٍ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ہر دن میں کروڑوں بار۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ سَاعَةِ أَيَّامِ الدُّنْيَا مِنْ أَوَّلِ

محمد پر اور آل محمد پر ایام دنیا کی تمام ساعتوں کی مقدار ابتداء

مَا خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى آخِرِهَا اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ

تخلیق سے آخر تک۔ اے اللہ میری اعانت فرما موت کی شدتوں اور بہوشیوں

الْمَوْتِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَالْحَفْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى اللَّهُمَّ

میں۔ اے اللہ مجھے بخش اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے عالی مقام رفقاء یعنی انبیاء و ملائکہ کے ساتھ لاحق فرما۔ اے اللہ

إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ ضَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي وَهُوَ إِنْ عَلِي

میں شکایت کرتا ہوں تیری بارگاہ میں اپنے ضعف اور بچاؤ کی اور مخلوق کے نزدیک



الْمَخْلُوقِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعِفِينَ رَبُّ

حقارت کی اور تو سب سے زیادہ مہربان ہے اور تو ضعیفوں اور ناتوانوں کا رب ہے

إِلَى مَنْ تَكَلَّمْتُ إِلَى عَبْدٍ يَتَجَهَّمُنِي أُمَّ إِلَى عَدُوِّ مَلَكَتْهُ أُمْرِي إِنْ

اے میرے پروردگار تو مجھے کسے سونپتا ہے؟ اس عہد کے سپرد کرتا ہے جو مجھ پر تیرے یا اس دشمن کے جس کو تو نے میرے امور کا مالک بنا

لَمْ تَكُنْ عَلَيَّ غَضَبٌ مِنْكَ فَلَا أَبَالِي وَلَكِنْ عَفْوِكَ أَوْ سَعْرِي اللَّهُمَّ

دیا ہے۔ اگر مجھ پر تیرا غضب نہ ہو تو پھر میں پروا نہیں کرتا لیکن تیری درگزر بہت وسیع ہے میرے لیے۔ اے میرے رب

إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ تَلَوْنِ أَحْوَالِي وَتَوَقُّفِ سُؤَالِي يَا مَنْ تَعَلَّقْتُ

میں شکایت کرتا ہوں تیری بارگاہ میں اپنے احوال کے تغیر اور اپنے سوال کے موقوف رکھے جانے کی۔ اے کہ

بِلُطْفِ كَرَمِهِ وَجَمِيلِ عَوَائِدِهِ أَمَارِي يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَفِيٌّ

اسی کے لطف و کرم سے متعلق ہیں میری امیدیں اور اس کے بہترین انعامات سے اے کہ جس پر مخفی نہیں ہے

حَالِي يَا مَنْ يَعْلَمُ عَاقِبَةَ أَمْرِي وَمَالِي رَبِّ إِنْ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ وَ

میرا حال مخفی، اے کہ جو عالم ہے میرے انجام کار اور بازگشت کار۔ اے میرے رب میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور

أَمُورِي كُلِّهَا رَاجِعَةٌ إِلَيْكَ وَأَحْوَالِي لَا تَخْفَى عَلَيْكَ وَهُمُومِي وَأَحْزَانِي

میرے تمام امور کا مرجع تو ہے اور میرے احوال تجھ پر مخفی نہیں ہیں اور میرے تمام غم و اندوہ

مَعْلُومَةٌ لَدَيْكَ قَدْ جَلَّ مَصَابِييُ وَعَظَمَ اِكْتِيَابِي وَأَنْصَرَمَ شَبَابِي وَ

تجھے معلوم ہیں۔ میری مصیبت بہت بڑی ہو گئی اور پریشانی عظیم ہو گئی اور جوانی ختم ہو گئی اور

تَكَدَّرَ عَلَيَّ صَفُوشِرَابِي وَاجْتَمَعَتْ عَلَيَّ هُمُومِي وَأَوْصَابِي وَتَأَخَّرَ

گلا ہو گیا مجھ پر میرا صاف و شفاف پانی اور مجتمع ہو گئے مجھ پر تمام غم اور کافئیں اور دور ہو گیا

عَنِّي تَعْجِيلُ مَطْلَبِي وَتَنْجِيزُ اِعْتَابِي يَا مَنْ إِلَيْهِ مَرْجِعِي وَمَالِي يَا

مجھ سے میرے مطلب کا جلد حصول اور غتاب کا فوری ازالہ۔ اے کہ طرف اسی کے ہے میری بازگشت اور رجوع، اے کہ

مَنْ يَسْبَعُ وَيَعْلَمُ هُوَ اجْسَ سِرِّي وَعَلَانِيَةٌ خَطَابِي وَيَعْلَمُ مَا هِيَ أَكْلِي

جو سننا اور جانتا ہے میرے اندرونی خطرات و خطرات اور میرے خطاب و کلام کا ظاہر اور جانتا ہے میری آرزوں کی ماہیت



وَحَقِيقَةُ مَا بِيَ اللَّهِ مَصِلٌ وَسَلَامٌ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

اور میرے انجام کی حقیقت، سوائے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ایسی صلوات کہ

وَسَلَامًا يَتَقَدَّسُ فِيهَا عَنْ عَوَارِضِ الْإِمْكَانِ لَوْ جُودَ إِتْصَافُهُ بِالْكَمَالَاتِ فِي

اسلام مقدس و منزہ ہو جائیں آپ اس کی وجہ سے تمام عوارض امکانیہ سے بسبب متصف ہونے آپ کے وجود مسموم کے ساتھ تمام

جَمِيعِ جِهَاتِي فَأَكُونَ مَحْفُوظًا بِهِ مِنْ شَرِّ الْأَعْدَاءِ وَيَعْمُرُ بِسَوَابِغِ نِعْمَةِ الْأُولَى

کمالات کے تمام جہات میں پس میں محفوظ ہو جاؤں بطریق اس صلوات و سلام کے شر اعداء سے اور معمور ہو جاؤں اللہ تعالیٰ کی تمام

وَالْآخِرَى وَيَنْطَلِقُ لِسَانِي مُتَرْجِمًا عَنْ أَسْرَارِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ وَتَعْلَمُ

اگلی اور پچھلی نعمتوں سے اور رواں ہو جائے میری زبان کلمہ توحید کے اسرار کی ترجمانی میں اور سکھائے تو مجھے

مِنْ عِلْمِكَ الْأَقْدَسِ الْوَهْبِيِّ مَا اسْتَعْتَيْتُ بِهِ عَنِ الْمَعْلَمِ وَأَنْتَ الْحَمِيدُ

اپنے وہی مقدس علم سے اتنا قدر کر میں مستغنی ہو جاؤں ہر معلم سے اور تو ہی ہمیشہ لائق حمد ہے

الْبَجِيدُ وَتَصْفُو مِرَاةَ سِرِّي رَتِي بِنُظْرَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ لِأَبْصَرِ بِبَصِيرَتِي

اور دائمی بزرگی و برتری والا ہے۔ اور صفات و صفات ہو جائے میرے باطن کا آئینہ محمدی نگاہ کرم کی بدولت تاکہ دیکھوں میں اپنی

حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ الثَّابِتَةِ الْعَلِيَّةِ لِأَدْرُ فِي بَهْمَتِهِ عَلَى مَعَارِجِ مَدَارِجِ

قلبی نگاہ کے ساتھ اشیاء ثابتہ عالیہ کے حقائق کو تاکہ میں ترقی پاؤں ان کی قلبی توجہ سے بزرگوں کے بلندی و بالا مدارج

رُتَبِ الْكِرَامِ وَأَظْفَرَ بِسِرِّهِ الْمَخْصُوصِ بِبُلُوغِ الْمَرَامِ فِي الْبُدْءِ وَالْخْتَامِ

و مراتب تک اور کامیاب ہو جاؤں بطریق ان کے مخصوص راز مخفی کے بلوغ مرام میں آغاز کار اور انجام میں

فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمَنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلَامُ رَبَّنَا آمَنَّا وَ

بیشک تو سراسر سلامتی ہے اور تیری طرف سے ہی سلامتی میسر ہوتی ہے اور تیری طرف ہی سلامتی کی بازگشت ہے بلکہ

اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَكُتِبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَ الَّذِينَ

ہمارے رب ہم ایمان لائے اور ہم نے رسول معظم کی اتباع کی پس لکھ تو ہمیں اہل شہادت میں اور سوائے اللہ بنا ہمیں رفیق اور

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

ساتھی ان انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کا



وَحَسَنَ أَوْلِيَاكَ رَفِيقًا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَانصُرْنَا بِنصْرِكَ فِي الْحَرَكَةِ

جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور وہ بہت اچھے رفیق ہیں۔ اے رب العالمین ہماری مدد فرما اپنی مخصوص امداد کے ساتھ ہر حرکت

وَالسُّكُونِ وَاجْعَلْنَا مِنْ حِزْبِكَ الَّذِي وَقَفْتَهُمْ بِفَهْمِ كِتَابِكَ الْمَكْنُونِ

دسکون میں اور داخل فرما ہمیں اپنے اس گروہ میں جنہیں تو نے ترفیق دی ہے اپنی محفوظ و مخفی کتاب سمجھنے کی تاکہ

لِنَدْخُلَ فِي حِزْبِنَا قَوْلِكَ الْآرَانَ حِزْبِ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الْآرَانَ

ہم داخل ہو جائیں اس قول کی پناہ میں غور سے سنو بیشک اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ غور سے سنو بیشک

أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا

اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ جو ایمان لائے اور

يَتَّقُونَ ۝ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ اللَّهُمَّ بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا

تقویٰ اختیار کرتے تھے۔ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما بیشک تو ہی سنے جاننے والا ہے۔ اے اللہ بظیفیل محمد

مُحَمَّدٍ عِنْدَكَ وَبِقُدْرَةِ لَدَيْكَ نَسْأَلُكَ الْفُورَةَ عِنْدَ الْقَضَاءِ وَنَزُولَ الشُّهَادَةِ

کریم کی حرمت و عزت کے اپنی بارگاہ میں اور قدر و منزلت کے اپنے ماں ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کامیابی کا وقت قضا کے اور

وَعَيْشَ السُّعْدَاءِ وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَمُرَافَقَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَنَحْنَ عِبَادِكَ

منزل شہداء کا اور گزران اہل سعادت کی اور اعداء پر نصرت کا اور انبیاء کی رفاقت کا اور ہم تیرے ضعیف بندے ہیں

الضُّعْفَاءُ لَا نَعْبُدُ سِوَاكَ وَلَا نَطْلُبُ إِذْ أَمْسَنَا الضُّرُّ إِلَّا رِيَاكَ فَا مِنْ رَوْعَاتِنَا

نہیں عبادت کرتے تیرے سوا کسی کی اور نہیں طلب کرتے بوقت پہنچنے ضرور نقصان کے مگر تجھی سے ہیں ان سے بدل ہمارے

وَاجِبُ دَعْوَاتِنَا وَقَضَى حَاجَاتِنَا وَاعْفُ ذُنُوبَنَا وَاسْتُرْ عِيُوبَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ

خوف اور خشیتوں کو اور قبول فرما ہماری دعاؤں کو اور پورا فرما ہماری حاجات کو اور بخش دے ہمارے گناہوں کو اور پردہ ڈال ہمارے عیوب پر

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَإِلَّا جَابَةِ جَدِيرٌ نَعْمَ الْمَوْلَى وَنَعْمَ النَّصِيرُ يَا مُفَرِّجُ فَرَجٍ وَ

بیشک تو ہر شئی پر کامل دسترس والا ہے اور قبول دعوات کے لائق ہے۔ اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے اور بے دو کرنے والے شدتوں کے دور کر

فَرِّجْ كُرْبَنَا وَهَبْنَا وَغَمَّنَا وَأَنْ تَقْضَى عَنَّا دَيْنَنَا وَأَعْطِنَا مِنَ الْخَزَائِنِ الْوَاسِعَةِ

ہماری شدت و کربت اور غم و اندوہ اور ہمارے قرضے ادا فرما اور ہمیں وسیع خزانوں سے عطا فرما

إِنَّا عِبِيدُكَ وَجُنْدٌ مِّنْ جُنُودِكَ مُتَعَلِّقُونَ بِجَنَابِ نَبِيِّكَ فَتَشْفَعُونَ

بیشک ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں وابستہ ہیں تیرے نبی کی بارگاہ والا سے، شفع بنائے ہوئے

إِلَيْكَ بِحَبِيبِكَ اللَّهُمَّ أَرِنَا حَرَمَكَ بِكَرَمِكَ وَبَلِّغْنَا زِيَارَةَ قَبْرِ

ہیں تیری طرف تیرے حبیب مکرم کو۔ اے اللہ! دکھلا اپنا حرم اپنے کرم کے صدقے میں اور واصل فرما ہمیں اپنے نبیؐ

نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنَا رُؤْيَا وَجْهِهِ

کی زیارت قبر تک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا

نَبِينَا فِي مَنَامِنَا وَيَقْظِنَا وَأَنْ تُصَلِّيَ وَأَنْ تُسَلِّمَ عَلَيْهِ صَلَاةً دَائِمَةً

خواب میں اور بیداری میں اور یہ کہ صلوات و سلام بھیجے ان پر جو دائم ہوں

إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ خَيْرِنَا وَكُنْ لَنَا هُونََا فِي جَمِيعِ

روز قیامت تک اور صلوات بھیجے ہم میں سے بہتر و برتر پر اور ہمارا معاون و مددگار بن تمام

أُمُورِنَا فَضَّلْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ صَلَاةً تَلِيْقُ بِجَنَابِهِ الشَّرِيفِ وَمَقَامِهِ

امور میں۔ پس صلوات و سلام نازل فرما ان پر جو شایاں اور لائق ہو ان کی بارگاہ

الْمَنِيفِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا دَائِمًا قَدِيمًا كَرِيمًا مُكْرَمًا فَا مَنُوا بِاللَّهِ وَ

شرافت بناہ کے اور مقام والا جاہ کے اور سلام نازل فرما دائمی قدیم کرامت و کریم والا۔ پس ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے اور

رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُرْمِيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ

اس کے رسول نبی اُرمی کے جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے۔ اور اس کے کلمات کے اور ان کی اتباع کرو

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

تا کہ تم ہدایت کو پا لو۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ لَمْ يُولَدْ ۝

فرما دیجئے اللہ یکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اس نے نہیں جنا کسی کو اور نہ وہ خود جنا گیا

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

اور نہیں اس کا کوئی مثل و ہمسر۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو نہایت مہربان اور رحم کرنا والا ہے

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِوَجْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِحَفِیِّ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بظیفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو ولی ومددگار ہے اور بظیفیل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِیَدِیْعِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو شفیع مہربان ہے اور بظیفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو انوکھی اور عجیب ہے

وَبِمَنْبِیْعِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِشَفِیْعِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

اور بظیفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو بلند مقام والی ہے اور بظیفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو

الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مٰلِکِ

شفیع ہے تمام شنائین اللہ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے۔ بے نہایت رحم والا مہربان ہے۔ جزا کے

یَوْمِ الدِّیْنِ اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

دن کا مالک ہے۔ اے ان صفات کمال والے تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ چلا ہیں

المُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ

راہ راست پر راہ ان کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا

عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ

اور نہ گمراہوں کی۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور مومن مرد اور عورتیں

بَعْضُهُمْ اَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَّامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ

بعض ان سے بعض کے مددگار ہیں۔ یہی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع

الْمُنْکَرِ وَیُقِیْمُونَ الصَّلٰوةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکٰوةَ وَیُطِیْعُونَ اللّٰهَ وَ

کرتے ہیں۔ اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول

رَسُوْلَهٗ اُولَئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ وَقَالَ

کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان امتیازی اوصاف والوں پر عنقریب اللہ رحم فرمائے گا بیشک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور فرمایا

اللَّهُ تَعَالَى التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ

اللہ تعالیٰ نے "توبہ کرنے والے - حمد کرنے والے - عبادت گزار - رکوع و

السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ

سجد کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے اور

الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ" وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى

اللہ تعالیٰ کی مقرر فرمائی ہوئی حدود کی حفاظت کرنے والے اور بشارت دیکھنے والے مؤمنین کو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَ

جنہیں اگر ہم اقتدار بخشیں زمین میں تو نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور

أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِاللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے اور اللہ ہی کے لیے ہے انجام امور کا۔

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ

اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "جو وہ تمہیں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آتا ہے اسے پکڑو اور جس سے روکیں

عَنْهُ فَانْتَهُوا إِلَيْهِمْ صِلْ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تو اس سے رک جاؤ، اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما اور برکتیں عطا کر سیدنا محمد کو

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنِ الْمُنْكَرِ

اور آپ کی آل کو جو آقا نبی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں

مِنَ اللَّهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا يَتَّبِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا

اللہ کی طرف سے جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے "اور نہیں بولتے وہ اپنی خواہش نفس سے، نہیں وہ مگر

وَحْيٌ يُوحَىٰ مِنْ وَحْيِ الْجَبَلِيِّ وَالْخَفِيِّ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْيَوْمَ

وحی جو ان پر نازل کی جاتی ہے خواہ وحی جلی و قرآن ہو خواہ وحی خفی و سنت اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "آج کے دن

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ

میں نے کامل کر دیا تمہارے دین اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت اور پسند کیا میں نے



الإسلام ديناً اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا

تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

محمد المطاع في الأمر والنهي اللهم صل على سيدنا محمد

محمد پر جن کی اطاعت کی جاتی ہے امر و نہی میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد

وعلى آل سيدنا محمد الأمر والنهي اللهم صل على سيدنا

و آل محمد پر جو حکم دینے والے اور منع کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

محمد وعلى آل سيدنا محمد المؤيد بالمدد الإلهي اللهم

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جن کی تائید کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد و خاص کے ساتھ۔ اے اللہ

صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الإمبر بشهادة

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو حکم دینے والے ہیں اس شہادت کا

أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والنهي عن

کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ اور محمد اللہ کے رسول برحق ہیں اور منع کرنے والے ہیں

الشرك بالله اللهم صل على سيدنا محمد الأمر بالإقرار

اللہ کے ساتھ شرک سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں اپنے

له بالرسالة والتبليغ والنهي عن أن ينكر المرء ذلك

یہ رسالت کا اور تبلیغ احکام کے اقرار کا۔ اور منع کرنے والے ہیں اس رسالت اور تبلیغ کے انکار سے

أوبزيغ اللهم صل على سيدنا محمد الأمر بإتمام الصلوة و

اور کج و ہونے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں نماز قائم کرنے اور

إيتاء الزكوة والنهي عن الشبهات وإتباع الشهوات اللهم

زکوٰۃ دینے کا اور منع فرمانے والے ہیں شبہات میں پڑنے اور خواہشات نفس کی اتباع سے۔ اے اللہ

صل على سيدنا محمد الأمر بصيام شهر رمضان و

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں ماہ رمضان کے روزوں کا اور

التَّاهِي عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ

منع فرمانے والے ہیں بتوں کی پرستش سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم

بِالْحَيْجِ وَالْعُمْرَةِ وَالتَّاهِي عَنْ تَرْكِ الْحَيْجِ وَالْعُمْرَةِ مَعَ

دینے والے ہیں حج و عمرہ کا اور منع کرنے والے ہیں حج و عمرہ کے چھوڑنے سے باوجود

الْإِسْطَاعَةِ وَالْقُدْرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالسَّعْيِ

استطاعت و قدرت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں سعی

وَالطَّوَافِ وَالتَّاهِي عَنْ الْغُلُوِّ وَالْإِسْرَافِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور طواف کا اور منع کرنے والے ہیں حد سے تجاوز اور فضول خرچی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالتَّلْبِيَةِ وَالْإِحْرَامِ وَالتَّاهِي عَنْ التَّفَقُّةِ مِنْ

محمد پر جو حکم دینے والے ہیں تلبیہ و احرام کا اور منع کرنے والے ہیں مال حرام میں سے

الْمَالِ الْحَرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالسَّلَامِ الْحَجَرِ

خرق کرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں حجر اسود اور

الْأَسْوَدِ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِي وَالتَّاهِي عَنْ التَّسْوِيفِ وَالْأَجَانِبِ اللَّهُمَّ

رکن یمانی کے برسے کا۔ اور منع فرمانے والے ہیں ٹال مٹول اور کھوکھی آرزوں سے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالْجَهْدِ وَالْجِهَادِ وَالتَّاهِي عَنْ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں سعی و کوشش اور جہاد کا۔ اور منع کرنے والے

الْفَسَادِ وَالْعُنَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالْإِقَامَةِ

ہیں فساد اور باہمی دشمنی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں اقامت

وَالْأَذَانَ وَالتَّاهِي عَنْ تَلْقَى الرُّكْبَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

و آذان کا۔ اور منع کرنے والے ہیں مال تجارت لانے والوں کو راستہ میں جاننے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِحِفْظِ الْأَوْقَاتِ وَالتَّاهِي عَنْ الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

محمد پر جو حکم دینے والے ہیں اوقات کی نگہداشت کا۔ اور منع کرنے والے ہیں ایڑیوں پر بیٹھنے سے نمازیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ وَ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں چٹائی پر نماز کا اور

النَّاهِي عَنِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِتْرَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

منع کرنے والے ہیں نماز پڑھنے سے بغیر سترہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْأَمْرِ بِأَنْ يَرُدَّ الْمُصَلِّيَّ مَنْ يَمْرُبَيْنَ يَدَيْهِ وَالنَّاهِي عَنِ الْجُلُوسِ

جو حکم دینے والے ہیں کہ نمازی روکے آگے سے گزرنے والے کو اور منع کرنے والے ہیں مسجد میں

فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَرُكَعَ فِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ

بیٹھنے سے دو رکعت تہتہ المسجد پڑھنے سے پہلے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے

بِالْتِدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالسَّعْيِ وَالنَّاهِي عَنِ النَّهْبِ وَالْبَغْيِ

والے ہیں اذان کا اور جلد پہنچنے کا جمعہ کے دن اور منع کرنے والے ہیں لوٹ مار اور بغاوت سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِأَنْتَظِرَ الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَاةِ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کا

وَالنَّاهِي عَنِ التَّخَلِّيِّ عَلَى الطَّرِيقَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور منع فرمانے والے ہیں راستوں پر قضاء حاجت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْأَمْرِ بِأَلَّا يَأْسَ بِمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ وَالنَّاهِي عَنِ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ

جو حکم دیتے والے ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں موجود اشیاء سے نفس کو مایوس کرنے کا اور منع کرنے والے ہیں اونٹ

فِي حَالِ التُّعَاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالتَّيْمُنِ فِي الْوُضُوءِ

کی حالت میں نماز پڑھنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں وضو اور غسل میں

وَالْغُسْلِ وَالنَّاهِي عَنِ الْفِعْلِ مَا يَقْطَعُ بِهِ الْعُقْبُ وَالسُّلُّ اللَّهُمَّ

دائیں جانب سے آغاز کا اور منع فرمانے والے ہیں ایسے فعل سے جو قطع کرے پس ماندگان اور نسل کو۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي الْبُيُوتِ وَالنَّاهِي عَنِ تَرْكِ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں نفل نماز کی ادائیگی کا گھروں میں اور منع کرنے والے ہیں نفوت

الْقَنُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ

کے ترک سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں پانچوں نماز پر محافظت

الْخُمْسِ وَالنَّاهِي عَنِ التَّجَشُّسِ وَالْمَكْسِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ

کا۔ اور منع کرنے والے ہیں بیع میں دھوکے سے اور جبری عشرکی وصولی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو امر

بِالْإِبْرَادِ بِالصَّلَاةِ فِي الْهَوَاجِرِ وَالنَّاهِي عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ

فرمانے والے ہیں ٹھنڈا کرنے کا گرمیوں میں صلوٰۃ ظہر کو اور منع کرنے والے ہیں قبرستان میں نماز پڑھنے سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالتَّاسِي بِهِ وَالتَّسْلِي وَالتَّاهِي

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں اپنی اقتداء کا اور اس پر اطمینان کا اور منع کرنے

عَنِ الْمَرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ

والے ہیں نمازی کے آگے سے گزرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے

بِسُجُودِ السَّهْوِ وَالنَّاهِي عَنِ كَثْرَةِ الضَّحْكَ وَاللَّهُوِ اللَّهُمَّ صَلِّ

والے ہیں سجدہ سہو کا اور منع کرنے والے ہیں زیادہ ہنسنے اور کھینے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَالنَّاهِي

نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں صف اول میں نماز پڑھنے کا اور منع کرنے والے ہیں

عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسِلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ

عسل خانہ میں پیشاب کرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں

بِالصَّلَاةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالنَّاهِي عَنِ الصَّلَاةِ إِذَا حَضَرَ

نماز نفل کا مغرب اور عشاء کے درمیان اور منع کرنے والے ہیں نماز سے جبکہ حاضر ہو شام

الْعِشَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ بِإِقَامَةِ

کا کھانا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں نماز پڑھنے کا پشت کو سیدھا

الصُّلْبِ وَالنَّاهِي عَنِ الْكَلَامِ وَالْإِمَامُ يَخُطُّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

پکھنے کی حالت میں اور منع کرنے والے ہیں کلام کرنے سے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمِيرِ بِأَعْزَائِنَا وَكَرَامِ لِلْعُلَمَاءِ وَالتَّاهِي عَنْ

فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں علماء کے اعزاز و اکرام کا اور منع کرنے والے ہیں نمازی کے

رَفِعِ الْبُصْلَى رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آسمان کی طرف سر اٹھانے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْأَمِيرِ بِتَسْوِيَةِ الصَّفُوفِ وَالتَّاهِي عَنْ تَرْكِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

جو حکم دینے والے ہیں صفوں کو درست اور سیدھا رکھنے کا اور منع کرنے والے ہیں سورج گرہن کی نماز ترک کرینے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمِيرِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي مَوَاطِنِ

اے اللہ۔ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں اپنی ذات پر درود بھیجنے کا غفلت

الْغَفْلَةِ وَالتَّاهِي عَنْ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ الْقِبْلَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

کے مقامات میں اور منع کرنے والے ہیں قبلہ کی سمت کے علاوہ نماز پڑھنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمِيرِ بِالتَّامِينَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالتَّاهِي عَنْ

سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں امام کے پیچھے آئین کہنے کا اور منع کرنے والے ہیں

التَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ وَالكَلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نماز میں پھنکارنے اور کلام کرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْأَمِيرِ بِحِفْظِ الْأَنْسَابِ وَالتَّاهِي عَنْ تَخْطِي الرِّقَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ

جو حکم دینے والے ہیں نسبوں کی حفاظت کا اور منع فرمانے والے ہیں لوگوں کی گزریں پھلانگنے سے۔ اے اللہ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمِيرِ بِالمُكَافَاتِ عَلَى المَعْرُوفِ وَالتَّاهِي عَنْ التَّكْمِ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں نیکی کے بدلہ دینے کا۔ اور منع کرنے والے ہیں صفوں میں خالی

فِي الصَّفُوفِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمِيرِ بِالتِّيَامُنِ فِي

جگہ چھوڑنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں دائیں جانب آغاز کا

التَّعَالِ وَالتَّاهِي عَنْ الصَّلَاةِ فِي التَّعَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

جوتے پہننے میں اور منع کرنے والے ہیں جوتوں میں نماز پڑھنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْبَلَاءِ وَالنَّاهِي عَنِ اتِّبَانِ الْمَسْجِدِ لِمَنْ أَكَلَتْهُ

محمد پر جو حکم دینے والے ہیں صبر کا مصیبت کے وقت اور منع کرنے والے ہیں مسجد میں آنے سے اسے جو کھائے

ثُمَّ مَا أَوْصَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَامًا مَحَمَّدًا الْأَمْرِ بِاتِّمَامِ السُّجُودِ

پس اور پیار سے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں سجد اور رکوع کے

وَالرُّكُوعِ وَالنَّاهِي عَنِ اتِّبَانِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ خُشُوعٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

کامل کرنے کا اور منع کرنے والے ہیں نماز کو بغیر خشوع کے شروع کرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالطَّهَانِيَّةِ وَالْإِعْتِدَالِ وَالنَّاهِي

نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں الطہانان اور اعتدال کا اور منع کرنے والے ہیں

عَنِ الْإِجْتِمَاعِ عَلَى الضَّلَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

گمراہی پر اکٹھے ہونے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْأَمْرِ بِالسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَالنَّاهِي عَنِ أَنْ يُشْرَكَ

جو حکم دینے والے ہیں سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا اور منع کرنے والے ہیں تقضاء الہی پر

الرِّضَا بِالْقَضَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالنُّخْلَةِ

ترکِ رضا سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں ہریہ اور

وَالْعُمْرَةَ وَالنَّاهِي عَنِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا اللَّهُمَّ صَلِّ

عظیہ کا مدت عمر کے لیے اور منع کرنے والے ہیں نماز بڑھنے سے پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالسُّجُودِ عَلَى الْخَقِيئِ وَالنَّاهِي عَنِ الْإِسْتِنْبَاجِ

نازل فرما سیدنا محمد پر جو بطورِ رخصت حکم دینے والے ہیں خقیئ پر مسح کا اور منع فرمانے والے ہیں دایئیں

بِالْيَمِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالْإِكْتِحَالِ عِنْدَ

ہاتھ کے ساتھ استنجاء کرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں سرمہ لگانے کا

التَّوْمِ بِالْإِثْمِدِ وَالنَّاهِي عَنِ الْحَدِيثِ فِي الْمَسْجِدِ اللَّهُمَّ

نیند کے وقت اور منع کرنے والے ہیں (دینی) گفتگو سے مسجد میں۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْمَشْئِي إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ وَ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں مسجدوں کی طرف چل کر جانے کا تاریکیوں میں اور

النَّاهِي عَنِ الرَّبَا فِي السَّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْمَشْئِي

منع فرمانے والے ہیں سوڑ سے بیع سلم میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے

بِالتَّعْبُدِ وَالتَّهَجُّدِ وَالتَّاهِي عَنِ انْشَادِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ

ہیں عبادت میں مجاہدہ کا اور تہجد کا اور منع کرنے والے ہیں مسجد میں گمشدہ چیز کے اعلان سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْمَشْئِي بِالْأَكْلِ مِمَّا يَلِي الْإِنْسَانَ

اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں اپنے سامنے سے کھانے کا

وَالنَّاهِي عَنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْإِذَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور منع کرنے والے ہیں مسجد سے (نماز پڑھے بغیر) نکلنے سے اذان کے بعد۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ بِالْمَشْئِي بِالْبِرِّ وَالصَّلَةِ وَالنَّاهِي عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ وَالْقِبْلَةِ

محمد پر جو حکم دینے والے ہیں احسان اور صلہ رحمی کا اور منع کرنے والے ہیں مسجد میں اور قبلہ کی جانب تھوکنے سے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْمَشْئِي فِي السَّفَرِ وَالنَّاهِي عَنِ

اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں قصر صلوات کا سفر میں اور منع کرنے والے ہیں

الضَّرَارِ وَالضَّرَّاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْمَشْئِي بِتَنْظِيفِ

ضرر پہنچانے اور ضرر اٹھانے سے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں مساجد کی

الْمَسَاجِدِ وَالنَّاهِي عَنِ أَنْ يَتَّخِجَ الْإِثْنَانِ دُونَ وَاحِدِ اللَّهُمَّ

صفائی کا اور منع کرنے والے ہیں اس سے کہ سرگوشی کریں دو آدمی بغیر ایک کے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْمَشْئِي بِالْأَصَابِعِ وَالنَّاهِي عَنِ رَفْعِ

صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں انگلیوں میں خلال کا اور منع کرنے والے ہیں آواز کو

الصَّوْتِ فِي الْجَوَامِعِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْمَشْئِي بِانْحَاذِ

بند کرنے سے جامع مساجد میں۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں دھڑک

المَوَاعِدِ وَالتَّاهِي عَنْ تَشْيِيكِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ اللَّهُمَّ

پورا کرتے کا اور منع فرمانے والے ہیں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم ایک دوسری میں داخل کرنے سے مساجد میں۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِغَسَلِ الْأَعْقَابِ وَالتَّاهِي عَنْ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں ایڑیوں کے دھونے کا اور منع کرنے والے ہیں

الْوَضُوءِ بِسُورِ الْكَلَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ

کتوں کے جھوٹے پانی کے ساتھ وضو کرنے سے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے

بِاحْتِبَاسِ الْخَيْلِ وَالتَّاهِي عَنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ

گھوڑے باندھنے کا (جہاد کے لیے) اور منع فرمانے والے ہیں قیام میل کے ترک سے۔ اے اللہ صلوات

عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ لِلْسُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ وَالزَّوَادَةِ وَالتَّاهِي

نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں سنت مؤکدہ اور سنن زوائد پر عمل کرنے کا اور منع کرنے والے ہیں

عَنْ تَرْكِ الْمُؤَكَّدَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِصَلَاةِ الْوَتْرِ

سنن مؤکدہ کے چھوڑنے سے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں صلوات وتر

وَاحِدَةً وَالتَّاهِي عَنْ بَيُوعِ الْفَاسِدَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ایکلی کا اور منع کرنے والے ہیں فاسد خرید و فروخت سے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

الْأَمْرِ بِذِكْرِ اللَّهِ فِي كُلِّ حَرَكَةٍ وَسُكُونٍ وَالتَّاهِي عَنْ إِمَامَةِ

جو حکم دینے والے ہیں اللہ کے ذکر کا ہر حرکت اور سکون میں اور منع کرنے والے ہیں اس شخص کو امامت سے

الرَّجُلِ وَالْقَوْمُ لَهُ كَارَهُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ

جس کو قدم ناپسند کرنے والی ہو۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے

بِالتَّكْبِيرِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالتَّاهِي عَنْ الْجُلُوسِ عَلَي قَارِعَةٍ

والے ہیں تکبیر کرنے کا تشریق کے دنوں میں (تو سے تیرہ ذوالحجہ تک) اور منع کرنے والے ہیں عام گزر گاہ پر

الطَّرِيقِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالسَّبَاغِ الْوَضُوءِ

بیٹھنے سے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں وضو کی تکمیل کا

وَالنَّاهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالسُّوْءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور روکنے والے ہیں برائیوں اور بدکاریوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

اَلْاَمْرِ بِتَحْلِيْلِ الشَّعْرِ وَالنَّاهِي عَنِ بَيْعِ الْغَدْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

جو حکم دینے والے ہیں بالوں کے خلال کا اور منع کرنے والے دھوکے والی بیع سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ اَلْاَمْرِ بِالصَّلٰوةِ عَلٰى الْجَنَائِزِ وَالنَّاهِي اَنْ يِّنَامَ الرَّجُلُ عَلٰى سَطْرِ

محمد پر جو حکم دینے والے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کا اور منع کرنے والے ہیں چھت پر سونے سے بغیر کسی

بِغَيْرِ حَاجِزٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْاَمْرِ بِتَشْيِيْعِ الْمَيِّتِ

پر وہ و فسیل کے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں میت کے ساتھ وداع کے

وَحُضُوْرٍ دَفْنِهِ وَالنَّاهِي عَنِ دُخُوْلِ الرَّجُلِ بَيْتِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ اِذْنٍ

لیسے جانے اور اس کے دفن تک حاضر رہنے کا اور منع فرمانے والے ہیں مرد کو دوسرے کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونے سے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْاَمْرِ بِغُسْلِ الْمَيِّتِ وَكْتُمِ مَا يَظْهَرُ

اے اللہ صلوٰۃ سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں میت کے غسل کا اور غاسل پر ظاہر ہونے والے عیب کو

عَلَيْهِ وَالنَّاهِي عَنِ اَنْ يَّحْتَقِرَ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَ اِلَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

چھپانے کا اور جو منع کرنے والے ہیں اس سے کہ حقیر سمجھے آدمی اسے جو اس کو پیش کیا جائے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْاَمْرِ بِاِجَابَةِ الْمُؤَدِّنِ وَمَحَاكَاةِ وَالنَّاهِي عَنِ تَعْرِفَةِ

سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں مؤذن کے جواب کا اور اس کے کلمات دہرانے کا اور منع فرمانے والے ہیں اس

مَنْ لَا يَخْشَى اللّٰهَ وَمُعَادَاةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

شخص کی دوستی سے جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور اس کی عداوت سے بھی۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

اَلْاَمْرِ بِاَدَاءِ النَّفْلِ وَالسَّنَةِ وَالْفَرْضِ وَالنَّاهِي عَنِ غَضَبِ

جو حکم دینے والے ہیں نفل و سنت اور فرائض کی ادائیگی کا اور منع کرنے والے ہیں زمین کے غضب

اَلْاَرْضِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْاَمْرِ بِكُنْسِ الْمَسْجِدِ وَالتَّقَاطِ

کرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں مسجد میں بھاڑ دینے اور چھینٹنے

الْحَزَقِ وَالْقَذَا وَالنَّاهِي عَنِ الْفُحْشِ وَالْبَدَأَ اللَّهُ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا

اور محض و خاشاک چلنے کا اور منع کرنے والے ہیں فحش اور بیہودہ گوئی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْأَمْرَ بِالْإِسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ وَالنَّاهِي عَنِ الْإِسَاءَةِ بِالْفِعْلِ

محمد پر جو حکم فرماتے ہیں پیشاب سے طہارت حاصل کرنے کا اور منع فرماتے ہیں عملی اور

وَالْقَوْلِ اللَّهُ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرَ بِاعْزَازِ الدِّينِ وَ

قولی برائی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں دین کے اعزاز اور غلبہ کا

النَّاهِي عَنِ مَسِّ الذِّكْرِ بِالْيَدَيْنِ اللَّهُ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرَ

اور منع فرماتے ہیں شرمگاہ کو دایمیں ہاتھ کے ساتھ چھونے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے

بِالْإِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ وَالنَّاهِي عَنِ طَلَبِ الْأَبَارِ وَالْإِمَارَةِ اللَّهُ

ہیں ڈھیلوں کے ساتھ استنجاء کرنے کا اور منع فرماتے ہیں ذخیرہ کرنے اور امارت کی طلب سے۔ اے اللہ

صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرَ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ ادْخَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں دونوں ہاتھ دھونے کا برتن میں داخل کرنے سے قبل

وَالنَّاهِي عَنِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرَقِ سِوَاءَ اللَّهِ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا

اور منع فرماتے ہیں سونے کو چاندی کے بدلے بیچنے سے برابری کے طور پر۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْأَمْرَ بِإِدَاءِ الْخُمْسِ مِنَ الْمَغَانِمِ وَالنَّاهِي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ

محمد پر جو اموال غنیمت سے پانچویں حصہ کی ادائیگی کا حکم فرماتے ہیں اور منع فرماتے ہیں کھڑے پانی میں پیشاب

الدَّائِمِ اللَّهُ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرَ بِالتَّهْوِيرِ وَالسَّوَاكِ وَالنَّاهِي

کرتے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں طہارت اور مسواک کا اور منع فرماتے ہیں

عَنِ الْكُفْرِ وَالْإِشْرَاقِ اللَّهُ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرَ بِالرَّخْصَةِ

کفر اور شرک سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں مساجد میں نماز سے رخصت کا

لَيْلَةَ الْمَطَرِ وَالنَّاهِي عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ اللَّهُ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا

بارش کی رات اور منع فرماتے ہیں سفر میں روزہ سے (مشقت کی صورت میں) اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِإِلْعَتِكَافِ وَالصِّيَامِ وَالتَّاهِي عَنْ دُخُولِ النِّسَاءِ فِي

محمد پر جو حکم دیتے ہیں اعتکاف اور روزوں کا اور منع فرماتے ہیں عورتوں کو حمام میں داخل

الْحَمَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبَيْضِ وَ

ہونے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دیتے ہیں ایام بیض زہرہ - چودہ - پندرہ چاند کے

التَّاهِي عَنْ وَطِي النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

روزوں کا۔ اور منع فرماتے ہیں عورتوں کے ساتھ جماع سے حالت حیض میں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْأَمْرِ بِصِيَامِ سِتِّ مِّنَ الشُّوَالِ وَالتَّاهِي عَنْ صَوْمِ الْوَصَالِ

جو حکم دیتے ہیں شوال کے چھ روزوں کا اور منع فرماتے ہیں صوم وصال سے یعنی بلا افطاری و سحری تسلسل سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيَةِ بِكُلِّ لُقْمَةٍ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھنے کا ساتھ کھانے کے

عَلَى الطَّعَامِ وَالتَّاهِي عَنْ تَخْصِيصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِصِيَامِ

ہر لقمہ کے اور منع فرماتے ہیں جمعہ کے دن کو خاص کر لینے سے ساتھ روزے کے

بَيْنَ الْأَيَّامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيَةِ

بنسبت دیگر ایام کے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھنے کا

عِنْدَ الْوُقَاعِ وَالتَّاهِي عَنِ الْكَلَامِ عِنْدَ الْجَمَاعِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

جماع کے وقت اور منع فرماتے ہیں کلام سے جماع کے دوران۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِدُخُولِ الْوَقْتِ بِتَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ وَالتَّاهِي عَنِ الْهِدَاوَةِ

سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں جلد افطار کرنے کا وقت افطار کے سختی طور پر داخل ہونے کے بعد اور منع فرماتے ہیں

عَلَى الذُّنُوبِ وَالْإِصْرَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِتَاخِيرِ

گناہوں پر مداومت اور اصرار سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں سحری میں

السُّحُورِ وَالتَّاهِي عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِّنَ الطَّيُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ

تامہیر کا اور منع فرماتے ہیں ہر شکاری پرندے کے کھانے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرَ بِصِيَامِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ وَالتَّاهِي

نازل فرما سیدنا محمد پر جو جو حکم فرماتے ہیں سو موافق اور خمیس کا روزہ رکھنے کا اور منع فرماتے ہیں

عَنْ طَاعَةِ اللَّعِينِ اِبْلِيسَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْاَمْرَ بِصِيَامِ سُرْمَا

ابلیس لعین کی اطاعت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں ہر مہینے کے

الشَّهْرِ وَالتَّاهِي عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْاَمْرَ

آخری ایام کے روزوں کا اور منع فرماتے ہیں زمانہ کو کالی دینے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں

بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَا وَالتَّوَسُّعَةِ فِيهِ عَلٰى الْعِيَالِ وَالتَّاهِي عَنْ

عاشوراء کے روزہ کا اور عیال پر وسعت رزق کا اس میں اور منع فرماتے ہیں

الْقَيْلِ وَالْقَالِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْاَمْرَ بِالْوُقُوفِ

قیل و قال سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں عرفات

بِعَرَفَةِ وَالتَّاهِي عَنْ تَرْكِ الْوُقُوفِ بِمَزْدَلَفَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

میں ٹھہرنے کا اور منع فرماتے ہیں مزدلفہ میں وقوف کے ترک سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْاَمْرَ بِحُضُورِهَا بِمَا لَيْسَ الدَّاكِرُ وَالْعِلْمُ وَالتَّاهِي عَنْ الْجُورِ

سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں ذکر اور علم کی محافل میں حاضر ہونے کا اور منع فرماتے ہیں ظلم اور

وَالظُّلْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْاَمْرَ بِالْخَوْفِ وَالرَّجَا وَالتَّاهِي عَنْ

جور سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خوف کا اور اس سے امیدواری کا اور

التَّحْرِيْثِ وَالْهَبَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْاَمْرَ بِمُحَسِّنِ الْعَامَلَةِ

منع فرماتے ہیں جانوروں کے کڑانے سے اور سچے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دیتے ہیں حسن معاملت کا

وَالتَّاهِي عَنْ الْمُبَاهَلَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْاَمْرَ بِالتَّفَرُّغِ

اور منع فرماتے ہیں مباہلہ اور ایک دوسرے پر بددعا سے اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں عبادت کی حالت

لِلْعِبَادَةِ وَالتَّاهِي عَنْ تَرْكِ سَوَالِ الشَّهَادَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

میں تفرغ القلب ہونے کا اور منع فرماتے ہیں شہادت کا سوال ترک کرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا



مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامًا وَالنَّاهِي عَنْ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ

محمد پر جو حکم فرماتے ہیں رات کو نماز پڑھنے کا جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں اور منع کرتے ہیں اس سے کہ لوگ ان کے

النَّاسِ قِيَامًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلَى

یسے حالت قیام میں رہیں از روئے تعظیم کے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں اپنے آل و اصحاب

الصَّحْبِ وَالْأَزْلِ وَالنَّاهِي عَنْ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ بِالشَّمَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ

پر صلوٰۃ بیسجے کا اور منع فرماتے ہیں بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے اور پینے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِبَعْقِ الْأَصَابِعِ لِاحْرَازِ الْبُرْكَاتِ وَالنَّاهِي عَنْ

نازل فرما سیدنا محمد پر جو کھانے کے بعد انکلیاں چاٹنے کا حکم دیتے ہیں برکت جمع کرنے کیلئے اور منع فرماتے ہیں

الْقَاءِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ إِلَى التَّهْلُكَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ

آدمی کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دیتے ہیں

بِأَظْهَارِ شَرِّ رِجَالِ الْإِسْلَامِ وَالنَّاهِي أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ وَفِي يَدَيْهِ رِيحُ

اسلامی احکام کے اظہار کا اور منع فرماتے ہیں اس سے کہ آدمی سوجائے "در آغز یکداس کے ہاتھ میں کھانے کے

الطَّعَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالزِّيَارَةِ غَيْبًا وَالنَّاهِي

اثرات ہوں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دیتے ہیں کبھی کبھی زیارت کرنے کا اور منع فرماتے ہیں

عَنْ شُرْبِ الْمَاءِ غَيْبًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ

ایک دن چھوڑ کر پانی پینے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دیتے ہیں صبر کا

عِنْدَ اللَّقَاوِ وَالنَّاهِي عَنِ الشَّرْبِ مِنْ فَمِ السَّقَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

دشمن سے ڈر بھیرے وقت اور منع فرماتے ہیں مشکیزہ کو منہ لگا کر پینے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي وَالنَّاهِي عَنْ

سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں دو دو رکعت نماز نفل ادا کرنے کا اور منع فرماتے ہیں

التَّفَخُّحِ فِي الْإِنَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِتَحْسِيرِ

مشروب والے برتن میں سانس نکالنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں مشکیزوں کے چڑھے



الْأَسْقِيَّةَ وَالنَّاهِي عَنْ تَعْرِيبَةِ الْأَوْعِيَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سے بال وغیرہ صاف کرنے کا اور منع فرماتے ہیں برتنوں کو ننگے مندر رکھنے سے اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْأَمْرُ بِإِطْفَاءِ السِّرَاجِ عِنْدَ التَّوْمِ وَالنَّاهِي عَنْ الْأُسْتِهْزَاءِ

محمد پر جو حکم فرماتے ہیں نیند کے وقت چراغ بجھانے کا اور منع فرماتے ہیں کسی شخص کے ساتھ

بِالرَّجُلِ لِيَضْحَكَ الْقَوْمَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرُ

سخری کرنے سے قوم کو ہنسانے کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں

بِغَلْقِ الْأَبْوَابِ وَطَيِّ الثِّيَابِ وَالنَّاهِي عَنِ الْغُلُوفِ فِي الْمَدْحِ وَالْإِطْنَابِ

دروازے بند رکھنے کا اور کپڑے پیٹنے کا اور منع فرماتے ہیں مدح و ثنا میں حد سے تجاوز اور طوالت سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرُ بِطَيْبِ الْكَلَامِ وَالنَّاهِي عَنِ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں کلام کی پاکیزگی کا اور منع فرماتے ہیں

الْإِشَارَةِ بِالسَّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرُ بِتَأْدِيبِ

سلام اشارہ کیساتھ کرنے سے (مانند اہل کتاب کے)۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں وعیب کو

الْأَهْلِ وَالْوَالِدِ وَالنَّاهِي عَنِ الْكِبْرِ وَالْحَسَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

ادب سکھانے کا اور منع فرماتے ہیں تکبر اور حسد سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرُ بِاتِّبَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالنَّاهِي عَنِ الْأَذَى

سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں کتاب و سنت کی اتباع کا اور منع فرماتے ہیں لوگوں کو تکلیف دینے

وَالْبُهْتَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ

اور احسان جملانے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں نیک عمل کا

عِنْدَ فَسَادِ الزَّمَانِ وَالنَّاهِي عَنِ الْمُثَلَّةِ بِالْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ

اہل زمانہ کے فساد و خرابی کے وقت بھی اور منع فرماتے ہیں انسانوں اور حیوانوں کے ناک کان وغیرہ کاٹنے سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرُ بِاتِّبَاعِ الْبَيْوتِ مِنَ الْأَبْوَابِ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دیتے ہیں گھروں میں دروازوں سے داخل ہونے کا



وَالنَّاهِي عَنِ الْوَسْمِ فِي وُجُوهِ الدَّوَابِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور منع فرماتے ہیں جانوروں کے چہروں پر داغ دینے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ بِرُجُوعِ الْعِلْمِ وَالْيَقَارِ وَالنَّاهِي عَنِ مَنَعِ الْمِلْحِ وَالنَّارِ

محمد پر جو علم دیتے ہیں پر سکون اور باوقار انداز اپنانے کا اور منع فرماتے ہیں نمک اور آگ لینے سے منع کرنے سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِرُحْبِ الْأَنْصَارِ وَالنَّاهِي

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں انصار کی محبت کا اور منع فرماتے ہیں

عَنْ إِذَاءِ الْجَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِسِتْرِ الْعَوْرَةِ

پڑوسوں کو تکلیف دینے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دیتے ہیں شرکاء کو ڈھانپنے کا

وَالنَّاهِي عَنِ اتِّبَاعِ النَّظْرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور منع فرماتے ہیں ایک مرتبہ اچانک (محرّم پر) نظر پڑنے کے بعد دوسری دفعہ دیکھنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ بِرُجُوعِ الْحَدِيثِ وَتَسْمِيْعِهِ وَالنَّاهِي عَنِ ظُلْمِ

محمد پر جو حکم دیتے ہیں اپنی حدیث کی تبلیغ اور سننے کا اور منع فرماتے ہیں مسلم پر ظلم

الْمُسْلِمِ وَتَرْوِيْعِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِرُجُوعِ

کرنے اور اسے خوفزدہ کرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں

بِالسَّلَامِ عَلَى الْقَوْمِ عِنْدَ الْقُدُومِ وَالنَّاهِي عَنِ تَرْكِ السَّلَامِ

قوم کو سلام دینے کا ان پر آمد کے وقت اور منع فرماتے ہیں سلام ترک کرنے سے اس

لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَقُومَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِرُجُوعِ

کو جو مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کرے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں (مجبوری نہ

بِتَرْوِيْجِ الْحَرَائِرِ وَالنَّاهِي عَنِ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ اللَّهُمَّ

ہونے پر) آزاد عورتوں کے ساتھ شادی کا اور منع فرماتے ہیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِرُجُوعِ الثَّمَامِ وَغَرْسِهَا وَالنَّاهِي عَنِ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں گھاس اور سبزہ کو سیراب کرنے اور اسے کاشت کرنے کا اور منع فرماتے ہیں

عَقْدَ الْمَرْءَةِ النِّكَاحَ بِنَفْسِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمِيرِ

عورت کے اپنا نکاح بذات خود کرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں

بِالْإِسْتِعَاذَةِ مِنَ النَّارِ وَ النَّاهِي عَنِ النَّكَاحِ الشَّغَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

آتش دوزخ سے پناہ مانگنے کا اور منع فرماتے ہیں نکاح شغار سے یعنی حق مہر کے عوض رشتہ دینے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمِيرِ بِالسُّتْرِ وَ التَّجْمِيلِ وَ النَّاهِي عَنِ الْعُزْلِ وَ التَّعْطَلِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں پردہ کا اور بہنیت جمال اختیار کرنے کا اور منع فرماتے ہیں مادہ منویہ رحم سے باہر پلٹنے سے اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمِيرِ بِالنِّكَاحِ الْوَدُودِ وَ النَّاهِي عَنِ الْخَلْفِ

بیگاری سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں محبت والی اور اولاد کو جنم دینے والی کے ساتھ نکاح کا اور

بِالْأَبَاءِ وَ الْجَدُّدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمِيرِ بِالنِّكَاحِ الْأَبْكَارِ

منع فرماتے ہیں آباؤ اجداد کے ناموں کے ساتھ تم کھانے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں کنواریوں کے ساتھ نکاح کا

وَ النَّاهِي عَنِ سَمَاءِ الدَّفِّ وَ الْبِزْمَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور منع فرماتے ہیں دف اور مزامیر سننے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْأَمِيرِ بِسِسِّ الطَّيِّبِ لِلْجُمُعَةِ وَ النَّاهِي عَنِ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ اللَّهُمَّ

جو حکم فرماتے ہیں جمع کے دن خوشبو لگانے کا اور منع فرماتے ہیں متع سے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمِيرِ بِالْعَدْلِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَ النَّاهِي عَنِ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں بیویوں میں عدل و مساوات کا اور منع فرماتے ہیں اس سے

أَنْ يُرَكَبَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ فِي الْفَلَاةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کہ آدمی اکیلا جھل میں سفر کرے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْأَمِيرِ بِقَبُولِ الْعُذْرِ وَ الْمَعْدَارَةِ وَ النَّاهِي عَنِ خُرُوجِ الْمَرْءَةِ مِنْ

جو حکم فرماتے ہیں معذرت کرنے والے کی معذرت کے قبول کرنے کا اور منع فرماتے ہیں عورت کے گھر سے

بَيْتِهَا مَعْطَرَةً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمِيرِ بِكْتِمِ السِّرِّ

خوشبو لگا کر نکلنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دیتے ہیں خاوند و بیوی کے درمیان

بَمَا كَانَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَالنَّاهِي مِنْ صِيَامِ الْعِيدَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ

نازلوں کو چھپانے کا اور منع فرماتے ہیں عیدِ نظر اور عیدِ اضحیٰ کے روزوں سے۔ اے اللہ درود

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ لِكُلِّ الرَّجُلِ وَالْمَرْءَةِ بِحِفْظِ الْفُرُوجِ وَالنَّاهِي عَنْ

نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں ہر مرد اور عورت کو شرمگاہوں کی حفاظت کا اور منع فرماتے ہیں

رُكُوبِ النِّسَاءِ عَلَى السُّرُوحِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالْمَدَاوِمَةِ

عورتوں کو گھوڑوں پر سواری سے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں اعمالِ صالحہ

عَلَى صَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالنَّاهِي عَنْ تَشْبِيهِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ

پر ہمیشگی کا اور منع فرماتے ہیں عورتوں کے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے۔ اے اللہ صلوات

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالْإِحْسَانِ لِمَنْ أَسَاءَ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَ

نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دیتے ہیں برائی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرنے کا اور جو برا کرے گا تو اس کا ضراسمی پر ہوگا

النَّاهِي عَنْ تَشْبِيحِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور منع فرماتے ہیں مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

الْأَمْرِ بِالْإِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْفِتَنِ وَشَرِّهَا وَالنَّاهِي عَنْ إِيْتِيَانِ الْمَرْءَةِ

جو حکم دیتے ہیں فتنوں اور ان کے شر سے پناہ مانگنے کا اور منع فرماتے ہیں عورت کے ساتھ

فِي دُبُرِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالسَّعْيِ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَ

لواطت سے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں کما کر کھلانے کا بیوگان اور

الْمَسَاكِينِ وَالنَّاهِي عَنْ الْمُرُورِ بِقُبُورِ الظَّالِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

مساکین کو اور منع فرماتے ہیں ظالموں کی قبروں پر گزرنے سے بھی۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِغَسْلِ مَا يَصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَالنَّاهِي عَنْ سُوءِ الْعَشْرَةِ وَ

محمد پر جو حکم فرماتے ہیں عورت کی شرمگاہ سے لگنے والی رطوبت کے دھونے کا اور منع فرماتے ہیں بدسلوکی اور

الْجُرْءَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سِرًّا

بیباکی سے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا خفیہ

وَجَهْرًا وَالتَّاهِي عَنْ أَنْ يُحَدَّ الْمَرْأَةُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ الْأَعْلَى زَوْجٍ

اور علانیہ طور پر اور منع فرماتے ہیں عورتوں کو میت پر تین دن سے زائد سوگ کرتے پر مگر خاوند پر چار ماہ

أَرْبَعَةَ أَشْهُدٍ وَعَشْرًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ بِالْإِيمَانِ وَالْوَلَا

اور دس دن۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے علام آزاد کرنے اور باہمی

وَالتَّاهِي عَنْ الْكَلَامِ فِي الْخَلَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ بِتَوْقِيرِ

دوستی کا اور منع فرماتے ہیں قضاء حاجت کے دوران گفتگو سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دیتے ہیں بڑوں کی

الْكِبِيرِ وَالتَّاهِي عَنْ الشُّرْبِ فِي الْمُرْتَبَةِ وَالتَّقْيِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

تنظیم کا اور منع فرماتے ہیں تارکول گئے ہوئے برتن اور کھوڑے ہوئے نموں سے نبیذ کے استعمال سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ بِتَرْكِ قِتَالِ الْمُسْلِمِ وَالتَّاهِي عَنْ الشُّرْبِ فِي الدُّبَاءِ وَالْحَنِيمِ

محمد پر جو حکم فرماتے ہیں اہل اسلام کے ساتھ لڑائی نہ کرنے کا اور منع فرماتے ہیں کدو اور روغنی والے برتن کے نبیذ پینے سے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ بِالْعَزَلَةِ عَنِ النَّاسِ وَالتَّاهِي عَنْ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں لوگوں سے الگ تھلک رہنے اور منع فرماتے ہیں

التَّرَفُّعِ فِي اللَّيَاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ لِمَعِيَّةِ اللَّهِ وَالتَّاهِي

لباس میں بڑی اور بڑائی ظاہر کرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معیت کا اور منع

عَنْ مَّا سَوَى اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ الْجَنَّةِ تَحْتَ قَدَمِي

فرماتے ہیں ماسوی اللہ کی عبادت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو فرماتے ہیں کہ جنت والدین کے قدموں

الْأَبْوَيْنِ لِإِطَاعَتِهِمَا وَالتَّاهِي الْجَهَنَّمَ تَحْتَ قَدَمِي الْأَبْوَيْنِ لِمَعْصِيَتِهِمَا

کے نیچے ہے بسبب ان کی فرمانبرداری کے اور جو فرماتے ہیں کہ جہنم والدین کے قدموں کے نیچے ہے ان کی فرمانی والوں کے لیے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ فِي الْقُدْسِيِّ قَالَ اللَّهُ يَا

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا فرمان حدیث قدسی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے

بْنَ آدَمَ كَمْ مَن سَرَّاحِ أَطْفَاةِ الرِّيحِ وَكَمْ مَن عَابِدًا أَفْسَدَا الْعُجْبُ

اے آدم کتنے چراغ ہیں جنہیں آنڈھیوں نے بجھا دیا اور کتنے عابد ہیں جنہیں سمجھنے نے تباہ کر دیا کتنے

وَكَمْ مِّنْ فَقِيرٍ أَفْسَدَهُ الْفَقْرُ وَكَمْ مِّنْ غَنِيٍّ أَفْسَدَهُ الْغِنَى وَكَمْ مِّنْ

فقیر ہیں جنہیں فقر نے تباہ کیا اور کتنے غنی ہیں جنہیں غنا نے برباد کیا اور کتنے

صَحِيحٌ أَفْسَدَهُ الْعَافِيَةُ وَكَمْ مِّنْ عَالِمٍ أَفْسَدَهُ الْعِلْمُ يَا بَنِي آدَمَ زَارِعُونِي

تندرست ہیں جنہیں تندرستی نے بگاڑ دیا اور کتنے عالم ہیں جنہیں علم نے برباد کیا۔ اے اولاد آدم میرے زارع بنو

وَرَابِحُونِي وَاسْقُونِي وَعَامِلُونِي إِنَّ رَبَّكُمْ عِنْدِي مَا لَاعَيْنَ رَأَتْ

میرے ساتھ بیع مراءجت کرو اور میرے ساتھ مساقات اور معاملات کرو کیونکہ تمہارے منافع میرے پاس ایسے ہیں جنہیں

وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَلَا يَنْفَعُ خَزَائِنِي وَلَا يَنْقُصُ

کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور کسی بشر کے دل میں ان کا تصور آیا اور میرے خزانے ختم نہیں ہوتے اور میرا ملک

مَلِكِي أَنَا الْوَهَّابُ وَقَالَ اللَّهُ يَا بَنُ آدَمَ دِينُكَ لِحَمِكَ وَدَمُكَ فَإِنْ صَلَّحَ

کم نہیں ہوتا میں ہی عطا کر نیوالا ہوں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ تے۔ اے ابن آدم تیرا دین ہی تیرا گوشت اور خون ہے پس اگر درست

دِينُكَ صَلَّحَ الْكُلُّ فَلَا تَكُنْ كَالْبُصْبَاحِ يُضِيئُ لِلنَّاسِ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ وَ

رہا دین تیرا تو سبھی درست رہیں گے پس تیرے کی مانند نہ ہو کہ لوگوں کو روشنی مہیا کرتی ہے اور اپنے آپ کو مہلاقی ہے اور

أَخْرَجَ حُبَّ الدُّنْيَا عَنْ قَلْبِكَ فَإِنِّي لَا أَجْمَعُ صَبْرًا وَحُبَّ الدُّنْيَا فِي

نکال دے دنیا کی محبت کو اپنے دل سے کیونکہ میں صبر اور دنیوی محبت کو جمع نہیں کرتا ایک دل میں

قَلْبٍ وَاحِدٍ أَبَدًا كَمَا لَا يَجْمَعُ الْمَاءُ وَالنَّارُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ رَفَقَ بِنَفْسِكَ

کبھی بھی جیسے کہ جمع نہیں ہو سکتے پانی اور آگ ایک برتن میں کبھی اور اپنے ساتھ نرمی اختیار کر رزق

فِي جَمْعِ الرِّزْقِ فَإِنَّ الرِّزْقَ مَقْسُومٌ وَالْحَرِيصُ مَحْرُومٌ وَالْبَخِيلُ مَذْمُومٌ

کے جمع کرنے میں کیونکہ رزق قسمت میں لکھا ہوا ہے اور حرصیں قابلِ حرمان ہے اور بخیل قابلِ مذمت ہے

وَالنَّعْمَةُ لَا تَدْوِمُ وَالْأَجَلُ مَعْلُومٌ وَخَيْرُ الْحِكْمَةِ خَشْيَةُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْغِنَى

اور نعمت دینا دائمی نہیں اور وقت موت معین و مقرر ہے اور بہترین حکمت اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور بہترین غنا

الْقَنَاعَةُ وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى وَشَرُّ الصَّلَاحِ الْكِبَابُ وَشَرُّ النَّصِيحَةِ

قناعت ہے اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے اور بدترین اصلاح کباب ہے اور بدترین نصیحت چنگیزی

التَّيْمَةَ وَمَا رُبُّكَ بظلامٍ للعبيدِ قَالَ اللهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ہے اور تیرا رب بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اے ایمان والو تم وہ

لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ وَلَمْ تَتَّهَمُونَ عَمَّالًا تَتَّهَمُونَ وَلَمْ تَأْمُرُوا

کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اور کیوں منع کرتے ہو ان امور سے جن سے خود باز نہیں رہتے اور کیوں حکم دیتے ہو

بِمَا لَا تَعْمَلُونَ وَلَمْ تَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ وَفِي التَّوْبَةِ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ

اس کا جس پر عمل نہیں کرتے اور کیوں جمع کرتے ہو جو نہیں کھاتے اور توبہ کے بارے میں روز بروز

تُأَخَّرُونَ وَعَمَّا بَعْدَ عَامٍ تَنْظُرُونَ أَلَمْ يَأْمُرْ أَمَانٌ أَمْ بِأَيْدِيكُمْ

تاخیر کرتے ہو اور سال بسال انتظار کرتے ہو کیا تمہیں موت سے امان میتیر ہے یا تمہارے ہاتھوں میں

بِرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ أَمْ تَحَقَّقْتُمُ الْجَنَانَ أَمْ أَنْظَرَكُمْ النِّعْمَةَ وَغَرَّكُمْ مِّنْ

آتش دوزخ سے بچاؤ کی سند ہے یا تمہیں جنتوں میں داخل ہونے کا یقین ہو گیا ہے یا تمہیں نعمتوں نے مہلت دے

اللَّهُ طُولُ الْأَمْالِ وَلَا يَغُرُّكُمْ الصِّحَّةُ وَالسَّلَامَةُ فَإِنَّ أَيَّامَكُمْ مَعْلُومَةٌ وَ

رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دھوکہ میں رکھا ہوا لمبی آرزوں نے تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے صحت و سلامتی کیونکہ تمہارے دن گنے ہوئے ہیں اور

أَنْفُسَكُمْ مَعْدُودَةٌ وَسَرَائِرُكُمْ مَّكْشُوفَةٌ وَأَسْتَارُكُمْ مَّهْتُوكَةٌ فَاتَّقُوا

تمہارے سانس شمار کئے ہوئے ہیں اور تمہارے سر بستہ راز کھلے ہوئے ہیں اور سترو پرے پھاڑے جانے والے ہیں لہذا اللہ

اللَّهُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَقَدْ مَوَّأَمَنِي أَيْدِيكُمْ يَا ابْنَ آدَمَ مُقَدَّمٌ فِي عِلْمِكَ

سے ڈر دے عقل والو اور آگے بھیجو جو تمہارے ہاتھوں میں ہے اے ابن آدم تیرے علم میں آچکا ہے تیری

عَلَى هَدْمِ عَمْرِكَ مِنْ يَوْمٍ خَرَجْتَ مِنْ بَطْنِ أُمَّكَ وَتَدْنُواكُلَّ يَوْمٍ مِّنْ

عمر ختم ہونے سے پہلے اس دن سے جبکہ تو اپنی ماں کے پیٹ سے برآمد ہوا اور ہر دن تو قریب ہو رہا ہے

قَبْرِكَ فَلَا تَكُنْ كَالْحَطْبِ الَّذِي يَحْرِقُ نَفْسَهُ بِالنَّارِ بِغَيْرِ لَأِإِلَهَ إِلَّا

اپنی قبر سے لہذا نہ ہو تو مانند کھڑی کے جو اپنے آپ کو جلاتی ہے ساتھ آگ کے واسطے بغیر۔ نہیں کوئی معبود برحق مگر

اللَّهُ حَقًّا مُحَمَّدًا عَبْدِي وَرَسُولِي أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ

اللہ برحق برحق محمد میرے عبد خالص اور رسول برحق ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام اور برکات نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَلِكِ الْحَقَّ آتِيقُ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو کشتی ہیں اللہ تعالیٰ کے

الصَّفَاتِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

صفاقی حقائق کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِهَاءِ عَزَّةٍ كُنْهُ الْوَهْيِيَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آل محمد پر بطفیل اپنی الوہیت کی کنہ و حقیقت کی عزت و علیہ کی ہمارے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ظُهُورِ أَنْوَارِ السُّبْحَاتِ الْوُجْهِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو سراپا ظہور ہیں وجہ الٰہی کے جلاؤانے والے تجلیات کے

الْمُحْرَقَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كِتَابِ

انوار کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مجسم کتاب ہیں

الْحَقَائِقِ الْإِلَهِيَّةِ الذَّاتِيَّةِ وَمَنْبِعِ عَيْنِ رُوحِ الْحَقَائِقِ الْإِلَهِيَّةِ اللَّهُمَّ

حقائق الٰہیہ ذاتیہ کی اور منبع ہیں حقائق الٰہیہ کی روح کے سرچشمہ کا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَوْلَتِ عَظَمَتِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو سراپا صولت و علیہ ہیں عظمت

الْخِطَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

خطاب کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْحَضْرَةِ الْإِلَهِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

پر جو امام (خلائق) ہیں بارگاہ الٰہی (نہک رسائی) کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَوْثَرِ الْأَنْوَارِ السُّبْحَانِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ الْأَكْبَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ

آپ کی آل پر جو بہت بڑی کونثر ہیں انوار الٰہیہ سبحانیہ کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مِنْهُ إِمْتَدَّتْ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ انہیں سے پھیلے تمام

جَدَاوِيلُ جَمِيعِ الْاِلَهِيِّينَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

اللہ والوں کے لیے (فیوضات کی) نہریں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَخْصُوصِ بِالْاِخْصَائِيَّةِ الْكَمَالِيَّةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

آل محمد پر جو محبوب مخصوص ہیں خصائص کمال کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَقَائِقِ الْكَمَالِ وَالْعُظْمَةِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو سراپا حقائق کمال ہیں اور مجسم

الْجَامِعَةِ لِلْجَلَالِ وَالْجَبَالِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

عظمت میں جو جمع کرنے والی ہے جلال و جمال کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَاسِ دِيْوَانِ حَضْرَةِ الْوَحْيِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی آل اطہار پر جو رئیس ہیں بارگاہ وحی کے دیوان کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِسَانِ الْحَقِّ الَّذِي لَا يَنْطِقُ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو حق کی زبان ہیں جو نہیں بولتے

عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ بَاءِ

خواہش نفس سے، نہیں ان کا کلام مگر وحی جس کو ان پر نازل کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میں سوال کرتا تجھ سے بطفیل

اِسْمِكَ الْمَعْنِيَّةِ الْمَوْصَلَةِ اِلَى اَعْظَمِ مَقْصُوْدٍ وَّرَاجِدٍ كُلِّ مَفْقُوْدٍ

تیرے اسم کی بارہ مقصودہ کے جو پہنچانے والی ہے عظیم تر مقصود کی طرف اور ہر مفقود و معدوم کی ایجاد کی طرف

بِالنَّقْطَةِ الدَّالَّةِ عَلٰى مَعْنٰى الْاَسْرَاسِ السَّرْمَدِيَّةِ وَالذَّاتِ الْقَدِيْمَةِ

بسبب اس نقطہ کے جو دال ہے اسرار سرمدیہ کے معنی و حقیقت اور ذات قدیمہ

الْقَرْدَانِيَّةِ وَبِحَدْبَتِهَا لِاحْبَابِهَا وَتَصْرِيفِهَا الْجَزِيَّةِ وَالْكَلِيَّةِ

یگانہ پر اور بسبب اس کے کشش کرنے کے اپنے احباب کو اور اس کی جزوی اور کلوی

وَبِسِيْنَتِهَا بِدِيْعَةِ التَّصْرِيفِ وَسِرِّ الرَّيُوْبِيَّةِ الْمُنْزَهَةِ عَنِ

تصریف اور گردانوں کے اور بطفیل اس اسم کی سین کے جو انوکھی تفریف اور صیغہ والی ہے اور بر بوبیت ہے

المَكَانِيَّةُ وَالزَّمَانِيَّةُ الْمُتَفَرَّدَةُ بِتَفْرِيجِ الكُرُوبِ وَالخُطُوبِ

جو منزه ہے مکانی اور زمانی ہونے سے مفرد و مستقل ہے غم و اندوہ اور عظیم دنیوی اور

الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْآخِرَوِيَّةِ وَبِمِيزَانِهَا بَتَصَارِيفِهَا أَحْيَاءٌ وَإِمَاتَةٌ سَائِرُ

اخروی مشکلات کے حل کرنے میں اور بطیفیل اس کے میم کے جس کے تصرفات سے ساری مخلوق کا زندہ کیا جاتا

الْبَرِيَّةِ فَلَيْسَ لَهَا قَبْلِيَّةٌ وَلَا بَعْدِيَّةٌ مُتَنَزِّهَةٌ عَنِ الْكَيْفِيَّةِ بِتَصَارِيفِهَا

اور مارا جاتا و البتہ ہے پس نہیں ہے اس کی ابتداء اور نہ انتہاء، منزه ہے کیفیت سے بسبب اپنی تصرفات اور

وَمَعَانِيهَا الْبُحْدِيَّةِ وَيَأْلِفُ الْوَصْلَ الَّذِي أَقَمَتْ بِهِ الْكَائِنَاتُ فَهُوَ

محمدی معانی کے۔ اور بطیفیل الف و صلیبہ کے جس کے طفیل تو نے کائنات کو برپا فرمایا پس وہ

حَرْفٌ مَبْنِيٌّ مُتَصَرِّفٌ عَلَى سَائِرِ الْحُرُوفِ النَّارِيَّةِ وَالشَّرَائِبِيَّةِ وَ

مبنی حرف ہے جو تصرف ہے تمام حروف ناربیہ (آتش) اور ترابیہ (خاک) اور

الْهُوَائِيَّةِ وَالْمَائِيَّةِ مُضَمَّرٌ تَعْرِيفُهُ كَالشَّمْسِ الْبِهِيَّةِ نَفْدًا

ہوائیہ اور مائیہ پر مضمر و مقدر ہے تعریف اس کی مانند روشن آفتاب کے۔ ناقذ و

تَصْرِيفُكَ فِي كُلِّ مَعْدُومٍ فَأَوْجَدْتَهُ وَفِي كُلِّ مَوْجُودٍ فَأَقْهَرْتَهُ

موثر ہوئی تیری تصرف اور تاثیر ہر معدوم میں پس موجود کیا تو نے اسے اور ہر موجود میں پس مغلوب کیا اسے

وَبِحَقِّ صِفَاتِكَ الْقَهْرِيَّةِ أَقْهَرْنَا وَأَعْدَانَنَا وَأَعْدَانِكَ وَبِلَا مِ اللَّهِ

اور بطقیل اپنے صفات قہریہ کے ہمارے اعدا کو مغلوب فرما اور اپنے اعدا کو اور بطقیل اسم اللہ کے لام کے

الْمُتَنَزِّهَةِ عَنِ الشَّرِيكِ وَالصِّدِّ الْمَعْبُودَةِ بِحَقِّ الْقَائِمَةِ عَلَى كُلِّ

جو منزه ہے شریک سے اور مد مقابل سے معبود برحق ہے، نگران ہے ہر نفس پر

نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ الْعَالَمَةَ بِيَا فِي السَّرَائِرِ وَالضَّمَائِرِ هَبْ لَنَا هَبَةً

اس کے سب و عمل میں۔ عالم ہے ہر اس لازم اور بھید کا جو خلائق کے اندرون اور دلوں میں ہے ہمیں عطا فرما عطا اپنے

مَنْ هَبَاتِهَا وَافْتَحْ لَنَا بَعْلِهَا وَحَقَّقْنَا هَا بِسِرِّ سَرَّائِرِهَا التَّافِذَةَ

خاص عطیات میں سے اور کھول ہمارے لیے اس کے علم (کا دروازہ) اور ہمیں قائم و پائیدار بنا اس کے موثر بر باطنی کے ساتھ



وَصَرَفْنَا فِي سِرِّهَا كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَبِهَاءٍ هُوَ بَيْتُهَا الْقَائِمَةُ

اور تاثیر و تصرف فرما ہمارے اندر اس کے سر و باطن کے مطابق جیسے کہ تو پسند فرمائے اور راضی ہو اور بطفیل لفظ اللہ کی یاد

بذاتِهَا الْمُسْتَحَقَّةُ بِجَمِيعِ الْمَحَامِدِ أَقْسَمْتُ بِهِ فِي عِزِّ

ہریت کے جو بذاتِہا موجود و قائم ہے۔ تمام محامد اور صفات کمال کی مستحق ہے۔ تو نے قسم اٹھائی ساتھ اس کے

تَوْجِيدِهَا وَأَنْزَلْتُ الْكُتُبَ الْقَدِيمَةَ شَاهِدَةً وَشَهِدًا وَ

عزت و علیتِ توحید کے بارے میں اور نازل فرمایا کتبِ قدیمہ کو شاہد و گواہ کے طور پر اور شہادتِ وحی اور

صَدَقَ أَهْلُ سَعَادَتِهَا وَاسْتَعْرَقَتْ بِسِرِّ سَرَائِرِ أَهْلِ

تصدیق کی اس کی اہل سعادت نے اور مستغرق کیا تو نے اس کے سر السرائر میں اہل مشاہدہ

مُشَاهَدَتِهَا وَبِسِرِّ الرَّحْمَنِ مُعْطَى جَلَائِلِ النِّعَمِ وَرَاحِمِ

کو اور بطفیل سترِ رحمن کے جو بزرگتر نعمتیں عطا کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے

الشَّيْخِ الْهَرَمِ وَالطِّفْلِ الصَّغِيرِ وَالْجَنِينِ رَحْمَنَ الدُّنْيَا

بوڑھے کمزوروں پر اور چھوٹے بچوں اور پردہِ رحم میں موجود پر۔ غایتِ رحمت والا ہے دُنیا

وَالْآخِرَةِ مُعْطَى الْقُلُوبِ فَرِيَادَةً بِنَاءً دَلَّتْ عَلَى شَرَفِهِ

و آخرت میں دلوں میں مہربانی اور شفقت پیدا کرنے والا ہے، اس کے حروف ترکیب کی زیادت و کثرت دلالت کرتی ہے

وَأَنْفِرَادِهِ وَبِسِرِّ الرَّحِيمِ وَرِاقَةِ الرَّحْمَةِ مُعْطَى جَلَائِلِ النِّعَمِ

اس کے شرف و تفضل پر اور انفرادیت پر اور بطفیل سترِ رحیم کے اور رحمت کی مہربانی کے جو عطا کرنے والا ہے بزرگتر نعمتیں

وَدَقَائِفِهَا وَمُشَوِّقِ الْقَلْبِ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَجَادِ بِهَا

اور چھوٹی نعمتیں۔ اور دلوں میں شوق پیدا کرتے والا ہے بعض کا بعض کی طرف اور انہیں کشش کرنے والا ہے انہیں

بِتَعْطِيفِ رُوحَانِيَّةِ إِسْمِكَ الرَّحِيمِ فَهَمَّا إِسْمَانِ جَلِيلَانِ

تیرے اسمِ رحیم کی روحانیت کی مہربانی اور شفقت سے پس وہ دونوں بزرگتر

كِرِيمَانِ عَظِيمَانِ فِيهِمَا شِفَاءٌ وَبَرَكَاتٌ لِّكُلِّ مُؤْمِنٍ يَسْأَلُ

کرامت و عظمت والے نام ہیں ان میں سراسر شفا اور برکت ہے ہر مومن کے لیے جو سوال کرے



بِهِمَا فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مِنْ مَّصَالِحِ الدُّنْيَا وَدَارِ التَّحْوِيلِ وَبِسَرِّهَا

ان کے توسل سے دنیا اور دار انتقال کے منافع میں قبیل ہوں خواہ کثیر اور ان کے سر و باطن کے ساتھ

فِي الْقَدَمِ وَبِحَقِّ حُرُوجِ الْأَرْبَعَةِ الْأَنْهَارِ مِنْ حُرُوفِهَا الْأَرْبَعَةِ

قدم و ازل میں اور بطیفیل نکلنے چار نسرول کے ان کے چار حروف سے

وَبِهَيْبَتِهَا وَبِقُوَّةِ سُلْطَانِهَا عَلَى الْعَالَمِ الْعُلُويِّ وَالسُّفْلِيِّ وَ

اور بطیفیل ان کی ہیبت اور قوت غلبہ کے عالم علوی و سفلی پر اور

بِهَاءِ مَنْزِلَتِهَا وَكُوجِهَا وَقَلْبِهَا وَالْعَرْشِ وَالْكَرْسِيِّ وَبِأَمِينِهَا

اس کی رفعت و منزلت کی رونق اور اس کے لوح و قلم اور عرش و کرسی کے طفیل اور ان کے امین

جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِأَمِينِهَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ

حضرت جبرئیل علیہ السلام اور ان کے امین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

سَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے طفیل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الْأَمْوَاجِ بِالْخَطَابِ الْأَزَلِيِّ فِي حَضْرَةِ التَّكْلِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

جو بارگاہ ہمکلامی میں خطاب ازل کے سب سراپا امواج ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَجْمَعِ الْعُظَمَاءِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محل اجتماع ہیں

الذَّاتِيَّاتِ الْإِلَهِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ذاتی الہی عظمتوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ الْحَقِيقَةِ الذَّاتِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

آل محمد پر جو عین حقیقت ذاتیہ الہیہ کے منظر کامل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كِتَابِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو مجسم کتاب ہیں

حَضْرَاتِ الرَّيُّوَانِ الْإِلَهِيِّ وَيُتْبِوْءُ عَيْنَ مَادَّةِ الْوُجُودِ الْإِلَهِيِّ

ریوان الہی کی حضور یوں کی اور بہتا چشمہ ہیں وجود الہی ازلی

الْأَزَلِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کے مادہ کا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ نُقْطَةً وَجْهَ جَمَالِ حُسْنِ الْحَقِّ الْمَشْهُودِ الْإِلَهِيِّ الْأَيْدِيِّ

پر جو نقطہ اور خال ہیں حق تعالیٰ کے حسن الہی ابدی کے چہرہ جمال کا جس کے جلوے پر جگہ مشاہدہ کئے جاتے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِحَرْمِ مَجِيطِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کی آل پر جو بحر محیط

الْمُحِبَّةِ الدَّائِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہیں ذات الہی کی محبت کا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زَلَّالِ الْمُحِبَّةِ الْأَزَلِيَّةِ الدَّائِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ

اور آپ کی آل اطہار پر جو صفات و شفاف (آب حیات ہیں) ذات الہیہ ازلیہ مقدسہ کی

الْمُقَدَّسَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

محبت کا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ طَوْقَانَ الْعِظْمَةِ الْحَبِيبَةِ الْإِلَهِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو جب الہی کی عظمت کی موسلا دھار بارش ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَقَائِقِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو اسماء و صفات الہیہ قدسیہ کے

الْقُدْسِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

حقائق کے منظر کامل ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

مُحَمَّدٍ تَجَلَّى كَمَالِ الذَّاتِ الْإِلَهِيَّةِ الْمُقَدَّسَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر جو تجلی کمال ہیں ذات الہیہ مقدسہ کی۔ اے اللہ صلوات و سلام



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَلْعَةَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو ذات الہیہ کے اسماء و صفات

الذَّاتِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کی خلعت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يَعْسُوبَ أَسْرَارِ الْوَاصِلِينَ الْإِلَهِيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

کی آل پر جو امیرورئیس ہیں واصلان بارگاہ الوصیت کے اسرار کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْنُّورِ الْإِلَهِيِّ الرَّافِعِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو مجسم نور الہی ہیں جو دور کرنے والے ہیں

لِلظُّلُمَاتِ الْكُونِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کون و صدوت کی ظلمات کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُنْزِ الْمَعَارِفِ الذَّاتِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل اطہار پر جو ذات الہی کے معارف کا خزانہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْعَيْنِ الْحَقِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو (منظر) عین ہیں حتی تعالیٰ کا جو

الْجَامِعَةَ لِكُلِّ عَيْنٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جامع ہے واسطے ہر عین و حقیقت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَظْهَرِ الْعُظْمَةِ الذَّاتِيَّةِ وَجَمْعِ عِيُونِ الْحَقَائِقِ

محمد پر جو اللہ کی عظمت ذاتیہ کے مظہر ہیں اور رحمانی حقائق کے سرچشموں کا

الرَّحْمَوْتِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مجمع (الانوار) ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ سِرِّ مَلَكُوتِ الْأَسْمَاءِ وَالْمُعَبَّرِ عَنْهُ قَبْلَ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ

پر جو راز سر بستہ ہیں اسماء باری تعالیٰ کے وسیع ملک کے اور ان کے تذکرے کئے گئے زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَادِحِ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو سادہ

الذَّاتِ الْإِحَاطِيَّةِ الْوُجُودِ وَنُقْطَةِ دَائِرَةِ الْكَمَالِ الْإِلَهِيِّ فِي الْغَيْبِ

ذات والے ہیں جس کا وجود و محیط (کائنات) ہے اور کمال الہی کے دائرہ کے مرکزی نقطہ ہیں غیب

وَالشُّهُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و شہود میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

نَفْخِ رُوحِ الرَّحْمَانِ فِي كَلِمَاتِ الْوُجُودِ الْعَيَانِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ

جو نفخ رحمانی کی روح کا عین نفخ اور صلوات ہیں وجود عیانی کی کلمات میں۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْتَوْبِ الْذَّاتِيِّ وَالْمَنْظَرِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو سراسر توبہ ذاتی اور منظر

الصِّفَاتِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صفات میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

مَجْلَى الْحَقَائِقِ الْقُرْآنِيَّةِ وَصُورَةِ مَادَّةِ التَّجْلِيَّاتِ الْفُرْقَانِيَّةِ اللَّهُمَّ

جو جلوہ گاہ ہیں حقائق قرآنیہ کی اور صورتہ مادہ ہیں تجلیات فرقانیہ کی۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرُّوحِ الْقُدْسِيِّ وَ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو قدسی روح ہیں اور

السِّرِّ السُّبُوحِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سبوحی راز سرستہ ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

بِرُزْخِ الْعُظْمَةِ الدَّائِيَّةِ الْحَاجِزِينَ خَلْقَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو عظمت ذاتیہ کا برزخ ہیں جو حائل ہے تیری مخلوق کے درمیان۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَيُوضِ الْجَمَالَ وَالْجَلَالَ وَ

سیدنا محمد و آل محمد پر جو جسم فیوض ہیں جمال و جلال اور

الْكَمَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کمال کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر آل محمد پر

الذَّاتِ الْكُنْهَ وَعَيْنِ الْكُنْهِ فِي الْكُنْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو ذات حقیقیہ اور عین حقیقت ہیں حقیقت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَبْلَهُ وَجُوهَ تَجَلِّيَاتِ الْكُنْهِ وَجَاهِهِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو قبلہ ہیں تجلیات حقیقت کے چہروں کا اور تمام حقائق کو اپنے

الْحَقَائِقِ كَمَا لَكُنْهَ الْكُنْهِ وَالْقَائِمِ بِالْكُنْهِ فِي الْكُنْهِ وَأُمِّ الْكِتَابِ

اندر جمع کرنے والے حقیقتِ اصلیہ کا کمال جسم اور قائم و برابر رکھنے والے ہیں حقیقت کے حقیقت میں اور ام کتاب

لِكَمَا لَاتِ كُنْهَ الذَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور لوح محفوظ ہیں حقیقت ذات کے کمالات کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ الْوُجُودِ الْمَطْلُوقِ الْجَامِعِ لِسَائِرِ التَّقْيِيدَاتِ

آل محمد پر جو وجود مطلق کا عین ہیں جو کہ تمام تقییدات و تشخصات کا محل جامع ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صُورَةَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو صورت ہیں

نَاسُوتِ الْخَلْقِ وَمَعَانِي لَاهُوتِ الْحَقِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

خلائق کے جسم مادی کی اور معانی ہیں حق تعالیٰ کے تجرّد اور تقییدات سے تنزہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّاطِرِ بِالْكَلِّ فِي الْكُلِّ مِنْ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو مشاہدہ فرمانے والے ہیں ساتھ کل کے کل میں کل

الْكَلِّ لِلْكَلِّيَّاتِ وَالْجُزْئِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

سے واسطے کلیات و جزئیات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَوْنِهِ سَلْسَبِيلٍ وَمَنْهَلِ حَوْضِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو مانند کوثر و سلسبیل کے ہیں اور سرچشمہ ہیں واسطے

مَشَارِبِ جَمِيعِ التَّجَلِيَّاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

تمام تجلیات کے گھاٹوں والے حوض کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُتَلَدِّ بِصُوْرَةٍ نَفْسِهٖ فِى جَنَّةٍ فِرْدَوْسٍ

آل محمد پر جو کھٹ اندوز ہونے والے ہیں اپنی حقیقی صورت کے ساتھ اپنی ذات کے جنت الفردوس

ذَاتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

بِحَرَقِ مُوسٰى الْجَمْعِ الْمَطْمَطِ وَطِرَارِ رِذَاۃِ الْكِبْرِيَاۤءِ الْمَطْلُومِ اَللّٰهُمَّ

جو گہرا تلامخیز سمندر ہیں جمع یعنی خلق و خالق کے تعلق کا اور طلسماتی نقش ہیں کبریائی چادر کے لیے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَرَاۤءِ الْوَرَاۤءِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو بلند تر ہیں تمام مخلوق سے

بِلَا وِرَاۤءِ دُوْنِ الدُّوْنِ بِلَادُوْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

بغیر انتہاء کے اور قریب تر ہیں ہر قریب کی نسبت بغیر کسی فصل و فرق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِى لَا اَحَدٌ يَسَاوِيْهِ وَلَا فِىْهِ يَدِ اٰنِيْهِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ کوئی شخص ان کے ساتھ (درجات و مراتب میں) نہ برابر ہے اور نہ ہی قریب

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُرْسِيَّ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو کرسی محیط ہیں

الصِّفَاتِ وَالْاَسْمَاءِ اَللّٰهُمَّ رَانِىْ اَسْئَلُكَ بِالْاَلْفِ اِذَا تَقَدَّمْتُ وَ

تمام صفات و کمال اور اسماء (حال) کے لیے۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطیفیل الف کے جب مقدم ہوا اور

بِالْهَاءِ اِذَا تَاَخَّرْتُ وَبِالْهَاءِ مِثِّىْ اِذَا انْقَلَبْتُ لِمَا اَنْ تَفْنِيْنِىْ

ساتھ ہا کے جب مؤخر ہوا اور ساتھ میری ہا کے جب لام بن جائے کہ فنا کر دے مجھے

بِكَ عَنِّىْ حَتّٰى تَلْتَحِقَ الصِّفَةُ بِالصِّفَةِ وَتَقَعَ الرَّاْبِطَةُ بِالذَّاتِ

مجھ سے اپنی ذات کے ساتھ حتیٰ کہ لاحق ہو جائے صفت ساتھ صفت کے اور قائم ہو جائے ربط و تعلق تیری ذات سے بھی



لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ إِنِّي

نہیں معبود برحق مگر تو اے دائم الحیات، اے قائم ہدایت خود اور دوسروں کو قائم کرنیوالے، اے جلال و اکرام والے، اے اللہ میں

أَسْأَلُكَ بِالْأَلْفِ الْقَائِمِ الَّذِي لَيْسَ قَبْلَهُ سَابِقٌ وَبِالْأَمِينِ

تجھ سے سوال کرتا ہوں ساتھ قائم و ثابت الف کے جس سے مقدم کوئی شئی نہیں اور ساتھ دو لاموں کے جن

الَّتَيْنِ طَمَسَتْ بِهِمَا الْأَسْرَارُ وَجَعَلْتَهُمَا بَيْنَ الْعَقْلِ وَ

کے ذریعے مٹ گئے اسرار اور بنا دیا تو نے ان دونوں کو عقل اور روح کے

الرُّوحِ وَأَخَذَتْ عَلَيْهِمَا الْعَهْدَ الْوَاتِقَ وَبِالْهَاءِ الْمُحِيْطَةِ

درمیان اور لیا تو نے ان سے پختہ عہد اور ساتھ ہاء کے جو محیط ہے علوم

بِالْعُلُومِ الْجَوَامِدِ وَالْمُتَحَرِّكِهٖ وَالصَّوَامِتِ وَالنَّوَاطِقِ هُوَ

کے ساتھ ٹھوس اشیاء اور متحرک کو اور خاموش اشیاء اور بولنے والی کو، وہی

اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَلِيمُ الرَّحِيمُ الْفَعَّالُ اللَّطِيفُ الْوَلِيُّ

اللہ ہے کہ نہیں معبود برحق مگر وہی دائمی حکم اور رحم والا، بہت افعال والا، محاسن خلاقیت سے بالاتر، متولی امور

الْحَمِيدُ الصَّبُورُ الرَّشِيدُ الرَّحْمَنُ رَبُّ مَنْ بَرَدَ جِلْمِكَ

علاقہ دائمی مستحق حمد، بہت صبر و تحمل والا، سیدھی راہ والا، غایت رحمت والا۔ اے اللہ مجھے چکھانچھ پر اپنی برادری کی

عَلَى مَا ابْتِهَجِرْ بِهِ فِي عَوَالِيهِ فَلَا أَشْهَدُ فِي الْكُونِ إِلَّا مَا يَقْتَضِي

ٹھنڈک جس کے ساتھ خوشی و مسرت کا اظہار کروں میں اپنے جہانوں میں پس نہ دیکھوں میں مخلوقات میں مگر اسی کو جو چاہے

سَكُونِي وَرَضَائِي بِرِضَائِكَ فَإِنَّكَ الْحَقُّ وَأَمْرُكَ الْحَقُّ وَ

میرے سکون و رضائے کو ساتھ تیری رضا کے کیونکہ تو ہی حق اور دائم الوجود ہے اور امر تیرا حق ہے اور

أَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّحِيمُ رَبُّ مَنْ أَبْهَدْتَنِي مُطْلَقَ فَاغْلِبْتَنِي فِي كُلِّ

تو ہی حلیم و رحیم ہے۔ اے میرے رب مجھے مشاہدہ کرا اپنی تاثیر مطلق کا ہر مخلوق

مَفْعُولٌ حَتَّى لَا أَرَى فَاغْلِبْتَنِي لَأَكُونَ مُطْمَئِنًّا تَحْتَ جَرِيَانِ

میں تھی کہ میں نہ سمجھوں تیرے علاوہ کسی کو فاعل و مؤثر تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں تیری تقدیروں کے

أَقْدَارِكَ مُنْقَادًا الْكُلِّ حُكْمٍ وَجُودِي عَيْبِي وَبِرُّ زَيْحِي يَا نَافِعَ رُوحِ

جاری ہونے کے مطابق در آنجا لیکہ میں تابعداری کر دوں تیرے ہر حکم کی موجود خارجی ہو یا برزخی اور مخفی۔ اے اپنے ارد

أَمْرِهِ فِي كُلِّ عَيْنٍ اجْعَلْنِي مُنْفَعًا فِي كُلِّ حَالٍ لِمَا يُحَوِّلُنِي عَنْ

تفاد کی روح کو ہر عین میں پھونکنے والے بنادے مجھے متاثر ہر حال میں ہر اس امر سے جو مجھے پھیر دے

ظُلُمَاتٍ تَكُونُنِي وَأَلْحَقْ فِعْلِي وَفِعْلَ الْفَاعِلِينَ فِي أَحَدِيَّةِ

میری تکوینی اور تخلیقی ظلمتوں سے اور لاحق فرما میرے فعل کو اور دیگر فاعلوں کے افعال کو اپنے فعل

فِعْلِكَ وَتَوَلَّنِي بِجَمِيلٍ حَمِيدٍ اخْتِيَارِكَ لِي فِي جَمِيعِ تَوَجُّهَاتِي

احدیث کے ساتھ اور متولی ہو میرا اپنے جمیل اور قابل ستائش اختیار کے ساتھ میری تمام توجہات و رغبات میں

وَأَفِنْ عَنِّي إِرَادَتِي وَصَبِّرْ بَنِي وَسِدِّدْ بَنِي وَارْحَمْنِي وَأَصْحَبْنِي

اور قنا فرما مجھ سے میرے ارادہ کو اور مجھے صبر اور ثابت قدمی عطا فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ اور مجھے مصاحب بنا

بِاللُّطْفِ وَالْعِنَايَةِ بِبِعِبِّيَّةٍ خَاصَّةٍ مِّنْكَ وَحَقِّقْنِي بِقُرْبِكَ الَّذِي

لطف و عنایت کا اپنی معیت خاصہ کے ساتھ اور مجھے ثبوت و دوام بخش اپنے اس قرب کے ساتھ جس کے ساتھ

لَا وَحْشَةَ مَعَهُ يَا رَحْمَنُ يَا سَلَامُ يَا اللَّهُ يَا نُورُ يَا حَقُّ يَا مَبِينُ الْكِسْفِي

وحشت نہیں۔ اے رحمن۔ اے سلام۔ اے اللہ۔ اے نور۔ اے حق۔ اے نبوت خود ظاہر اور دوسروں کو

مِنْ نُورِكَ وَعِلْمِي مِنْ عِلْمِكَ وَفَهْمِي عَنْكَ وَأَسْمِعْنِي مِنْكَ وَ

نور کرنے والے ہونا مجھے اپنے نور سے اور سکھلا مجھے اپنے علم خاص سے اور فہم عطا کر اپنی طرف سے اور سننے کی توفیق دے اور

أَبْصِرْنِي بِكَ وَأَسْمِعْ دُعَائِي بِخَصَائِصِ لُطْفِكَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ

بصر و بصیرت عطا فرما ساتھ اپنے اور میری دعا قبول فرما اپنے مخصوص لطف کے ساتھ اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ

تُسَخِّرْ لِي جَمِيعَ خَلْقِكَ بِالْمَحَبَّةِ وَالْمُودَّةِ وَأَنْ تَرْزُقَنِي رِزْقًا حَلَالًا

مخرفمائے میرے لیے اپنی تمام مخلوق کو محبت و مودت کے ساتھ اور عطا فرمائے حلال

طَيِّبًا مَّبَارَكًا وَأَنْ تُسَهِّلَ عَلَيَّ كُلَّ عَسِيرٍ وَأَنْ تَجْعَلَ الْعَسِيرَ يَسِيرًا

و پاکیزہ اور بابرکت رزق اور آسان فرمائے مجھ پر مشکل کو اور بنادے ہر مشکل کو آسان لے

عَظِيمِ السُّلْطَانِ يَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ يَا دَائِمَ النِّعَمِ يَا بَاسِطَ الرِّزْقِ يَا
عظیم سلطنت والے، اے قدیم احسان والے، اے دائمی نعمتوں والے، اے رزق کو عام

وَاسِعَ الْعَطَا يَا إِدَا فِعَ الْبَلَا يَا حَاضِرَ الْيُسْرِ بِغَائِبٍ يَا مُوجُودًا
کرنے والے، اے وسیع عطاؤں والے، اے بلیات کو دور کرنے والے، اے کرجو ایسا حاضر ہے کہ کبھی غائب نہیں ہوتا۔ اے کرجو موجود ہوتا

عِنْدَ الشَّدَائِدِ يَا مُجَمِّلَ السَّرِّ يَا حَفِيَّ اللَّطْفِ يَا لَطِيفَ الصَّنْعِ يَا
ہے شدتوں اور سختیوں کے وقت۔ اے باطن خالق کو حسین بنانے والے۔ اے مخفی لطف والے۔ اے پاکیزہ صنعت والے

حَلِيمٌ لَا يُعَجِّلُ يَا جَوَادُ لَا يَبْخُلُ اقْضِ حَاجَتِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ
دائمی علم والے جو (عفویت میں) جلدی نہیں کرتا۔ اے صاحبِ جود جو بخل نہیں کرتا، میری حاجت پوری فرما اپنی رحمت کیساتھ۔ اے

الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا
ارحم الراحمين - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ جَبَلٍ طُورِ التَّجَلِّيَّاتِ الْمُسْتَوِيِّ بِرُوحِ ذَاتِ الْوُجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ
کی آل پر جو کوہ طور ہیں تجلیات الہیہ کے لیے جو موسوم ہیں ہر موجود کی روح کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَمْعَ حَقَائِقِ الْإِلَهِيَّاتِ
و سلام نازل فرما سیدنا محمد اور آل محمد پر جو جمع اور محل اجتماع ہیں جہان الوہیت کے حقائق

الْمَشْهُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
مشہود کے لیے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

كَتَبَ الْمَعَارِفِ الدَّائِيَّةِ وَقُرْآنِ الْحَقَائِقِ الْإِلَهِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ
جو معارف ذات الہیہ کے کتب و خزائن ہیں اور حقائق الہیہ کا مصحف و قرآن ہیں۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُنَايَةَ الْحَسْبَةِ وَرَحْمَةً
سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو کنایہ اور عبارت ہیں جسی اللہ سے اور سراپا

الْبِسْمَلَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
رحمت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

عَيْنِ الْعَيْنِ الْحَافِظِ الْقَائِمِ بِصُورَتِهِ كُلِّ آيِنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو اصل ہیں ہر موجود کا۔ حفاظت فرمانے والے ہیں اور قائم ہے آپ کی صورت کے طفیل ہر مکان۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَرْفِ الْمَعِينِ وَالْغَيْنِ الْمُبْجَمِ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو معین حروف ہیں اور غین مبجم ہیں

وَنُقْطَةِ الْحَقِّ الْمُبْهَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور نقطہ ہیں حق مبہم و مخفی کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَا يَتْلَى قُرْآنُهُ إِلَّا مَنْ حَيْثُ الْحَقُّ بِعَجْمَةِ

آل محمد پر کہ نہیں تلاوت کی جا سکتی ان کے مصحف حسن و جمال کی مگر جانب حق جبل و علی سے بسبب عاجز و کنگل چنے

لُغَاتِ الْخَلْقِ عَنْ أَحَدِيَّةِ ذَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مخلوق کی لغات اور زبانوں کے ان کی ذات کی تکنا کی توصیف سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ الْعُظْمَةِ وَهَاءِ الْهُوِيَّةِ وَنُونِ

محمد پر اور آل محمد پر جو عظمت کی عین اور ہویت و ذات حق کی ہا اور عالم تا سوت

النَّاسُوتِ وَآدَمِ الْاَهُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و جہانیت کا نون اور لاہوت و تجرد کی لام ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُبْدِئِ الْكُلِّ وَمَرْجِعِ الْكُلِّ وَالْكُلِّ فِي

اور آل محمد پر جو ہر ایک کا مبدء و منشاء اور ہر ایک کا مرجع و علماء ہیں اور ہر کل کا

كُلِّ بِلَا بَعْضٍ وَلَا كُلِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کل اور حقیقت ہیں بغیر کسی تقسیم و تبعض کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْكُلِّ فِي سِرِّ الْكُلِّ الْكُلِّ حَيْثُ الْكُلُّ اللَّهُمَّ صَلِّ

آل محمد پر جو ہر کل کا کل اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلِّ الْكُلِّ وَكُلِّ الْكُلِّيَّاتِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کل کا کل اور تمام کلیات کی کلی ہیں

وَأَسْتَادُ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ اللَّهُ كُلُّ الْكُلِّ كُلُّ رَحْمَنٍ كُلُّ الْكُلِّ كُلُّ رَحِيمٍ

اور استاد الكل ہیں كل عالم میں۔ اللہ سب كل کا كل ہے۔ رحمن ہر كل کا كل ہے۔ رحیم ہیں

كُلُّ الْكُلِّ كُلُّ إِلَيْهِ كُلُّ الْكُلِّ كُلُّ بِهِ كُلُّ الْكُلِّ كُلُّ هُوَ كُلُّ الْكُلِّ كُلُّ فِي

ہر كل کا كل ہے، اسی کی طرف ہر كل کی بازگشت ہے، بطریق اس کے ہی ہر كل كل ہے، وہی ہر كل کا كل ہے

كُلُّ الْكُلِّ كُلُّ بِكُلِّ الْكُلِّ كُلُّ مِنْ كُلِّ الْكُلِّ كُلُّ عَلَى كُلِّ

ہر كل میں كل ہے، واسطے ہر كل کے كل ہے، ساتھ ہر كل کے كل ہے، ہر كل سے كل ہے، كل ہے اوپر ہر

الْكُلِّ كُلُّ حَقٌّ كُلُّ الْكُلِّ كُلُّ وَكُلُّ الْكُلِّ كُلُّ عَلَى الْكُلِّ أَسْأَلُكَ

كل کے، حق تعالیٰ ہر كل کا كل ہے اور ہر كل کا كل ہے۔ كل ہے اوپر ہر كل کے۔ میں سوال کرتا ہوں

اللَّهُمَّ بِتَقْدِيمِ كُلِّ مُقَدِّمٍ وَتَاخِيرِ كُلِّ مُؤَخَّرٍ التَّقَدُّمُ فِي الْكُلِّ

تجھ سے لے اللہ ہر مقدم کی تقدیم کے طفیل اور ہر مؤخر کی تاخیر کے طفیل سب میں تقدم کا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو عین

الْحَقِّ الْمُبِينِ وَقَلْبِ الْحَقَائِقِ يُسَيِّنُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

حق مبین ہیں اور حقائق یسینہ کا قلب و باطن ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنْ تَفْسِيرِ صِفَاتِهِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے بیان صفات سے زبانیں گنگ ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ حیران و

تَحَيَّرَتِ الْعُقُولُ وَتَاهَتْ فِي مَهَامِهِ وَحَقَائِقِ كُنْهِ ذَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سرگردان ہیں عقول و اضماع ان کے حقائق ذات کے وسیع میدانوں میں۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرَاجِ الْأَفْقِ وَالْأَفُقِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو افق الوہیت کے روشن آفتاب ہیں اور

الْأَلُوْهِيَّةِ وَمَعْدِن كُنُوْنِ اسْرَارِ الرَّبُوْبِيَّةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

اسرار ربوبیت کے خزانوں کی کان میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّ اسْتِوَاءِ الرَّحْمٰنِيَّةِ وَمَنْظَرِ

سیدنا محمد و آل محمد پر جہرا سر بہتہ میں رحمان تبارک و تعالیٰ کے استواء اور علیہ کا اور اسما اللہیہ

وَجُوْهِ اَلْاَسْمَاءِ اِلٰهِيَّةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے وجود کا منظر میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ سَبْعِيَّةِ اَلْاَسْمَاءِ النَّفْسِيَّةِ بِطَرَائِفِ

اور آل محمد پر جو مظہر ہیں سات اسماء ذاتیہ کا ساتھ انسانی صدی اور

اَلْاِنْسَانِيَّةِ الصَّدْرِيَّةِ وَالْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ يٰ اَنْزِلِ الْجُنُوْدَ وَالشُّهُوْدَ

باطنی لطافت کے اور دگویا بذات خود ارض و اسماء میں بسبب نازل کرنے لشکروں کے اور حاضر ہونے کے

وَتَتَّقِ الْجَبَلَ لِاَهْلِ الْجُحُوْدِ وَاخِذِ الْبَيْثَاقَ وَاْمُرْ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

اور اکیڑنے پہاڑ کے واسطے منکرین کے اور ان سے عمل کا عمدہ اقرار کرانے کے اور رکوع و سجدہ ام

وَنَادِ فِيْ اَحْيَاءِ الْمَرْزُوْقِيْنَ عِنْدَا بِالذَّوَامِ وَالْخُلُوْدِ وَتَجَلِّ

اور مادی کرانے کے اس کے ہاں روزی دیئے جانے والوں کے ہمیشہ ہمیشہ زندہ کرنے کے اور جلوہ گر ہونے کے

لِلذَّاكِرِيْنَ بِذِكْرِهِ حَتّٰى اَقْشَعْرَتْ مِنْهُ الْجُلُوْدُ وَاَنْتَ قَلُوْبُ

واسطے اپنے اہل ذکر کے یہاں تک رونگٹے کھڑے ہو گئے اس سے جلدوں اور بدنوں پر اور نرم و ملائم ہو گئے دل

الْجُنُوْدِ مِنَ الْمَوْفِيْنَ بِالْعُهُودِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

ان جنود و عساکر کے جو عہد خداوندی کو پورا کرنے والے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ الْجَلَالِ وَالْجَبَالِ وَفِرَاتِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو مظہر ہیں جلال و جمال کا اور آئینہ ہیں

الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَمَخْرِنِ الْمُشَاهِدَةِ وَمَوْصِلِ الْعِبَادِ

ذات و صفات حق تعالیٰ کا اور مخزن ہیں مشاہدہ کے اور پہنچانے والے ہیں بندوں کو

يَرْبِّ الْعِبَادِ بِعَدَدِ مَعْلُومَاتِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

اپنے رب تعالیٰ تک مطابق اپنے معلومات کی تعداد کے اور برکات و سلامتی اور رحمت کاملہ نازل فرمان پر

اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَدَدًا وَأَنْهَى بَرَكَاتِكَ سَرْمَدًا

اے اللہ بنا دے اپنی صلوات میں سے افضل ترین از روئے اعداء کے اور اپنی برکات میں سے بہت بڑھی ہوئی

وَأَزْكَى تَحِيَّاتِكَ فَضْلًا وَمَدَدًا عَلَى أَشْرَفِ الْخَلَائِقِ الْإِنْسَانِيَّةِ

دائمی برکات اور پاکیزہ ترین حنفی از روئے فضل اور مدد کے تمام خلائق انسانیہ اور جنیہ میں سے

وَالْجَانِّيَّةِ وَمَعْدِنِ الْحَقَائِقِ الْإِيمَانِيَّةِ وَطُورِ التَّجَلِّيَّاتِ الْإِحْسَانِيَّةِ

بزرگترین ہستی پر اور حقائق ایمانیہ کے معدن و کان پر اور تجلیات احسانہ کے طور پر

وَمَهْبِطِ الْأَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَوِاسِطَةِ عَقْدِ النَّبِيِّينَ وَمُقَدِّمَةِ

اسرار رحمانیہ کے محل نزول پر، انبیاء کرام کی لڑی کے درمیانی گوہر والی پر، مرسلین کے لشکر کے

جَيْشِ الْمُرْسَلِينَ وَأَفْضَلِ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ حَامِلِ لُؤَاءِ الْعِزِّ

پیش رو پر اور تمام مخلوقات سے افضل ترین شخصیت پر۔ بلند تر عزت کا پرچم بلند کرنے والے

الْأَعْلَى وَمَالِكِ أَرْمَةِ الشَّرَفِ الْأَسْنَى شَاهِدِ اسْرَارِ الْأَنْزَلِ وَ

پر۔ روشن شرف و فضل کی لگاموں کے مالک پر۔ اسرار ازل کے مشاہد و گواہ پر اور

مُشَاهِدِ أَنْوَارِ السَّابِقِ الْأَوَّلِ وَتَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقَدَمِ وَمَنْبَعِ

انوار سابقہ ازلیہ کے مشاہدہ کرنے والے پر، زبان قدم و ازل کے ترجمان اور علم و علم اور

الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكْمِ وَمَظْهَرِ سِرِّ الْجُودِ الْجَزْمِيِّ وَالْكَلِمِ وَأَنْسَانِ

حکمتوں کے سرچشمہ پر، جزی و کلی جود کے مظہر اسرار پر اور موجودات

عَيْنِ الْوُجُودِ الْعُلُويِّ وَالسُّفْلِيِّ وَرُوحِ جَسَدِ الْكُونِيِّينَ وَعَيْنِ حَيَاةِ

علوی اور سفلی کی آنکھ کی پتلی پر، جسد کونین کی روح اور دارین کے چشمہ

الدَّارَيْنِ الْمُتَخَلِّقِ بِأَعْلَى رُتْبَةِ الْعِبُودِيَّةِ الْمُتَحَقِّقِ بِأَسْرَارِ الرَّبُوبِيَّةِ

آبجیات پر جو عبودیت کے اعلیٰ مراتب کے ساتھ متخلق ہیں اور اسرار ربوبیت کے ساتھ موجود و متحقق ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَامِعٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو جامع ہیں تمام تر

الْأَوْصَافِ الْخَلِيلِ الْأَعْظَمِ وَالْحَبِيبِ الْأَكْرَمِ الْمَخْصُوصِ بِأَعْلَى

اوصاف کمال کے، خلیل اعظم اور حبیب اکرم ہیں جو مختص ہیں اعلیٰ مراتب

الْمَرَاتِبِ وَالْمَقَامَاتِ وَالْمُؤَيَّدِ بِأَوْصَحِ الْبَرَاهِينِ وَالذَّلَالَاتِ

و مقامات کے ساتھ اور تا ئید و تقویت یافتہ ہیں واضح ترین براہین و دلائل کے ساتھ

الْمَنْصُورِ بِالرَّعْبِ وَالْمُعْجَزَاتِ وَالْجَوْهَرِ الشَّرِيفِ الْأَبَدِيِّ وَ

جو منصور و غالب ہیں خدا اور رعب و دبدبہ اور معجزات خاص کے ساتھ اور جو ابدی شرفت قاب جو ہمہ ہیں

النُّورِ الْقَدِيمِ السَّرْمَدِيِّ مُحَمَّدِيِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَحْمُودِ فِي

اور سرمدی محمدی قابل ستائش نور قدیم ہیں یعنی سیدنا محمد جو محمود ہیں وقت

الْإِبْجَادِ وَالْوُجُودِ الْفَاتِحِ لِكُلِّ شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وَحَضْرَةِ الشَّاهِدَةِ

ایجاد و تخلیق سے اور مجم و وجود ہیں جہاں سے آغاز ہوا ہر شاہد و مشہود کا اور دیوان و بارگاہ مشاہدہ

وَالشَّهُودِ وَنُورِ كُلِّ شَيْءٍ وَهَدَاهُ وَسِرِّ كُلِّ سِرٍّ وَسَنَاهُ الَّذِي شَقَّقَتْ

و مشہود ہیں اور ہر شئی کے لیے نور ہدایت ہیں اور ہر راز سر بستہ کا راز حقیقت اور نور وہ ہمار

مِنْهُ الْأَسْرَارُ وَانْقَلَقَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

انہیں سے اسرار کے چشمے پھوٹے اور انہیں سے انوار پھیلے اور منتشر ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِكَ الْقَدِيمِ وَمِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ

محمد پر اور آل محمد پر جو تیرے مجسم نور قدیم اور صراط مستقیم ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو تیرے عبد خاص

وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَخَلِيلِكَ وَحَبِيبِكَ وَنَبِيِّكَ وَأَمِينِكَ وَ

رسول برحق اور صفی و منتخب اور خلیل و حبیب اور نبی و امین اور

دَلِيلِكَ وَنَجِيكَ وَذَخِيرَتِكَ وَخَيْرَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

تیری دلیل و برهان اور تیرے ہنگام-تیرے ذخیرہ فیوض و برکات اور تیرا انتخاب ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَدْرَكَ الْحَقَّ بِحُجَّتِهَا

فرمایا سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے یا لیا تمام تر حقائق کو اور خود

وَفَازَ وَأَفَازَ الْخَلَائِقَ بِرُمَّتِهَا وَجَعَلَتْهُ حَبِيبًا وَنَاجِيَةً قَرِيبًا وَ

کامیاب ہوئے اور تمام خلائق کو کامیابی سے ہمکنار کیا، تو نے انہیں حبیب بنایا اور قریب کر کے ہنگام کیا اور

أَدْنَيْتَهُ رَقِيبًا وَخَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ وَالذَّلَالََةَ وَالْبَشَارَةَ وَالنَّذَارَةَ

انہیں قریب کیا رہشٹی سے بطور نگہبان کے اور ختم کیا ان کے ساتھ سلسلہ رسالت و رہبری اور بشارت و انذار

وَالنُّبُوَّةَ وَنَصَرْتَهُ بِالرُّعْبِ وَظَلَلْتَهُ بِالسُّحْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور نبوت کا اور امداد و نصرت دی انہیں رعب و دیدہ کے ساتھ اور ان پر سایہ کیا بادلوں کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَصَّصْتَهُ بِالْوَسِيلَةِ

نازل فرمایا سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہیں تو نے مخصوص ٹھہرایا عظیم تر

الْعُظْمَى وَالشَّفَاعَةَ الْكُبْرَى يَوْمَ الْقَزَعِ الْأَكْبَرِ فِي الْمَحْشَرِ وَ

وسیلہ اور سب سے بزرگتر شفاعت کے ساتھ بہت بڑی گھبراہٹ اور خوف والے دن میدانِ محشر میں اور

جَمَعْتَ لَهُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَجَوَاهِرَ الْحِكْمِ وَجَعَلْتَ أُمَّتَهُ خَيْرَ

جمع کئے تو نے ان میں جوامع الکلم اور جواہر حکمت اور بنایا ان کی اُمت کو بہترین

الْأُمَّمِ وَغَفَرْتَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ الَّذِي

اُمت اور بخشتا تو نے ان کی خاطر جو گزرا ان کی اُمت کے گناہ سے اور جو باقی ہے جنہوں نے

بَلَغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَكَشَفَ

رسالت کا حق تبلیغ اور امانت کا حق ادا کیا اور اُمت کی عنخوری فرمائی اور غم و اندوہ کو

الْغُبَّةَ وَجَلَّى الظُّلْمَةَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَبَدَ رَبَّهُ

دُور کیا اور ظلمت و تاریکی کو روشنی میں بدلا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اپنے رب کی عبادت کی

حَتَّىٰ آتَاكَ الْيَقِينُ ۗ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ حَاءِ حَيَاةٍ

تا دم واپس اور آخری لمحہ تک۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری حمد کے (سرچشمہ) حیات کی

حَمْدِكَ أَنْ تُخْرِجَنِي مِنْ حَاءِ أَحَدِيَّتِكَ وَوَأَحَدِيَّتِكَ وَ

حاء کے طفیل کہ نکالے مجھے اپنی احدیت، واحدیت اور وحدانیت کی

وَحَدَائِيَّتِكَ حُرَّتًا مَنِيعًا وَحَمِيَّ عَزِيزًا وَحَصْنًا حَصِينًا تَحْفَظُ

حاء کی طرف در آنحالیکہ وہ بلند پناہ گاہ اور غلبہ والی محفوظ جگہ اور مضبوط قلعہ ہے محفوظ فرمائے

بِهَادِيَّتِي وَإِيمَانِي وَنَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي وَإِخْوَانِي وَأَوْلَادِي

بسبب اس کے میرا دین و ایمان اور جان اور اولاد اور مال اور برادران اور اولاد

وَجَمِيعِ نِعْمِكَ عِنْدِي وَمَا لَبُدَّ لِي مِنْهُ فِي طَاعَتِكَ وَقُرْبَتِكَ

اور اپنی تمام نعمتوں کو جو میرے پاس ہیں اور جن امور سے چارہ نہیں مجھے تیری اطاعت اور قربت و عبادت

وَمَجَالَسَتِكَ اللَّهُمَّ بِكَ أَسْتَفْتِحُ وَأَسْتَنْجِعُ وَبِحَمْدِكَ عَبْدًا

میں اور تیری ہمنشینی میں۔ اے اللہ تیرے ساتھ ہی فتح و کامرانی طلب کرتا ہوں اور تیرے عبد خاص

وَرَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكَ اتَّوَجَّهُ اللَّهُمَّ سَهْلٌ

اور رسول برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے اللہ آسان فرما

حَزُونَةَ أَمْرِي وَذَلِّلْ مَعُوبَتَهُ وَأَعْطِنِي مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ أَكْثَرِمَمَّا

میرے امر کی شدت کو اور مخلوب و فرمانبردار بنا اس کی صعوبت و سرکشی کو اور عطا فرما مجھے ہر طرح کی خیر سے میری امید

أَرْجُو وَأَصْرِفْ عَنِّي الشَّرَّ كُلَّهُ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

سے زائد اور پھیر دے مجھ سے ہر قسم کے شر کو جس سے میں خوفزدہ اور اندیشہ ناک ہوں اور نہیں طاقت اور نہ قوت مگر

بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۗ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ

اللہ کی توفیق سے جو بزرگتر اور دائمی عظمت والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا اور حمد و ثنا ہے

بِاللَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۗ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ وَاحِدٌ

اللہ کے لیے بیش از بیش اور پاکیزگی ہے اللہ کے لیے صبح و شام اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد

أَحَدًا صَدًّا وَحَدَاكَ لَا شَرِيكَ لَكَ كَمَا شَهِدَتْ حَمَلَةٌ عَرْشِكَ

یکتا و بے نیاز ہے تو واحد لا شریک لہ ہے جیسے کہ گواہی دی تیرے عرش عظیم کے

الْعَظِيمَةِ وَنَبِيِّكَ الْكَرِيمِ الْكَبِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَأَمِنْهُ وَ

حاملین نے اور تیرے کریم اور بزرگ ترین نبی نے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما اور عطا و

أَفْلَحُ وَأَنْجِحْ وَأَتِمِّمْ وَأَصْلِحْ وَتَرَكَ وَأَرْبِحْ وَأَوْفِ وَأَرْجِحْ

فلاح اور کامیابی عطا فرما اور تکمیل و اصلاح فرما اور پانیزگی و منفعت عطا فرما اور کامل اور وزنی بنا

أَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَأَجْزَلَ الْيَمِينِ وَالتَّحِيَّاتِ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ

افضل ترین صلوات اور عظیم تر احسان و انعام اور تحفے اپنے عبد خاص اور نبی

وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي

و رسول برحق سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کہ

هُوَ فَلَاقَ صُبْحَ أَنْوَارِ الْوَحْدَانِيَّةِ وَطَلَعَتْ شَمْسُ أَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ

و وحدانیت کے انوار کی صبح درخششاں ہیں اور اسرار ربانیہ کے آفتاب کی طلعت ہیں

وَبَهَجَةُ قَمَرِ الْحَقَائِقِ الصَّمَدَانِيَّةِ وَعَرْشِ حَضْرَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ

اور حمدانی حقائق کے ماہتاب کی رونق و بہار ہیں اور تجلیات رحمانیہ کا عرش اعظم ہیں

وَنُورِ كُلِّ رَسُولٍ وَسَنَاءِ لَيْسٍ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لِمَنْ

اور ہر رسول کا نور اور اس کی ضیاء ہیں۔ اے سید خلائق قسم ہے قرآن حکیم کی۔ بیشک تم البتہ

الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَسِرِّ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَاةُ ذَلِكَ

مرسلیں میں سے ہو، راہ راست پر ثبات قدم ہو۔ اور ہر شے کا ستر باطن اور اس کی ہدایت مبسم

تَقْدِيرِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَجَوْهَرِ كُلِّ وَرِيٍّ وَضِيَاءِ سَلَامٍ

یہ تقدیر و تعیین ہے غالب حکمت والے کی اور ہر ولی و محبوب خدا کا جو ہر حقیقت اور اس کی ضیاء ہیں یہ سلام ہے

قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کیا ہوا رب رحیم کی طرف سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر



وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هُوَعَيْنُ الْعِنَايَةِ وَنَزِيرُنُ الْقِيَامَةِ وَكَذُرُ

اور آل محمد پر جو مجسم عنایت الیہ اور قیامت کی نزیت ہدایت کا

الْهِدَايَةِ وَأَمِينُ الْمَمْلُكَةِ وَطِرَازُ الْحَلَّةِ وَكَزُّ الْحَقِيقَةِ

دافر خزانہ، ملائحہ کے امین اور خلعت (رسالت) کے نقش و نگار اور حقیقت کے خزانے

وَشَمْسُ الشَّرِيعَةِ وَكَاشِفُ الْغُمَّةِ وَدِيَارُ الْجَلْمَةِ وَنَاصِرُ

شریعت کے سرور خشاں اور خفا و پردے اور شدید تاریکیاں دور کرنے والے اور ملت کے ناصر و

الْمَلَّةِ وَشَفِيعُ الْأُمَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ تَخْشَعُ الْأَصْوَاتُ وَ

مددگار امت کے شفیع ہیں روز جزاء میں جس دن آوازیں پست ہو جائیں گی اور

تَشْخَصُ الْأَبْصَارُ اللَّهُمَّ إِنِّ حَسَنَاتِي مِنْ عَطَائِكَ وَسَيِّئَاتِي

نظریں اٹھی رہیں گی۔ اے اللہ میری نیکیاں تیری عطا سے ہیں اور میری برائیاں

مِنْ قَضَائِكَ اللَّهُمَّ جُدْ مَا أَعْطَيْتَ عَلَيَّ مَا قَضَيْتَ حَتَّىٰ

تیری قضاء قدر سے ہیں۔ اے اللہ جو دو سخا فرما اپنی عطا سے اپنی قضا پر سستی کہ

تَمُحِّدُكَ بِذَلِكَ اللَّهُمَّ لَوْلَا عَطَائِكَ لَكُنْتُ مِنَ الْهَالِكِينَ

محو فرامدے اپنی قضا کو ساتھ اپنی عطا کے۔ اے اللہ اگر تیری یہ عطا نہ ہوتی تو میں ہلاک شدگان سے ہو جاتا

وَلَوْلَا قَضَائِكَ لَكُنْتُ مِنَ الْفَائِزِينَ اللَّهُمَّ فَالْمَعْدَارَةُ إِلَيْكَ

اور اگر تیری یہ قضا نہ ہوتی تو میں کامیاب لوگوں سے ہوتا۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں معذرت کرتا ہوں اپنے

فِي مَا سَبَقَ بِهِ عِلْمُكَ وَجَرَىٰ بِهِ قَلْمُكَ وَأَنْتَ أَعَزُّ وَأَكْرَمُ وَ

ان افعال میں کہ تیرے سابق علم میں ہیں اور جاری ہوا تیرا قلم ان کے ساتھ۔ اور تو بہت عزت والا اور بزرگتر اور

أَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِنْ أَنْ تُطَاعَ إِلَّا بِإِذْنِكَ وَمِنْ أَنْ تُعْطَىٰ إِلَّا

جلیل و عظیم تر ہے اس سے کہ تیری اطاعت کی جائے مگر تیرے اذن کے ساتھ اور تیری نافرمانی کی جائے بغیر

بِعِلْمِكَ أَطَعْتُكَ بِإِذْنِكَ فَالْبَيْتَةُ لَكَ وَعَصِيْتُكَ بِعِلْمِكَ فَالْحُجَّةُ

تیرے علم کے میں نے تیری اطاعت کی تیرے اذن سے پس یہ تیرا ہی احسان ہے اور میں نے گناہ کئے تیرے علم کے باوجود تو اس میں



لَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجُودِ حُجَّتِكَ وَإِنْ قَطَاعِ حُجَّتِي

تیرے لیے حجت و دلیل ہے۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری حجت کے ثبوت و تحقق اور اپنے عذر و بہانہ کے انقطاع کے طفیل

أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ

کہ صلوٰۃ بھیجے سیدنا محمد و آل محمد پر اور مغفرت فرمائے میرے لیے اپنے پاس

عِنْدَكَ تَقَرُّبًا بِهَا عَيْنِي اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي شَقِيًّا فَأَمْحِنِي

سے ایسی مغفرت کہ ٹھنڈی ہو جائیں ساتھ اس کے میری آنکھیں۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے بد بخت لکھا ہے تو میری شقاوت کو مٹا دے

وَالْكَتَبَنِي سَعِيدًا فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ

اور مجھے سعید لکھ دے کیونکہ تو نے فرمایا ہے اور تیرا قول برحق ہے۔ اللہ مٹاتا ہے جو چاہتا ہے

وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَ

اور ثابت رکھتا ہے (جو چاہتا ہے) اور اسی کے پاس ام الكتاب ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما ہمارے آقا اور

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ النَّوْبِ الْأَبْلَجِ وَالْبَهَاءِ الْأَبْهَرِ وَنَا مُوسَىٰ

نبی محمد پر جو روشن نور اور پُر بہار ضیاء ہیں اور تورات موسیٰ علیہ السلام کے

تَوْرَةَ مُوسَىٰ وَقَامُوسَ إِنْجِيلِ عِيسَىٰ صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَىٰ

ناموس اور ماہر انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے سمندر۔ اللہ تعالیٰ کے درود

وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ۖ وَطَلَسِمِ الْفَلَكَ الْأَطْلَسِ فِي

اور سلام ہوں ان تمام پر اور فلک اطلس (نازوی آسمان) طلسم اور راز

بُطُونِ كُنْتُ كَنزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ وَطَاءُ وَسِ

مخفی ہیں اس فرمان کے بطن اور پردہ کا کہ "میں مخفی خزانہ تھا" پس مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں اور نقش طاءوس ہیں

الْمَلِكِ الْمَقْدَّسِ فِي ظُهُورِهِمْ فَخَلَقْتَ خَلْقًا فَتَعَرَّفْتُ إِلَيْهِمْ

ملک مقدس کا اس ظہور میں "پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا تو انہیں پہچان کرانے۔

فَبِي عَرَفُونِي وَقَرَّةَ عَيْنِ الْيَقِينِ وَمِرَاةَ أُولَى الْعَزْمِ مِنْ

پس میرے ساتھ ہی مخلوق نے مجھے پہچانا" اور درود بھیجے (یقین کی آنکھ کی ٹھنڈک پر اور الواعزم رسولوں

الْمُرْسَلِينَ إِلَى شُهُودِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ وَنُورِ أَنْوَارِ أَبْصَارِ

کے آئینہ شہود پر واسطے شہنشاہ برحق اور واضح و نورانی کے۔ اور انبیاء مکرمین کی بصیرتوں

بَصَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ الْمُكْرَمِينَ وَمَحَلِّ نَظَرِكَ وَسِعَةَ رَحْمَتِكَ مِنْ

کی آنکھوں کے نور انوار پر اور اپنے کرم کی نگاہ اور وسیع رحمت کے محل و مرکز پر مجملہ

الْعَوَالِمِ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى إِخْوَانِهِ

تمام اولیوں و آخروں جہازوں کے۔ صلوات نازل فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے برادر

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ

انبیاء و مرسلین پر اور آپ کی آل اور اصحابِ طیبین و

الطَّاهِرِينَ وَعَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ

طاہرین پر اور اولیاء و صالحین اور شہداء و صدیقین

وَمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى سَيِّدِنَا الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ

اور ملائکہ مقربین پر اور سیدنا شیخ محمد بن ابی محمد

سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ عَارِفٍ وَاصِلٍ قُطْبِ رَبَّانِيٍّ إِمَامٍ

سید عبد القادر جیلانی پر جو عارف واصل اور قطب ربانی بلند ہمت

هَيَّامٍ صَبَّامٍ بِحُرِّ الْعَطَايَا فَيُضُّ اللَّهُ سَيِّدًا مُؤَيَّدًا فَرِيدًا

امام اور پختہ عزم، عطاؤں کے سمندر۔ اللہ تعالیٰ کا فیض مجسم، صاحب توفیق و تائید آقا

وَجِيدًا زَاهِدًا سَاجِدًا وَاجِدًا سَيْفُ اللَّهِ حِزْبُ اللَّهِ عِزَّتِ

یکتا و یگانہ، زاہد و ساجد اور صاحب وسعت، اللہ کی تلوار، اللہ کی جماعت و لشکر اللہ تعالیٰ

اللَّهُ حَبِيبُ اللَّهِ لَيْبُ اللَّهِ فَابِقُ جُنُودِ اللَّهِ لَا تَقُ صَالِحٌ

کی عزت مجسم، اللہ کے حبیب، اللہ کے بخشے ہوئے فائق و خالص عقل والے۔ اللہ کے عمدہ لشکر صالح

مُحَصِّلٌ مُنْفَعٌ مُشَفَّعٌ كَرَامَةٌ اللَّهِ رَاشِدٌ مُرْشِدٌ تَقِيٌّ

دفانی فی اللہ، (علوم کے) حاصل کرنے والے منفعت یافتہ۔ شفاعت بخشے ہوئے، اللہ کی کرامت مجسم، راست رواد راہ نما پرین کار



نَقِيٌّ وَفِي ذِكْرِ وَلِيِّ بَيْهِي سَخِيٌّ رَضِيٌّ حَيْبٌ نَسِيْبٌ حُجَّةٌ اللهُ

پاکیزہ۔ صاحب وفا۔ مطہر و پاکیزہ۔ ولی توراتی، پسندیدہ سخی۔ عمدہ نسب والے محبوب۔ اللہ کی دلیل مجسم

سَابِقٌ مُسَبِّقٌ مُوقِنٌ عِنَايَتُ اللهُ مُصَدِّحٌ مُفْلِحٌ مُرْتَضَى

اہل سبقت اور سبقت بخشنے والے، صاحب یقین، اللہ کی عنایت مجسم، مصلح، صاحب فلاح، اپنے ہوئے

مُجْتَبَى مُخْتَارٌ حَقٌّ مُبِينٌ مَّتَيْنٌ مَلَاذٌ مَعَاذٌ عَصَمْتُ اللهُ

منتخب۔ اختیار کئے ہوئے۔ حق میں۔ مضبوط و مستحکم۔ پناہ اور تحفظ کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ کی عصمت مجسم

رَعُوفٌ رَحِيمٌ كَرِيمٌ عَلِيمٌ حَلِيمٌ سَلِيمٌ قَسِيمٌ جَسِيمٌ نَسِيمٌ

مہربان۔ رحیم۔ کریم۔ علیم۔ حلیم۔ سلامتی والے (نعمتوں کے) بانٹنے والے عظیم المرتبت۔ باوجود

عَظِيمٌ رَحْمَةُ اللهِ مَحْمُودٌ مَقْصُودٌ مَحْسُوبٌ مَعْشُوقٌ مَهْدَابٌ

صاحب عظمت، اللہ کی رحمت مجسم، محمود و مقصود، اہمیت و اہتمام والے۔ معشوق، مہذب۔

بَرَكَاتُ اللهِ وَدُودٌ مُرَادٌ مَرَجِيدٌ وَاصِفٌ حَامِدٌ حَافِظٌ مَحْفُوظٌ

اللہ کی مجسم برکت، بہت مودت و محبت والے۔ مراد۔ بزرگ، توصیف کرنے والے، حامد، حافظ، محفوظ

هَدَايَةُ اللهِ شَافِعٌ خَلِيلٌ دَلِيلٌ ذَاكِرٌ لَطِيفٌ اللهُ عَزِيْزٌ اَمِيْنٌ

اللہ کی ہدایت مجسم، شافع، خلیل، دلیل (راہ خداوند تعالیٰ) صاحب ذکر، اللہ کے مظہر لطف، عزیز۔ امین

فَصِيْحٌ سَالِكٌ نَاسِكٌ زَائِقٌ صَادِقٌ فَضْلُ اللهُ مُسْكِنٌ

فصیح سان۔ راہ رواہ خدا۔ عبادت گزار۔ خوش منظر۔ سراپا صداقت۔ اللہ کے فضل مجسم۔ مسکین

غَرِيْبٌ مَخْدُوْمٌ غَوِيْتُ غَوِيْتُ فَقِيْرٌ هَادِيٌّ وَقَايَةُ اللهُ شَرِيْفٌ

دغریب، مخدوم، باران رحمت، مددگار، فقیر اور رہنما، اللہ تعالیٰ کی حفاظت مجسم، سراپا شرافت

ظَرِيْفٌ مُؤْمِنٌ مُوقِنٌ مُنْعَمٌ مُكْرَمٌ طَيِّبٌ مُطِيْبٌ جَوَادٌ مُنْقَادٌ قَائِمٌ

تیز عقل والے مومن کامل، صاحب یقین، صاحب انعام، مکرم، طیب (روحانی) انہما خود پاکیزہ اور پاک کئے ہوئے۔ صاحب جود، تابعدار

صَائِمٌ عَابِدٌ جَلِيْلٌ حَبِيْلٌ كَامِلٌ بِاِذْنِ مَا هِيَ صَفِيٌّ رَشِيْدٌ مُنَاصِرٌ

قائم (لیل) صائم (انہما) عبادت گزار، جلیلان۔ حبیلی۔ کامل۔ صاحب قوت چنے ہوئے۔ سیدھی راہ والے۔ جانے پناہ و خلاص



جَلِيلٌ جَمِيلٌ سَعِيدٌ شَجَاعٌ لَقِيْبٌ نَجِيْبٌ خَاضِعٌ تَائِبٌ صَاحِبٌ

بزرگ، صاحب جمال، سعادت مند، شجاع، نگران، عمدہ، خضوع والے، روشن، مصاحب

وَارِثٌ حَارِثٌ وَاِرْعٌ بَارِعٌ رَاسِعٌ شَامِعٌ حَفِيٌّ ظَاهِرٌ طَاهِرٌ مُطِيْعٌ

وارث، کھیتی والے، محتاط، صاحب رفعت، علم کامل والے، بلند مقام، شفیق، ظاہر، طاہر، فرمانبردار

مَنِيْعٌ شَاهِدٌ زَاهِدٌ قَائِدٌ بَصِيْرٌ مَنِيْرٌ سِرَاجٌ تَاجٌ قَائِدٌ فَاتِحٌ عَالِمٌ

بلند مرتبت، گواہ، تارک دنیا، رہبر، صاحب بصیرت، روشن کرنے والے، چراغ، تاج، ملک والے

حَازِقٌ سُلْطَانٌ بَرْهَانٌ حَاكِمٌ مُعِيْنٌ مُبِيْنٌ مَصْبَاحٌ مَفْتَاْحٌ

ماہر، بادشاہ، برہان، حاکم، مددگار، روشن کرنے والے، نورانی چراغ (ہر شکل کی) چابی

شَاكِرٌ وَاَضِعٌ نَاصِحٌ صَافِيٌّ نُوْرَانِيٌّ مَعَارِفِيٌّ قَنْدِيْلٌ نَافِعٌ نَائِبٌ

شکر گزار، تواضع والے، مخلص، صاحب و شفاف، نورانی، سراپا صفات، کمال، چراغ، نفع دینے والے، نائب

وَصِفَةٌ وَرَقِيٌّ وَرَكِيْلٌ قَرِيْبٌ قَوْسٌ كَرَامَةٌ مَعَاذٌ مَحِيٌّ مُشَاهِدٌ

خداوند تعالیٰ صفت مجسم، بچانے والے، کار ساز، قریب، قوس، سراپا کرامت، جائے پناہ، زندہ کرنے والے (دین کے) شاہدہ

مَعَارِفِيٌّ مُقَرَّبٌ حَاكِمٌ رَاحِمَانٌ حَارِثٌ حَسِيْبٌ صَفِيٌّ

کرنے والے، سراپا قبولیت معذرت، مقرب، حاکم، آخرت کی کھیتی والے، صاحب حسب و شرف چنے ہوئے

عَارِفٌ نَرَكِيٌّ حَسَنِيٌّ حَسِيْنِيٌّ يَاسِيْدٌ مَحِيٌّ الدِّيْنِ اَمْرٌ اللّٰهِ يَاشِيْخُ

صاحب عرفان، پاکیزہ، حسنی و حسینی، لے سید محی الدین اللہ کے امر مجسم لے شیخ

مَحِيٌّ الدِّيْنِ فَضْلٌ اللّٰهِ يَا اَوْلِيَا مَحِيٌّ الدِّيْنِ اَمَانٌ اللّٰهِ يَا سَكِيْنٌ

محی الدین اللہ کے فضل مجسم، لے محی الدین اولیاء اللہ کی امان مجسم، لے مسکین

مَحِيٌّ الدِّيْنِ نُوْرٌ اللّٰهِ يَا غَوْثٌ مَحِيٌّ الدِّيْنِ قُطْبٌ اللّٰهِ يَا سُلْطَانٌ

محی الدین اللہ کے نور مجسم، لے غوث محی الدین اللہ کے قطب، لے سلطان

مَحِيٌّ الدِّيْنِ سَيْفٌ اللّٰهِ يَا خُوَاجَهٌ مَحِيٌّ الدِّيْنِ فَرْمَانٌ اللّٰهِ يَا مَخْدُوْمٌ

محی الدین اللہ کی تلوار، لے خواجہ محی الدین اللہ کے فرمان، لے مخدوم



مُحَيُّ الدِّينِ بُرْهَانَ اللَّهِ يَأْذُرُ وَيُنْشِئُ مُحَيُّ الدِّينِ آيَاتُ اللَّهِ يَا بَادِشَاهُ

محی الدین اللہ کی برہان - اے درویش محی الدین اللہ کی آیات مجھ - اے بادشاہ

مُحَيُّ الدِّينِ قُوَّةُ اللَّهِ يَا فَاقِيْرُ مُحَيُّ الدِّينِ مُشَاهِدُ اللَّهِ يَا هَيْكَلُ

محی الدین اللہ کی قوت مجھ - اے فقیر محی الدین اللہ کا مشاہدہ کرنے والے - اے صمدانی

الصَّمَدَانِي دَقْنِدِيلُ نُورَانِي وَصَاحِبُ الْإِشَارَاتِ وَالْمَعَانِي يَا شَيْخَ

ہیکل اور مجھے - نورانی شیخ اور صاحب اشارات و اسرار اور صاحب معانی و عقائد - اے جنوں

الثَّقَلَيْنِ يَا قُطْبَ رَبَّانِي يَا غَوْثَ الصَّمَدَانِي يَا مَحْبُوبَ السُّبْحَانِي

اور انسانوں کے شیخ - اے قطب ربانی - اے غوث صمدانی - اے محبوب سبحانی

مُحَيُّ الدِّينِ أَبَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِي أَعْيُنُونِي وَأَمْدُدْنِي

محی الدین ابو محمد سید عبدالقادر جیلانی میری مدد فرماؤ اور امداد کرو

فِي قَضَاءِ حَاجَتِي يَا رُوحَ الْقُدُسِ يَا جُنُودَ اللَّهِ يَا عِبَادَ اللَّهِ يَا غَوْثَ

میری حاجات کے پورا ہونے میں - اے روح مقدس - اے اللہ کے جنود و عساکر - اے اللہ کے عباد - اے غوث

الثَّقَلَيْنِ أَنْتَ قُلْتَ اسْمِي كَالْإِسْمِ الْأَعْظَمِ فَإِنِّي تَوَسَّلْتُ

اثقلین - تم نے فرمایا کہ میرا نام اسم اعظم کی مانند ہے تو میں نے وسیلہ پچھا ہے

بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ فَنَجَّيْنِي وَأَقْضِ حَاجَتِي بِقُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

آپ کے اسم اعظم کے ساتھ - پس مجھے نجات دیجئے اور میری حاجت روائی فرمائیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے

أَمِينٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَأَتَّخِفُ وَأَنْعَمُ وَأَمِنُ وَ

ساتھ آمین - اے اللہ صلوات و سلام اور تحفہ و انعام اور عطیہ اور

أَكْرَمُ وَأَجْزَلُ وَأَعْظَمُ أَفْضَلُ صَلَوَاتِكَ وَأَوْفَى سَلَامِكَ

عزت افزائی اور جلیل و عظیم صلوات نازل فرما جو تیری تمام صلوات سے افضل ترین اور سلاموں سے

صَلَاةٌ وَسَّلَامًا يَنْزِلَانِ مِنْ أُمَّتِكَ كُنْهَ بَاطِنِ الدَّائِرَاتِ إِلَى

کامل ترین صلوات و سلام ہو جو نازل ہوں تیری ذات کی حقیقت باطنہ کے اقیق سے

فَلِكِ سَمَاءٍ ظَاهِرِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَيَرْتَقِيَانِ عِنْدَ سِدْرَةِ

آسمان اسماء و صفات کے منظر ظاہر کی طرف اور بلند ہونے والے ہوں عارفوں کے

مُنْتَهَى الْعَارِفِينَ إِلَى مَرْكَزِ حَلَالِ النُّورِ الْمُبِينِ عَلَى سَيِّدِنَا

سدرۃ المنتہی کے پاس نور مبین کے مرکز حلال کی طرف سیدنا و مولانا

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ عَلِيمِ يَقِينِ الْعُلَمَاءِ

محمد پر جو تیرے عبد خاص اور رسول برحق ہیں۔ علماء ربانیین کے علم یقین

الرَّبَّانِيِّينَ وَعَيْنِ يَقِينِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَحَقِّ يَقِينِ

ہیں اور خلفاء راشدین کا عین یقین اور انبیاء مکرمین کا

الْأَنْبِيَاءِ الْمَكْرَمِينَ الَّذِي تَاهَتْ فِي أَنْوَارِ جَلَالِهِ أُولُو الْعِزْمِ

حق یقین ہیں جن کے انوار جلال میں اولو العزم رسول سرگردان

مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَحَيَّرَتْ فِي دَرْكٍ حَقَائِقِهِ عُظَمَاءُ الْمَلَائِكَةِ

ہیں اور جن کے حقائق کے ادراک میں نگران و محافظ عظیم ترین ملائکہ حیران

الْمُهَيَّبِينَ الْمُنْزَلِ عَلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ

ہیں جن پر قرآن عظیم میں نازل کیا گیا عربی واضح زبان و

مُبِينٍ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ

بیان میں البتہ اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر جبکہ ان میں بھیجا عظیم رسول

أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

انہیں میں سے جو تلاوت کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات اور انہیں پاک کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں کتاب

وَأَنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

حکمت کی اگرچہ اس سے قبل وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

صَلْوَةً ذَاتِكَ عَلَى حَضْرَةِ صِفَاتِكَ الْجَامِعِ لِكُلِّ الْكَمَالِ

اپنی ذات والی صلوات اپنے منظر صفات پر جو ہر کمال کے جامع ہیں

الْمُتَّصِفِ بِصِفَاتِ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ مَنْ تَنَزَّهَ عَنِ الْمَخْلُوقِينَ

اور تمام صفات جلال و جمال کے ساتھ موصوف و متصف ہیں، جو کہ منزہ و پاکیزہ ہے مخلوقات کی

فِي الْإِثْتَالِ وَيَتَّبِعُ الْمَعَارِفَ الرَّبَّانِيَّةَ وَحَيْطَةَ الْأَسْرَارِ الْإِلَهِيَّةِ

مماثلت سے۔ معارف ربانیہ کے سرچشمہ اور اسرار الہیہ کے محیط دائرہ

غَايَةَ مُنْتَهَى السَّائِلِينَ وَدَلِيلَ كُلِّ حَائِرٍ مِّنَ السَّالِكِينَ مُحَمَّدٍ

سائلین کی غایت و منتہی اور ہر متحیر ساک کی دلیل محمدؐ پر جو

الْمَحْمُودِ بِأَلَا وَصَافِ وَالذَّاتِ وَأَحْمَدٍ مِّنْ مَّقْضَى وَمَنْ هُوَ

محمودہ ذات اور صفات والے ہیں اور بہت حمد و ثناء کئے ہوئے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کے اور

أَيُّ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا بِدَايَةِ الْأَزَلِ وَغَايَةِ الْأَبَدِ حَتَّى لَا يَحْصُرَهُ

آنے والوں کے اور سلام نازل فرما جو سلام محیط ہوازل کی ابد اور ابد کی انتہاء پر یہاں تک کہ نہ احاطہ کر سکے

عَدَدٌ وَلَا يَنْتَهِيهِ أَمَدٌ وَأَرْضٌ عَنْ تَوَابِعِهِ فِي الشَّرِيعَةِ وَ

اس کا کوئی عدد اور نہ انتہاء بن سکے اس کی کوئی غایت اور راضی ہو ان کی اتباع کرنے والوں سے شریعت و

الطَّرِيقَةِ وَالْحَقِيقَةِ مِنَ الْأَصْحَابِ وَالْعُلَمَاءِ وَأَهْلِ الطَّرِيقَةِ

طریقت اور حقیقت میں یعنی صحابہ کرام اور علماء اور اہل طریقت سے

وَأَجْعَلُنَا يَا مَوْلَانَا مِنْهُمْ حَقِيقَةً أَمِينًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور بنا ہمیں اے ہمارے مولیٰ انہیں سے از روئے حقیقت کے امین۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَتُفْتَحَ أَبْوَابُ حَضْرَتِكَ

فرما سیدنا محمدؐ پر اور آل سیدنا محمدؐ پر جو تیری بارگاہ کے کھلے دروازے ہیں

وَعَيْنِ عِنَايَتِكَ بِخَلْقِكَ وَمَرَسُوكَ إِلَى جَنَّتِكَ وَإِنْسِكَ وَ

اور مخلوق پر تیری عین عنایت اور جنوں اور انسانوں کی طرف تیرے رسول ہیں

وَحُدَانِي الذَّاتِ الْمُنْزَلِ عَلَيْهِ الْآيَاتُ الْوَاضِحَاتُ وَمَقِيلِ

جو ذات میں یکتا و یگانہ ہیں، جن پر واضح آیات نازل کی گئی ہیں اور لغزشوں سے درگزر

الْعَثْرَاتِ وَسَيِّدِ السَّادَاتِ مَا حَى الشَّرِكِ وَالصَّلَاةِ

کرنے والے۔ سادات کے سردار اور آقا، شرک اور گمراہیوں کو مٹانے والے ہیں

بِالسُّيُوفِ الصَّابِرَاتِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنِ

تیز دھار تلواروں کے ساتھ۔ نیکی کا حکم دینے والے اور براہیوں سے

الْمُنْكَرَاتِ وَالشَّامِلِ مِنْ شَرَابِ الْمَشَاهِدَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

منع کرنے والے ہیں۔ مشاہدات ذات کے شراب سے مدہوش سیدنا محمد

خَيْرِ الْبَرِيَّاتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو تمام مخلوقات سے بہتر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مَنْ لَّهُ الْأَخْلَاقُ الرَّضِيَّةُ وَالْأَوْصَافُ الْمَرْضِيَّةُ وَالْأَقْوَالُ

اس ذات پر جو محبوب اخلاق، پسندیدہ اوصاف، شرعی

الشَّرْعِيَّةُ وَالْأَحْوَالُ الْحَقِيقِيَّةُ وَالْعَنَايَاتُ الْأَزَلِيَّةُ وَالسَّعَادَاتُ

اقوال حقیقت والے احوال۔ ازلی عنایات اور ابدی سعادات

الْأَبْدِيَّةُ وَالْفُتُوحَاتُ الْمَكِّيَّةُ وَالظُّهُورَاتُ الْمَدَنِيَّةُ وَالْكَمَالَاتُ

مکی فتوحات۔ مدنی ظہورات و غلبات۔ کمالات الہیہ

الْإِلَهِيَّةُ وَالْمَعَالِمُ الرَّبَّانِيَّةُ وَسِرُّ الْبَرِيَّةِ وَشَفِيعَنَا يَوْمَ بَعَثْنَا

والے ربانی معالم و امتیازات والے اور ساری مخلوق کے روح رواں اور ہمارے شفیع ہیں بعثت کے دن

الْمُسْتَغْفِرُ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا الدَّاعِي إِلَيْكَ وَالْمُقْتَدِي بِهِ لِمَنْ أَرَادَ

استغفار فرمانے والے ہیں ہمارے لیے رب تعالیٰ کے ہاں تیری طرف دعوت دینے والے ہیں اور مقتدا ہیں ہر اس شخص کے جو ارادہ

الْوُصُولَ إِلَيْكَ الْأَنِيسُ بِكَ وَالْمُسْتَوْحِشُ مِنْ غَيْرِكَ حَتَّى

کرتے تیری طرف رسائی کا۔ انس حاصل کرنے والے ہیں تجھ سے اور غیر مانوس ہیں تیرے اغیار سے حتیٰ کہ

تَمْتَعُ مِنْ نُورِ ذَاتِكَ وَرَجَعَ بِكَ لِابْغِيرِكَ وَشَهِدَا وَحَدَاتِكَ

نفع اندوز ہوئے تیرے نور ذات سے اور لوٹے ساتھ تیرے نہ کر تیرے غیر کے ساتھ اور شاہدہ کیا تیری وحدت کا

فِي كَثْرَتِكَ وَقُلْتَ لَهُ بِلِسَانِ حَالِكَ وَقَوَّيْتَهُ بِكَلَامِكَ وَ

کثرت میں اور فرمایا تو نے انہیں ساتھ اپنی زبان حال کے اور قوت بخشی انہیں ساتھ اپنے کلام اور

بِكَمَالِكَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ الذَّاكِرُ

کمال کے۔ پس پوری قوت صرف کرو اس میں جس کا حکم دیا گیا نہیں اور مشرکین سے منہ موڑ لو، جو تیرا ذکر

لَكَ فِي لَيْلِكَ وَالصَّاعِمُ لَكَ فِي نَهَارِكَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ

کرنے والے ہیں رات (کی تنہائیوں) میں اور روزہ رکھنے والے ہیں تیرے لیے دن میں۔ جو معروف ہیں ملائکہ کے

مَلَائِكَتِكَ أَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ہاں تیری مخلوق سے بہتر و برتر ہونے کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدًا جَمَالَ لُطْفِكَ وَحَنَانَ عَطْفِكَ وَجَلَالَ مُلْكِكَ

و نبینا محمد پر جو تیرے سراسر جمال لطف و کرم اور سراسر انعامات اور جلال ملک

وَكَمَالَ قُدْسِكَ التَّوْبَةُ الْمَطْلُوقُ بِسِرِّ الْمَعِيَةِ الَّتِي لَا يَتَّقِيْدُ

اور کمال مقدس ہیں، توبہ مطلق ہیں ساتھ اس معیت کے سر باطن کے جو مقید نہیں ہے

فِي الْبَاطِنِ مَعْنَى فِي غَيْبِكَ الظَّاهِرُ حَقَّاقِي شَهَادَتِكَ وَشَمْسِ

باطن میں از روئے معنی کے تیرے غیب میں اور ظاہر میں از روئے حقانیت کے تیری شہادت میں اور آفتاب

الْأَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ وَمَجْلَى حَضْرَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَمَنَازِلِ

ہیں اسرار ربانیہ کے اور مجلی گاہ ہیں تجلیات بارگاہ رحمانیہ کے اور محل نزول ہیں پائیدار

الْكِتَابِ الْقَيْمَةِ وَنُورِ الْآيَاتِ الْبَيِّنَةِ الَّذِي خَلَقْتَهُ مِنْ نُورِ ذَاتِكَ

سماوی کتابوں کے اور نور ہیں آیات بینہ کا جنہیں تو نے اپنے نور ذات سے پیدا کیا

وَحَقَّقْتَهُ بِأَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ وَخَلَقْتَ مِنْ نُورِهِ الْأَنْبِيَاءَ

اور موجود و متصف فرمایا اپنے اسماء و صفات کے ساتھ اور پیدا کیا ان کے نور سے انبیاء

وَالْمُرْسَلِينَ وَتَعَرَّفْتَ إِلَيْهِمْ بِأَخْذِ الْبَيْتِاقِ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِكَ

و مرسلین کو اور پہچان کرائی تو نے انہیں آپ کی ان سے عہد و پیمانے کے ساتھ اپنے اس برحق

الْحَقِّ الْمُبِينِ ۝ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ

واضح فرمان کے - اور یاد کر لے محبوب اس وقت کو جب عہد لیا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے جب میں دوں تمہیں

كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ

کتاب و حکمت پھر آئے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہے ان تمام امور کی جو تمہارے ساتھ ہیں تو ضرور ایمان لاؤ گے

بِهِ وَلِتُنصِرُنَّهُ ۝ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذٰلِكُمْ اٰصْرِي ۝

ان کے ساتھ اور ضرور مدد کرو گے ان کی۔ فرمایا اللہ نے کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرے بوجھ کو اٹھایا۔

قَالُوا اَقْرَرْنَا قَالٍ فَاَشْهَدُوا وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا پس تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں سے ہوں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى بَهْجَةِ الْكَمَالِ وَتَلَجِ الْجَلَالِ وَبِهَاءِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما کمال کی رونق و بہار۔ جلال کے تاج، جمال کے

الْجَمَالِ وَشَمْسِ الْوِصَالِ وَعَقَبَةِ الْوُجُوْدِ وَحَيَاتِ كُلِّ مَوْجُوْدٍ

نور و ضیاء وصال خداوندی کے آفتاب۔ وجود کی بلند گھاٹی۔ ہر موجود کی حیات مجسم

وَعِزِّ جَلَالِ سُلْطَنَتِكَ وَجَلَالِ عِزِّ مَمْلَكَتِكَ وَمَلِيْكَ صُنْعِ قُدْرَتِكَ

اور تیرے جلال سلطنت کی عزت اور تیری مملکت کے جلال عزت اور تیری قدرت کی صنعت کے بادشاہ

وَطَرَارِ صَفْوَةِ الصَّفْوَةِ مِنْ اَهْلِ صَفْوَتِكَ وَخَلَاصَةِ الْخَلَاصَةِ

اور خاص ان خاص اہل اخلاص کی زینت و آلائش اور اہل قربت خواص کے

مِنْ اَهْلِ قُرْبِكَ وَسِرِّ اللّٰهِ الْاَعْظَمِ وَحَبِيْبِ اللّٰهِ الْاَكْرَمِ وَ

خلاصہ۔ اللہ کے عظیم ترین راز۔ اللہ کے حبیب اکرم اور

خَلِيْلِ اللّٰهِ الْمَعْظَمِ الْمُبَكَّرِمِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ

اللہ کے معظم و مہم خلیل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى الْجَامِعِ الْاَكْمَلِ وَالْقُطْبِ

علیہ و سلم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام فرما جامع اکمل اور قطب افضل

الرَّبَّانِي الْأَفْضَلِ طِرَازِ حُلَّةِ الْإِيْمَانِ وَمَعْدَنِ الْجُودِ وَالْإِحْسَانِ

ربانی پر جو خلعت ایمانی کا نقش و نگار اور جود و احسان کی معدن و مکان ہے

صَاحِبِ الْهِمَمِ السَّمَاوِيَّةِ وَالْعُلُومِ الدِّبْيَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

آسمانی ہمتوں اور بلند عزائم کے مالک اور علوم لدنیہ والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَيَّ مَنْ خَلَقْتَ الْوُجُودَ لِأَجْلِهِ وَرَخَّصْتَ الْأَشْيَاءَ بِسَبَبِهِ

سلام نازل فرما ان پر جن کے لیے تو نے وجود کو پیدا کیا اور مباح و مرنحس فرمایا اشیاء کو ان کے سبب

مُحَمَّدٍ الْمَحْمُودِ صَاحِبِ الْمَكَارِمِ وَالْجُودِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَ

یعنی محمد پر جو بزرگیوں اور جود و نوال کے مالک ہیں اور آپ کی آل اور

أَصْحَابِهِ الْأَقْطَابِ السَّابِقِينَ إِلَىٰ جَنَابِ ذَلِكَ الْجَنَابِ

اصحاب پر جو اقطاب (زمان) ہیں اور اس بارگاہ والاکل طرف سبقت لے جانے والے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّوْمِ الْبَهِيِّ وَالْبَيَانِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو روشن نور اور واضح و علی بیان

الْجَلِيِّ وَاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ وَالذِّينِ الْحَنَفِيِّ رَحْمَةً لِلْعُلَمَاءِ

مجسم اور سان عربی اور دین حنیف۔ سراپا رحمت عالمیان ہیں

الْمُؤَيَّدِ بِالرُّوحِ الْأَمِينِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ

جن کو تائید و تقویت دی گئی ہے روح امین اور کتاب مبین کے ساتھ اور آخر الزمان نبی

وَرَحْمَةً لِلْعُلَمَاءِ وَالْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اور تمام خلائق اور تمام جانوں کے لیے اللہ کی رحمت مجسم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَيَّ مَنْ خَلَقْتَهُ مِنْ نُورِكَ وَجَعَلْتَهُ كَلِمَةً مِنْ

سلام نازل فرما ان پر جنہیں تو نے اپنے مخصوص نور سے پیدا فرمایا اور ان کے کلام کو اپنے

كَلِمَتِكَ وَفَضَّلْتَهُ عَلَىٰ أُنْبِيَائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ وَجَعَلْتَهُ

کلام سے بنایا اور انہیں اپنے تمام انبیاء اور اولیاء پر فضیلت دی اور کیا تو نے

السَّعَايَةِ مِنْكَ إِلَيْهِ وَمِنْهُ إِلَيْهِمْ وَكَيْمَالِ كُلِّ وَرِيٍّ لَكَ وَ

اپنی طرف سے سعی اور عمل کو ان کے لیے اور ان سے خلاق کی طرف اور ان پر جو مجسم کمال ہیں تیرے ہر ولی کا اور

هَادِي كُلِّ مُضِلٍّ عَنْكَ وَهَادِي الْخَلْقِ إِلَى الْحَقِّ وَتَابِرُكُ

ہادی ہیں تجھ سے بھٹکے ہوئے ہر شخص کے اور ہادی ہیں تمام مخلوق کے طرف تیری اور ترک کرنے والے

الْأَشْيَاءِ لِأَجْلِكَ وَمَعْدِنِ الْخَيْرَاتِ بِفَضْلِكَ وَخَاطِبَتَهُ

اشیاء کے تیری خاطر اور خیرات کے سرچشمہ ہیں تیرے فضل سے اور تو نے انہیں خطاب فرمایا

عَلَى بَسَاطِ قُرْبِكَ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا أَتَقَابِعُ لَكَ

اپنے بساط قرب پر اور تھا اللہ کا فضل آپ پر اعلاہ خلاق سے ماوراء، جو قیام کرنے والے ہیں تیرے لیے

فِي لَيْلِكَ وَالصَّائِعِمْ لَكَ فِي نَهَارِكَ وَالْهَامِّ بِكَ فِي جَلَالِكَ

راتوں میں اور روزے رکھنے والے ہیں دنوں میں اور عزم و ہمت رکھتے ہیں ساتھ تیرے تیرے جلال میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ الْخَلِيفَةِ فِي خَلِيفَتِكَ الْمُسْتَعْلِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما اپنے نبی مکرم پر جو تیرے نائب مطلق ہیں تیری تمام مخلوق میں، مشغول ہیں

بِذِكْرِكَ الْمُتَفَكِّرِ فِي خَلْقِكَ وَالْأَمِينِ لِسِرِّكَ وَالْبُرْهَانَ

تیرے ذکر کے ساتھ تفکر کرنے والے ہیں تیری مخلوقات میں اور امین ہیں تیرے اسرار کے اور برہان و دلیل قطعی

لِرُسُلِكَ الْحَاضِرِ فِي سَرَائِرِ قُدْسِكَ وَالْمُشَاهِدِ لِحَمَالِ

ہیں تیرے رسولوں کے لیے، حاضر ہوئے والے ہیں تیری بارگاہ قدس کے بوطن میں اور مشاہدہ کرنے والے ہیں

جَلَالِكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْمَفْسِّرِ لِآيَاتِكَ وَالظَّاهِرِ

تیرے جلال کے جمال کا یعنی سیدنا و مولانا محمد پر جو تفسیر کرنے والے ہیں تیری آیات کی اور ظاہر و نمایاں

فِي مُلْكِكَ وَالْغَائِبِ فِي مَلَكُوتِكَ وَالْمُتَخَلِّقِ بِصِفَاتِكَ

ہیں تیرے ملک ظاہر میں اور غائب و مخفی ہیں تیرے ملک روحانی و نورانی میں اور منصف ہیں تیری صفات کے

وَالدَّاعِي إِلَى جَبْرُوتِ الْحَضْرَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَالْبُرْدَةِ الْجَلَالِيَّةِ

ساتھ اور بلانے والے ہیں بارگاہ رحمانیہ کے جبروت و تنزیہ کی طرف اور جلالی چادر پر

وَالسَّرَائِلَ الْجَمَالِيَّةَ وَالْعَرْشَ السَّقِيَّ وَالْحَبِيبَ النَّبِيَّ وَالنُّورَ

اور جمالی کرنے پر اور زمرہ دار بارشس والے عرش پر اور حبیب نبی اور روشن نور

الْبِهْمِيِّ وَالذُّبُرَ النَّقِيَّ وَالْبُصْبَاحَ الْقَوِيَّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ

پاکیزہ موتی اور گوہر اور مضبوط چیراغ نور پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى

ان پر اور ان کی آل و اصحاب پر جیسے کہ رحمت نازل کی حضرت ابراہیم اور آل

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ابراہیم پر بے شک تو لائق ستائش بزرگی والا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ بِحِرِّ أَنْوَارِكَ وَمَعْدَنِ أَسْرَارِكَ

ہمارے آقا اور نبی محمد پر جو تیرے انوار کے سمندر اور تیرے اسرار کی معدن و کان

وَسُرُوحِ أَرْوَاحِ عِبَادِكَ وَالذُّرَّةَ الْفَاخِرَةَ وَالرَّحْمَةَ

تیرے بندوں کی روحوں کی روح روال۔ قابلِ فخر موتی و جوہر اور اولین

السَّابِقَةَ وَالْعَبَقَةَ النَّافِحَةَ وَبُؤْبُوعِ الْمَوْجُودَاتِ

رحمت خداوندی ممکنے والی خوشبو اور موجودات کے بطن اور حقیقت

وَحَاءِ الرَّحِمَاتِ وَجِيمِ الدَّرَجَاتِ وَسَيْنِ السَّعَادَاتِ

رحمتوں کی حواء اور درجات کی جیم، سعادت کی سین

وَتُونِ الْعِنَايَاتِ وَكِمَالِ الْكَلِّيَّاتِ وَمَنْشَأِ الْأَزَلِيَّاتِ

اور عنایات کے تون، کلیات کے کمال اور ازلی امور کے منشاء و مبداء

وَحَتْمِ الْأَبْدِيَّاتِ الْمَشْغُولِ بِكَ عَنِ الدُّنْيَوِيَّاتِ الطَّاعِمِ

ابدی اشیاء کی اتمام، مشغول و مستغرق ہونے والے تیری ذات میں دنیوی امور سے منہ موڑتے ہوئے، کھانے والے

ثَمَرَاتِ الْمَشَاهِدَاتِ الْمُسْقِيَّ مِنْ أَسْرَاتِ الْقُدْسِيَّاتِ

مشاہدات کے ثمرات کو اور سیراب کئے جانے والے ہیں مقدس خانوادوں کے شیرے

العالم بالماضی والمستقبلات سیدنا ومولانا محمد وعلیؑ

جاننے والے ہیں ماضی اور مستقبل کے امور کو یعنی سیدنا و مولانا محمد پر اور آپ کی اہلی

الأخيار وأصحابه الأبرار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد

کردار آل اور حسن و نیکوکار اصحاب پر۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

الذي أعطيتك وفضلتک وكرمته ونصرتک وأعدتک وقربتک

جنہیں تو نے عطا کیا (یے حساب) اور فضیلت و کرامت دی اور نصرت و اعانت فرمائی اور مقرب فرمایا

وأدنیته وسقيته ومكنته وملأته بعلمك الأنفس وبسطته

اور نزویجی بخشتی اور انہیں پلایا (اپنے شربت دیدار سے) اور عزیز و تمکین بخشی اور اپنے نفیس ترین علم سے غور فرمایا اور انہیں

بجبتك الأطوس ونزيتك بقولك الأقبس فخر الأفلاك و

وسعت بخشی اپنی آراستہ محبت کے ساتھ اور مزین فرمایا اپنے نورانی قول کے ساتھ۔ جو فخر افلاک ہیں اور

عذب خلق الأخلاق ونورك البين وعبدك القديم و

شیریں خلق والے ہیں جملہ اخلاق سے اور تیرے نور بین، اور عبد قدیم و اقلین ہیں اور

حبلك المتين وحصنك الحصين وجلالك الحكيم وجمالک

تیری ذات تک پہنچانے والا مضبوط وسیلہ اور تیرے (عطا کردہ) مضبوط قلعہ اور تیرے حکمت والے جلال اور

الكریم سیدنا ومولانا محمد وعلیؑ

تیرے بزرگتر جمال ہیں۔ سیدنا و مولانا محمد۔ صلوات ہو اللہ تعالیٰ کی ان پر اور سلام اور ان کی آل اور

أصحابه مصابيح الهدى وقناديل الوجود وأهل الشهود وكمال

اصحاب پر جو ہدایت کے روشن چراغ اور وجود کی قندیلیں اور شمعیں ہیں اور ارباب شہود اور کمال

السعود المطهرين من العيوب اللهم حققنا بسر آبرهم في

سعادتوں والے جو عیوب سے پاک اور منزہ ہیں۔ لے اللہ ہمیں موجود و محقق فرما بظیفیل ان کے اسرار باطنہ

مدارج معارفهم بمثوبة الذين سبقت لهم منك

کے ان کے معارف کے مدارج میں بسبب ثواب و جزاء ان لوگوں کے جن کے لیے تیری طرف سے نیکی اور خوبتر جزاء

الْحُسْنَىٰ وَإِلَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَوْزِ بِالسَّعَادَةِ

سبقت لے جا چکی اور آل محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اور موجود فرما ہیں ساتھ سعادت کبریٰ کی

الْكُبْرَىٰ بِمَوَدَّتِهِ الْقُرْبَىٰ وَأَعْمَانِي فِي عِزَّةِ الْمَصْمُودِ فِي مَقَامِهِ

کامیابی کے بطفیل ان کے اقرباء کی مودت و محبت کے اور ہمیں پیراں بنا ان مروج الملائق عزت کے (مسند میں ان کے

الْمَحْمُودِ وَتَحْتَ لَوَائِحِهِ الْمَعْقُودِ وَأَسْقِنَا مِنْ حَوْضِ عِرْفَانَ

مقام محمود میں اور ان کے لہراتے پرچم حمد کے نیچے اور پلا ہمیں ان کے عرفان و معرفت کے

مَعْرِفَتِهِ الْمَوْرُودِ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

حوض سے جس پر سب اُمت وارد ہونے والی ہے۔ جس دن نہیں شرمندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ و

سَلَّمَ بِبُرُودِهَا إِشَارَةَ قُلِّ تُسْمَعُ وَوَسَلُّ تُعْطَىٰ وَأَشْفَعُ تُشْفَعُ

سلم کو سبب ظاہر ہونے تیرے اس فرمان کے۔ تم کہو سنا جائے گا قول تمہارا۔ مانگو دے جاؤ گے اور شفاعت کرو قبول کئے جاؤ گے

بِظُهُورِهَا بِشَارَةَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا

سبب ظاہر ہونے اس بشارت کے اور ضرور دے گا تمہیں تمہارا رب پس تم راضی ہو جاؤ گے۔ بابرکت ہے تو ہے ہمارے

وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ طَسْأَلُكَ أَنْ تُلْحِقَنَا بِهِمْ وَ

رب اور بلند شان ہے تو ہے جلال و اکرام والے۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں ان سے لاحق فرما اور

تَمْنَحْنَا بِحُبِّهِمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ

ہیں عطیہ دے ان کی محبت کا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل

تَدْرُبُهَا أَرْزَاقَنَا وَتُوسِّعُ بِهَا أَشْوَاقَنَا وَتُرْزُقُنِي بِهَا عَمَلَنَا وَ

تو جاری رکھے ہماری روزیوں کو اور وسیع فرمائے بطفیل اس کے ہمارے شوق کو اور پاکیزہ فرمائے ہمارے اعمال کو اور

تَغْفِرْ بِهَا ذُنُوبَنَا وَتَنْزِرْ بِهَا خَوَاطِرَنَا وَأَفْكَارَنَا اللَّهُمَّ اعْطِنَا

بخش دے ہمارے گناہوں کو اور منزہ فرمائے ہمارے خیالات اور افکار کو۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما

وَهَبْ لَنَا مَعْرِفَةَ نَافِعَةٍ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور بخش نفع دینے والی معرفت۔ بیشک تو ہر چیز پر کامل دسترس والا ہے۔ اے اللہ صلوات



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْجَامِعِ بِحَقِيقَتِهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو اپنی حقیقت کے ساتھ جامع ہیں

لِجَمِيعِ الْحَقَائِقِ وَبِرُوحِهِ لِجَمِيعِ الْاَسْرَاحِ وَبِشَرِيعَتِهِ لِجَمِيعِ

تمام حقائق کے اور اپنے روح کے ذریعے تمام ارواح کے اور اپنی شریعت کے ساتھ تمام

الشَّرَائِعِ وَبِنُبُوَّتِهِ لِجَمِيعِ النَّبُوَّاتِ وَبِوَلَايَتِهِ لِجَمِيعِ الْوَلَايَاتِ

شریعتوں کے اور اپنی نبوت کے ساتھ تمام نبوتوں کے اور اپنی ولایت کے ساتھ تمام ولایات کے

وَبِقَلْبِهِ لِجَمِيعِ الْقُلُوبِ اَشْرَفَ الْخَلَائِقِ وَشَمْسِ الطَّرَائِقِ وَنُورِ

اور اپنے قلب کے ساتھ تمام قلوب کے، جو سب مخلوقات سے شریف ترین اور آفتاب ہیں تمام طریقوں کے اور ایسے نور

يَهْتَدٰى بِهٖ اِلَى الْحَقِّ وَظِلِّ لَا وَاِسْطَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّوْرِ

ہیں کہ ان کے ساتھ ہدایت حاصل کی جاتی ہے طرف حق کے اور ایسے سایہ ہیں کہ نہیں واسطہ درمیان ان کے اور نور

الْمُطْلَقِ ط اَصْلِ الْاَصُوْلِ الْمُنْزَهَةِ عَنِ الْاِتِّحَادِ وَالْحُلُوْلِ الظَّاهِرِ

مطلق کے، جو تمام اصولوں کی اصل ہیں اور منزہ ہیں درمروں کے ساتھ اتحاد اور ان میں حلول سے ظاہر و نمایاں ہیں

بِنُورِهِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَيْنِ ط الْبَاطِنِ بِكُنْهِهِ عَنِ ادْرَاكِ

اپنے نور کے ساتھ آسمانوں اور زمینوں میں۔ جو باطن و مخفی ہیں اپنی کُنہ و حقیقت کی رو سے

الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ السَّيِّدِ الَّذِي بِحَقِيقَتِهِ وَاِسْطَةُ الْوُجُوْدِ

اولین و آخرین کے ادراک سے۔ جو ایسے آقا و سرور ہیں کہ اپنی حقیقت کے ذریعے واسطہ ہیں وجود

وَالشُّهُودِ بَيْنَ الذَّاتِ وَسَائِرِ الْحَقَائِقِ وَبِصُوْرَتِهِ الْمَطْهَرِيَّةِ

اور شہود میں ذات حق اور تمام حقائق کے درمیان اور اپنی صورت ظاہرہ کے ذریعے

غَايَةً تُوَجَّهُ الْخَالِقُ وَعِنَايَتُهُ اِلَى الْخَلَائِقِ الْمَحْمُوْدِ فِي الْمَلَكُوْتِ

خالق کی غایت توجہ اور عنایت ہیں مخلوقات کی طرف۔ جو حمد کئے ہوئے ہیں عالم روحانیت و غیب اور

وَالنَّاسُوْتِ وَالْمَشْهُودِ فِي الْجَبْرُوْتِ وَاللَّاهُوْتِ الْمُبِيْنِ

عالم اجسام میں اور مشاہدہ کئے ہوئے ہیں صفات سلبیہ اور جلالیہ اور روحانیت و تجرد میں۔ ایسے ظاہر کہ



الَّذِي هُوَ بَدْرٌ يَبَازِي التَّعِينَاتِ وَشَمْسُ كُرَاتِ التَّنَزُّلَاتِ

جو چودھویں کے چاند ہیں تعینات و نشخفات کی تاریکیوں کے لیے اور تنزلات و تقیدات کے کرہ جات کے لیے

الْكَامِلِ الَّذِي كَمَلَتْ بِهِ الْإِنْسَانِيَّةُ وَالظَّاهِرِ الَّذِي ظَهَرَتْ

مہر مہرور ہیں ایسے کامل کہ ان سے انسانیت کمال پذیر ہے اور ایسے ظاہر کہ ان کے ذریعے صفت رحمت

بِهِ الرَّحْمَانِيَّةُ لَوْلَا نَزْوُلُهُ لَمَا تَعَدَّدَ الْوَاحِدُ وَلَا عُرُوجُهُ لَمَا

کا ظہور ہے، اگر ان کا نزول نہ ہوتا تو وحدت تعدد اور کثرت میں نہ ٹھلکتی اور اگر ان کا عروج نہ ہوتا تو کثرت

أَحَدِ الْمَتَعَدَّدِ الْوَاحِدِ حَقِيقَتُهُ وَالْمَتَعَدَّدِ صُورَتُهُ أَدَمُ وَمَنْ بَعْدَهُ

وحدت میں نہ بدلتی۔ واحد و یکتا ہے حقیقت ان کی اور متعدد و کثیر ہیں صورتیں ان کی، حضرت آدم اور بعد والے انبیاء

نُورِئِهِ وَصُورِ جَلَالِهِ وَجَبْرِئِيلُ وَمَنْ تَحْتَهُ أَتْبَاعُهُ وَشُعَاعَاتُ

علیہ السلام ان کے نائب اور خلفاء ہیں اور ان کے جلال کی صورتیں اور جبرئیل اور ان کے ماتحت ان کے تابعان ہیں اور

شَمْسٍ جَمَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَهُ وَخَلَقَهُ

ان کے آفتاب جمال کی شاعیں ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے انہیں بنایا اور پیدا کیا

عَلَى هَذِهِ الْحَقِيقَةِ الْحَقَائِيَّةِ وَصُورَةَ وَقَدَرَةَ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ الْإِلَهِيَّةِ

اس حقیقی حقیقت پر اور ان کی تصویر بنائی اور انہیں ٹھہرایا اس ربانی اور الہی ہیئت و

الرَّبَّانِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کیفیت پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

أَوَّلِ الْأَوَائِلِ وَآخِرِ الْآخِرِينَ وَبِاطِنِ الْبَوَاطِنِ وَظَاهِرِ الظُّوَاهِرِ

جو کہ اوائل سے بھی اول اور سب آخر اول سے بھی آخر ہیں اور سب باطن و مخفی اشیاء سے مخفی تر اور سب اہل ظہور و نمود ظاہر تر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ

ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آسمان

سَمَاءِ الْأَصْطَفَاءِ وَنُورِ سَرَاجِ الْإِجْتِبَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اصطفاء کے آفتاب جہانتاب اور اجتباء و آفتاب خداوندی کے چراغ کا نور و ضیاء۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ ظِلُّ اللَّهِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب اللہ کا سایہ

تَعَالَى وَالْأَنْبِيَاءِ ظِلَالٌ نُبُوَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور پر تو کمال و جمال ہیں اور انبیاء ان کی نبوت کا عکس و پرتو ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْوَأَوَّلِ الْوَأَخِيرِ وَكُلِّ شَيْءٍ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب پہلا شاہکار قدرت اور واجب (بالغیر) ہیں ان کے علاوہ

سِوَاهُ ظِلَّةَ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہر شئی ان کا عکس اور پرتو ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ الْمَعْرِفَةُ رَأْسَ مَالِهِ وَالطَّاعَةُ غَايَةَ

پر جس محبوب کے لیے معرفت الہی ہی رأس مال اور اصل سرمایہ اور اس کی اطاعت ہی

أَمَالِهِ وَالْعَقْلُ أَصْلَ دِينِهِ وَالتَّفَكُّرُ ضِيَاءَ يَقِينِهِ وَالْحُبُّ

انتہائی آرزو و تمنا اور عقل اصل دین اور تفکر ضیاء یقین اور حب الہی

أَسَاسُهُ وَالتَّقْوَى لِبَاسُهُ وَالتَّشَوُّقُ مَرْكَبُهُ وَالتَّوَكُّلُ مَكْسَبُهُ

ان کی اساس و بنیاد اور تقویٰ ان کا لباس اور شوق ان کی سواری اور زہد ان کی کمائی

وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أُنَيْسُهُ وَالْحُزْنُ جَلِيْسُهُ وَالصَّبْرُ مِرَادُ آئِهِ

اور ذکر الہی ان کا مونس اور حزن اور غم (خلائق) ان کا ہم نشین اور صبر ان کی چادر

وَالتَّوَكُّلُ كِسَاءُهُ وَالرِّضَاءُ دُرَّةُ تَاجِهِ وَالْيَقِينُ نُورُ سِرَاجِهِ

اور توکل ان کا کبیل اور رضا ان کے تاج کا موتی اور گوہر اور یقین ان کے چراغ کا نور

وَالْخَشْيَةُ ثَمَرَةُ فَوَادِيهِ وَالصَّدَقُ زَادُ مَعَادِيهِ وَالْفَقْرُ فُخْرُهُ

اور خوف الہی ان کے دل کا ثمر اور پھل اور صدق ان کا زاد آخرت اور فقر ان کا سرمایہ فخر

عَلَى أَقْرَانِهِ وَالْعِزُّ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى رَوْقُ بُسْتَانِهِ اللَّهُمَّ

اپنے ہمزمانوں پر اور بارگاہ الہی کی طرف افتخار و احتیاج ان کے باغ کی رونق و بہار۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِدُرِّ
صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو محبوب

لِيَأْتِي التَّعِينَاتِ وَشَمْسِ كُرَاتِ التَّنَزُّلَاتِ الْكَامِلِ الَّذِي
تعینات و تشخصات کی تاریک راتوں کیلئے ماہ تمام ہیں اور تنزلات و تقییدات کے کہ جات کیلئے آفتاب جہا نواب ہیں جو

كَمَلَتْ بِهِ الْإِنْسَانِيَّةُ وَظَهَرَتْ بِهِ الرَّحْمَانِيَّةُ أَشْرَفَ الْمُبْدَعَاتِ
ایسے کامل کر انسانیت ان سے کمال پذیر اور ضعف رحمانیت ان کے ذریعے ظہور پذیر جو سب ایجادات سے اشرف

وَأَفْضَلِ الْمَخْلُوقَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
اور سب مخلوقات سے افضل ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَنْوَارِ الْمَجَالِي وَأَصْفَى الْمَظَاهِرِ التُّورِي
اور آل محمد پر جو تمام جلوہ گاہوں کے انوار اور صاف ترین مظہر نور ہیں

التُّورِي الْإِلَهِيِّ الْقُدُّوسِيِّ الْمُتَجَلِّي فِي الصُّورَةِ الْبَشَرِيَّةِ وَالسِّرِّ
مقدس نور الہی ہیں جو جلوہ گر ہونے والے ہیں صورت بشریہ میں اور ذات باری

الْمُبْهَمِ الذَّاتِي الظَّاهِرِ فِي الْهَيْئَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ هُوَ رُوحٌ كُلِّيٌّ وَجَمِيعُ
کا راز مخفی ہیں جو ظہور پذیر ہوئے انسانی ہیئت میں، وہ کلی روح ہیں اور تمام روحيں ان

الْأَرْوَاحِ شُعَاعَاتُهُ وَعَقْلٌ كُلِّيٌّ وَسَائِرُ الْعُقُولِ أَجْزَاءُهُ وَ
کی شعاعیں ہیں اور وہ عقل کلی ہیں اور تمام عقول ان کے اجزاء اور

جُزْئِيَّاتُهُ وَكُلُّ مَا ظَهَرَ فِي الْوُجُودِ فَهُوَ وَصْفٌ مِّنْ أَوْصَافِهِ
جزئیات ہیں اور جو کچھ ظاہر ہوا وجود میں پس وہ ان کے اوصاف میں سے ایک وصف (کا مظہر) ہے

وَكُلُّ مَا دَخَلَ فِي الْكَوْنِ فَهُوَ نَعْتٌ مِّنْ نُّعَوْتِهِ أَلَا وَوَلِيَاءُ
اور جو بھی داخل ہوا کون و وجود میں تو وہ نعت ہے ان کی نعتوں سے تمام اولیاء

أَثَارُ وِلَايَتِهِ وَالْمَلَائِكَةُ أَمْوَاجٌ بِحَرَخُلُقِهِ الْعَظِيمِ وَهُوَ الْبَحْرُ
ان کی ولایت کے آثار ہیں اور تمام ملائکہ ان کے خلق عظیم کے سمندری امواج ہیں اور وہی سمندر

الْمَوَاجِدُ الدُّخَارُ وَهُوَ مَعْدَنُ الْجَوَاهِرِ الْمَوْجُودَاتِ الْمَلَكُوتِيَّةِ

موجزن بحر دُخار ہیں اور وہی معدن دکان ہیں ملکوتی و روحانی اور ناسوتی و جسمانی

وَالنَّاسُوتِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ مَحْبُوبِ الْمُقَدَّسِ

موجودات کے جواہر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام اور برکات نازل فرما اپنے محبوب مقدس

وَالْحَبِيبِ الْفَرْدِ الدَّارِيِّ وَالتَّعْتِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور یکتا حبیب پر جو محمد و خلیق و خالق ہیں از روئے ذات اور صفات کے صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

مَظْهَرِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَمَرَاةِ الرَّبُّوبِيَّةِ وَوَجِيدِ الْفَرِيدِ الْمْتَفَرِّدِ

جو تیری صفت رحمانیت کے مظہر اور صفت ربوبیت کے آئینہ ہیں اور یکتا جوہر

فِي مَقَامِ الْفَرْدَانِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہیں جو مقام فردانیت میں منفرد ممتاز ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْمَلِ الْوَسَائِلِ وَأَعِزِّ الدَّرَارِعِ لِي فِي

اور آپ کی آل اطہار پر جو کامل ترین وسیلہ اور عزیز ترین ذریعہ ہیں میرے لیے تیری بارگاہ وال

حَضْرَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

تک رسائی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدِ الَّذِي فَخْرُ آدَمَ وَمَنْ دُونَهُ وَبِحُرِّ الْوَلَايَةِ الَّذِي عَيْسَىٰ

آل پر جو کہ سرمایہ فخر ہیں حضرت آدم اور ان کے ماسواہ کے لیے اور ولایت کے سمندر ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام

مِنْ جَدِّ أُولِهِ وَطَوْرِ النَّبِيِّ الَّذِي مُوسَىٰ مِنْ جَوَانِبِهِ اللَّهُمَّ

اس کی شہرہ میں سے ایک نہر ہیں اور نبوت کے کوہ طور ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی جانوں میں سے ایک جانب ہیں۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ الْمَقْصُودِ

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو عین مقصود

وَالْحَامِدُ الْمَحْمُودُ وَشَاحِدُ الْمَشْهُودِ وَالْوَاحِدُ الْمَوْجُودُ وَنُقْطَةُ

اور حامد (مولیٰ) اور محمود (مخلوق و خالق) اور گواہ ہیں (انبیاء و اہم کے لیے) اور ان کی طرف سے گواہی دئے ہوئے ہیں۔ صاحب وسعت اور بخرد

دَائِرَةُ الشُّهُودِ وَالْوُجُودِ وَقَبْلَةُ كُلِّ مَعْدُومٍ وَمُمْكِنٍ وَمَوْجُودٍ

ہیں اور مرکزی نقطہ ہیں شہود و وجود کے دائرہ کے اور قبلہ ہیں ہر معدوم اور ممکن و موجود کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الْحَقِيقَةُ الْمَقْدَّسَةُ الْمَحِيطَةُ بِالْحَقَائِقِ وَالْأَعْيَانِ وَالنُّقْطَةُ

جو کہ مجسم حقیقت مقدسہ ہیں جو تمام حقائق اور موجودات خارجیہ کو محیط ہے اور بسیط

وَالْبَسِيطَةُ الْمَتَمِّمَةُ لِمَنَازِلِ الْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ وَحِبَّةُ حَقِيقَةٍ

نقطہ ہیں جو تکمیل و تنہیم کرنے والے ہیں ایمان و احسان کے منازل کی، ان کی محبت ایمان کی روح و

الْإِيمَانِ وَحُضُورُهُ كَمَا لُ الْإِحْسَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

حقیقت ہے اور ان کا حضور و شہود کمال احسان ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْغَنِيِّ عَنْ تَوْصِيفِنَا وَالْمُسْتَعْنِي عَنْ

محمد و آل محمد پر جو مستغنی ہیں ہماری تعریف و توصیف سے اور بے نیاز ہیں ہماری

تَكْدِيرِنَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ يَا مَالِكُ الْمُلْكِ وَيَا مُجْرِي الْفُلْكِ بِحَقِّكَ

تقدیر و تکوین سے۔ اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے اے مالک ملک اور جاری کرنے والے کشتیوں کے بظیف

عَلَيْكَ وَبِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ وَأَصْفِيَائِكَ وَالْمُقَرَّبِينَ لَدَيْكَ وَبِعَزِيْزِ جَنَابِكَ وَ

تیرے حق کے اور بظیف حق حرمت تیرے انبیاء و اصفیاء اور اپنے مقربین کے اور تیری عزت والی بارگاہ اور

الْمُقَرَّبِينَ لَدَيْكَ وَرَفِيعِ جَنَابِكَ وَبِأَلْوَهِيَّتِكَ وَوَحْدَانِيَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ وَ

بلندتر جناب کے اور بظیف تیری الوہیت و وحدانیت اور ستان قدیمی اور

قُدْرَتِكَ وَبِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى وَبِنُورِكَ الْأَسْنَى وَبِدَاتِكَ الْعَلِيَّةِ وَصِفَاتِكَ

قدرت کے اور بظیف تیرے اسماء و حسنیٰ اور نور انور و روشن تر کے اور بظیف تیری ذات عالیہ اور صفات

الْمَرْضِيَّةَ وَبَصَافِي وَوَدَادِكَ لِخُلُصِ عِبَادِكَ وَبِسْرِكَ الْمَخْزُونِ وَ

مرضیہ و پسندیدہ کے اور بطفیل نیری خالص محبت و مودت کے ساتھ اپنے مخلص عباد کے اور بطفیل تیرے راز مخفی اور

بِعِلْمِكَ الْبَكُونِ وَبِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَبِكُنْزِ أَحْدَابِكَ الْهَطْلَسِمَانِ تَحْقِيقِي

پوشیدہ علم کے اور بطفیل تیرے اسم اعظم اور احدیت والے طلسمی خزانے کے کہ مجھے متحقق و پابند بنائے

بِشَاهِدَةِ قُرْبِكَ وَأَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ خُدَّامِ حَضْرَتِكَ وَمِنْ حِزْبِكَ وَأَنْ

اپنے مشاہدہ قرب کے ساتھ اور بنائے مجھے اپنی بارگاہ کے خدام سے اور اپنی جماعت خاص سے اور مجھے

تَهَيِّمَنِي بِمَحَبَّتِكَ وَأَنْ تُكْرِمَنِي بِمَعْرِفَتِكَ وَأَنْ تُسْعِدَنِي بِشَاهِدَتِكَ

سیراب فرمائے اپنی محبت کے ساتھ اور عزت بخشے اپنی معرفت کے ساتھ اور نیک بخت فرمائے اپنے مشاہدہ کے ساتھ

وَأَنْ تُزَيِّنَنِي بِحُلِيَّةِ طَاعَتِكَ وَأَنْ تُبَاعِدَ بَيْنِي وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَأَنْ

اور مجھے مزین فرمائے اپنی اطاعت کے زیور سے اور دوری پیدا فرمائے میرے اور اپنی معصیت کے درمیان

تُحِبِّنِي عَنْهَا حَتَّى لَا تَجِدَ إِلَيَّ سَبِيلًا بِفَضْلِكَ وَمَعُونَتِكَ وَأَنْ تُقَابِلَ

اور مجھے اس سے باز رکھے اپنے فضل اور اعانت سے حتیٰ کہ وہ میری طرف راہ بھی نہ پاسکے اور میری

هَفَوَاتِي بِمَغْفِرَتِكَ وَأَنْ تُسْقِيَنِي بِكَأْسِ مَوَدَّتِكَ وَأَنْ تُدْخِلَنِي فِي

نغزشوں کے مقابل مغفرت عطا کرے اور مجھے پلائے اپنی مودت کے جام سے اور مجھے داخل کرے اپنی

حِمَايَتِكَ وَعِزَّتِكَ وَأَنْ تُحِبِّنِي عَنِ الْأَعْدَاءِ بِرَهْبُوتِ سَطْوَتِكَ وَ

حمایت اور پناہ عزت میں اور مجھے محفوظ رکھے دشمنوں سے اپنی ہیبت ناک سطوت کے ساتھ اور

أَنْ تَكْشِفَ لِي عَنْ حَطَايَا التُّورِ وَأَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ أَهْلِ الْحُضُورِ وَأَنْ

میرے لیے منکشف فرمائے نور کے محفوظ مقامات اور مجھے اہل حضور سے بنائے اور

تُرْفَعُ عَنْ عَيْنِ بَصِيرَتِي الْبَرِاقِعِ وَالسُّورِ وَأَنْ تُسْتَعْرِقَنِي بِكَ عَنْ

اتھاوے میری چشم قلب پر سے تمام حجابات اور پردے اور مجھے مستغرق فرماوے اپنی ذات میں دیگر

الْإِحْسَاسِ وَالشُّعُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ہر احساس اور شعور سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَلَوْشَانِهِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِاسْمٍ وَلَا يُكْشَفُ عَنْهُ

کی آل پر جس محبوب کے علوشانہ کی طرف کسی اسم کے ساتھ اشارہ نہیں کیا جاسکتا اور نہ کسی حدوت و تعریف سے اس کا

بِحَدِّهِ وَلَا يُمَكِّنُ أَنْ يُدْرِكَ كُنْهَ وَصِفَهُ مُكْتَنَهُ أَوْ يَكْتَنَهُ دَقِيقَةَ نَعْتِهِ

انکشاف ہو سکتا ہے اور ممکن نہیں کہ ان کے کسی وصف کی حقیقت کو پاس کے حقائق کا اور اک کرنے والا بیان کی نعمت کی باریکی کو سمجھ سکے

اللَّهُمَّ الْحَقِّيُّ بِنَسَبِهِ وَحَقِّقَتِي بِحَسَبِهِ وَعَرَفَنِي آيَاكَ مَعْرِفَةً أَسْمُ بِهَا

اے اللہ مجھے لائق فرما ان کے نسب کے ساتھ اور ثنابت فرما ان کے حسب اور خاندانی شرف کے ساتھ اور مجھے ان کی ایسی پہچان کرا

مِنْ مَوَارِدِ الْجَهْلِ وَالْكَرُّ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْفَضْلِ وَأَحْمِلْتَنِي عَلَى سَبِيلِهِ إِلَى

مے کہ معرفت اہول اس کی بدولت جہالت میں پڑنے والے مقامات سے اور یہوں میں بسبب اس کے فضل و شرف کے گھاٹوں سے اور مجھے آمادہ فرما انکی

خَضْرَتِكَ حَمَلًا مُحْفُوقًا بِنَصْرَتِكَ وَأَقْدَفَ بِي عَلَى الْبَاطِلِ فَأَدْمَعْتُ

راہ پر چلتے ہوئے اپنی بارگاہ تک رسائی پر جس آمادگی کو تیری نصرت محیط ہو اور مجھے پھینک باطل پر پس میں اس کو فنا کر دوں

وَزُبْرِي فِي بَحَارِ الْأَحْدِيَّةِ وَالنُّشْلِي مِنْ أَوْحَالِ التَّوَجُّدِ وَأَغْرَقْتَنِي

اور مجھے تیرا احمدیت کے سمندروں میں اور مجھے اچک لے توجید کے بیچڑوں سے اور غرق فرما مجھے

فِي عَيْنِ بَحْرِ الْوَحْدَةِ حَتَّى لَا أَرَى وَلَا أَسْمَعُ وَلَا أَجِدُ وَلَا أَحْسُ إِلَّا بِهَا

وحدت محضہ کے سمندر میں یہاں تک کہ میں نہ دیکھوں اور نہ سنوں اور نہ پاؤں اور نہ لو پس کروں مگر ساتھ اسی کے

وَأَجْعَلِ الْحِجَابَ الْأَعْظَمَ حَيَاةَ رُوحِي وَرُوحَهُ سِرَّ حَقِيقَتِي وَحَقِيقَتَهُ

اور بنا دے حجاب اعظم کو میری روح کی حیات اور اس کی روح کو میری حقیقت کا بطن اور اس کی حقیقت کو

جَامِعَ عَوَالِيهِ بِتَحْقِيقِ الْحَقِّ الْأَوَّلِ يَا أَوَّلُ يَا آخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ

میرے تمام جہانوں کا جامع و محیط بظہیر حق اول کے تحقق و ثبوت کے۔ اے اول۔ اے آخر۔ اے ظاہر۔ اے باطن

إِسْمَعْ نِدَائِي بِمَا سَمِعْتَ بِهِ نِدَاءَ عَبْدِكَ زَكَرِيَّا وَانصُرْنِي بِكَ

سن میری فریاد کو بظہیر سننے اپنے عبد خاص حضرت زکریا کی نداء و فریاد کے اور میری مدد فرما بظہیر اپنی ذات کے واسطے اپنی ذات

لَكَ وَأَيِّدْنِي بِكَ لَكَ وَاجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ يَا

کے اور میری تائید و تقویت فرما بظہیر اپنی ذات کے واسطے اپنی ذات اور اجتماع و جمعیت پیدا فرما میرے اور اپنے درمیان اور حائل ہر میرے نفس کے اور

اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الْعَظِيمِ الْمُبْدَى

اپنے درمیان یا اللہ یا اللہ یا اللہ - اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے بظیفیل تیری ذات عظیم کے نور کے جو

الْجَامِعَةِ مِنْ نُورِ كَمَالِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جامع وکامل یعنی اور احسان ہیں تیرے نور کمال سے یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

مُصْطَفَى عِنَايَتِكَ أَنْ تَتَّخِذَ ذَاتِنَا بِذَاتِهِ الْمَقْدَّاسَةِ بِجَلَالَتِكَ وَتُحَقِّقَ

جو انتخاب ہیں تیری عنایت کا کہ محمد فرمائے ہماری ذات کو ان کی ذات مقدسہ سے بظیفیل اپنی جلالت کے اور ثنات فرمائے

صِفَاتِنَا بِصِفَاتِهِ الْمَشْرُوقَةِ بِمَحَبَّتِكَ وَتَتَبَدَّلَ أَخْلَاقَنَا بِأَخْلَاقِهِ الْمَعْظَمَةِ

ہماری صفات ان کی نورانی روشن صفات کے ساتھ بظیفیل اپنی محبت کے اور تبدیل فرمائے ہمارے اخلاق کو ان کے اخلاق معظمہ کیساتھ

بِكِرَامَتِكَ فَيَكُونُ عَوْضًا لَنَا عَنَّا فَتَحْيَا بِحَيَاتِهِ الطَّيِّبَةِ النَّقِيَّةِ وَنَمُوتَ

اپنی کرامت سے پس وہ ہو جائیں ہمارا عوض اور بدل ہماری جگہ پس ہم زندہ رہیں ان کی حیات طیبہ پاکیزہ کے ساتھ اور وفات پائیں

بَيْتَةِ السُّوْيَةِ الْمَرَضِيَّةِ وَأَنْ تَجْعَلَهُ فِي الْقَبْرِ لَنَا سِرًا جَامِتِيرًا وَبَهْجَةً وَعِنْدًا

موزوں اور پسندیدہ حالت موت پر اور انہیں بنائے ہماری قبروں میں ہمارے لیے سراخ منیر اور سرا یا بہار اور اپنی ملاقات

الِلِّقَاءِ عِدَّةً وَبِرْهَانًا وَأَنْ تَحْشُرَنَا مَعَهُ فِي زُمْرَتِهِ مَعَ إِلِهِ وَخَاصَّتِهِ

کے وقت سامان تسکین اور برہان اور ہمیں اٹھائے ان کی جماعت میں ان کی آل اور خواص کے ساتھ

مُزَيِّنِينَ بِزِينَةِ الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

در آنجا لیکہ مزین ہوں ایمان زینت کے ساتھ - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَهْلِ بَيْتِهِ مُحَمَّدٍ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آپ کی آل پر جو برکات کا سرچشمہ ہیں اور ان کا اسم گرامی تمام اہل اسماذ پر فوقیت رکھتا ہے - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَوْلِيَائِهِ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ حَتَّى يُخْرِجَهُمُ اللَّهُ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ نہیں محبت کی تو نے

أَحَدًا إِلَّا يَتَوَسَّلُ بِكَ إِيَّاهُ فَإِنَّهُ الْمَحْبُوبُ الْمَرْضِيُّ الْمَقْصُودُ مَنْ

کسی سے مگر اس محبوب کے ساتھ اپنی محبت کے توسط سے کیونکہ وہی پسندیدہ محبوب ہیں جو تیرے مقصود ہیں تمام

الْمَحْبُوبِينَ وَالْمَطْلُوبُ الْأَصْلِيَّ مِنَ الْمَطْلُوبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محبوبوں سے اور مطلوب اصل ہیں تمام مطلوبین سے - اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُخْتَصِّ بِسِرِّ أَوْ أَدْنَى وَالنُّونِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محبوب مختص ہیں ساتھ رازِ اَوْ اَدْنَى کے اور انون

وَالْقَلَمِ الْأَعْلَى وَالْمَخْصُوصِ بِالْوَحْدَةِ الْكُبْرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

اور قلم اعلیٰ کے اور مخصوص ہیں ساتھ وحدت کبریٰ کے - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ وَاصِفٌ وَلَا

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ جن کا احاطہ شتا نہیں کر سکتا کوئی واصف اور نہ

يُكْنِهَةٌ نَاعَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ان کی حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے کوئی نعت گو - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ فَيَاضًا وَجَبْرِيْلُ بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ

آل اطہار پر جو فیض رسان تھے اس وقت میں جبکہ جبریل امین ابھی وجود عدم کے درمیان تھے -

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

شِفَاءً صَدُورِنَا وَنُورِ قُلُوبِنَا وَرُوحِ أَرْوَاحِنَا وَحَيَاةِ حَقَائِقِنَا

جو محبوب ہمارے سینوں کے لیے شفا اور قلوب کے لیے نور اور ارواح کی روح اور جان اور ہمارے حقائق کی حیات

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حُرُوفِ الْحَمْدِ أَنْ تَرْتُقِي عِلْمِي

ہیں - اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطفیل حروف حمد کے کہ مجھے عطا فرما نقطعی علم

صُرُورِيًّا بِالْمَتَكَلِّمِ وَكَلَامِهِ وَبِمُرَادِهِ مِنْ كَلَامِهِ فَأَسْأَلُكَ

منظم اور اس کے کلام کا اور اس کے مقصد کلام کا اور مجھے رزق عطا فرما

مِنْكَ رِزْقًا لَا نَفَادَ فِيهِ وَعَلْفَةً مَحْمُودَةً لَا خِيْبَةَ فِيهَا وَلَا حِجَابَ وَ

اپنی طرف سے کہ جو ختم نہ ہونے والا ہو اور قابل ستائش خوراک جس میں رسوائی نہ ہو اور نہ حجاب و

الْغَفْنِي فِي كُنْفِ كَفَايَتِكَ بِفُصُوصِ صُفُوفِ أَهْلِ صَفْوَتِكَ اللَّهُمَّ

مخروی اور مجھے جگہ عطا فرما اپنی کفایت کے پہلو میں بطفیل اپنے اہل اصطفاء کی صفوں والے نگینوں کے۔ اے اللہ

ارزُقْنِي رِزْقًا وَاسِعًا عَلَى الدَّوَامِ وَاصِلًا مِنْكَ إِلَى عَبْدِكَ عَلَى

مجھے رزق وسیع عطا فرما ہمیشہ کے لیے جو پہنچے والا ہو تیسری طرف سے تیرے عبد تک

طَرِيقَةَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ عَارِيًا مِنْ الْكَلْفِ وَالْبُحْنِ خَالِيًا عَنْ

خاص و عام طریقہ پر در آنحالیکہ خالی ہو تکلیفوں اور محنتوں سے اور خالی ہو زمانے کی

بَوَائِقِ الدَّاهِرِ وَشِدَائِدِ الْفِتَنِ نَافِعًا فِي الدِّينِ وَالْبَدَنِ يَا مَنْ

ہلاکتوں اور شدید فتنوں سے نفع دینے والا ہو دین میں اور بدن میں، اے کہ جس کا

فَضْلُهُ عَظِيمٌ وَلَطْفُهُ عَمِيمٌ وَاحْسَانُهُ قَدِيمٌ وَنَفْسُهُ كَرِيمٌ وَرَسُولُهُ

فضل عظیم ہے اور اس کا لطف عام ہے اور احسان قدیم اور ذات کریم اور اس کا رسول

رَجِيمٌ وَهُوَ قَادِرٌ عَلِيمٌ وَرَبُّ حَلِيمٌ أَسْأَلُكَ فَتَحَ بَابِ الْمَنَاجَاتِ

رجیم ہے اور آپ قادر و علیم ہے اور رب حلیم ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مناجات و دعا کے دروازوں

فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ وَالسَّاعَاتِ وَفِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ

کو کھولنے کا تمام اوقات و ساعات میں اور تمام قسم کی عبادات اور

وَالطَّاعَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ رَبُّنَا

طاہات میں بطفیل اپنی رحمت کے اے ارحم الراحمین اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہمارا رب ہے

وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَخَالِقُنَا وَخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَقَدَارَةُ تَقْدِيرِ اللَّهِ

اور ہر شئی کا رب ہے ہمارا خالق ہے اور ہر شئی کا خالق ہے اور ہر شئی کو مخصوص انداز پر بنانے والا ہے۔ اے اللہ

ارْحَمْنِي إِذَا انْقَضَى أَجَلِي وَأَنْقِطِعَ عَمَلِي وَكَيْسَتْ كَفْنِي وَفَارَقْتُ

مجھ پر رحم فرمانا جبکہ میری مدت عمر پوری ہو جائے اور عمل منقطع ہو جائے اور میں کفن پہن لوں اور قیام گاہ سے

سَكَنِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جدا ہو جاؤں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الْوَسِيلَةَ فِي الْمَطَالِبِ الدِّيْنِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو محبوب مجسم وسیلہ ہیں تمام دینی اور دنیوی مطالب میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّحْمَةَ الْوَاسِعَةَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ سراپا رحمت ہیں جو محیط

الشَّامِلَةَ لِكُلِّ فَرْدٍ مِّنْ أَفْرَادِ الْعَالَمِينَ وَالتُّورِ الْمُنَوَّرِ لِلْأَوْلِيَيْنِ

ہیں عالمین کے ہر فرد کو اور مجسم نور ہیں جو اولین و آخرین کو منور کرنے والے

وَالْآخِرِينَ وَالْمَحْمُودِ فِي الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ہیں اور تمام جہانوں میں قابل ستائش ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ الْأَكْمَلِ وَحَبِيبِكَ الْأَجْمَلِ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو تیرے کامل ترین رسول اور جمیل ترین محبوب اور

خَلِيلِكَ الْأَفْضَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

افضل ترین خلیل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلْقِكَ وَأَشْرَفِ بَرِيَّتِكَ وَأَفْضَلِ مَصْنُوعَاتِكَ

آل پر جو ساری مخلوق سے بہتر اور تمام مخلوق سے بلند مرتبت اور تیری مصنوعات سے افضل ترین

وَمَحَلِّ عَنَائِيَّتِكَ وَمَنْزِلِ شِعَاعَاتِكَ وَظُهُورِ أَيْدِيكَ وَمَتَابِعِ

اور تیری عنایت کا محل اور تیری تجلیات اور ظہورات محل نزول اور تیری شبیوں اور کیفیات افعال

صُورِ الْعِلْمِيَّةِ لِشَيْئُونَكَ وَمَعْدَانِ أَنْوَارِكَ وَفَخْزَنِ اسْرَارِكَ

کی علمی صورتوں کے سرچشمہ اور تیرے انوار کی کان اور اسرار و اعتبارات

وَأَعْتِبَارَاتِكَ وَمُقَرَّبِكَ وَمُحْتَارِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ الَّذِي

کا خزانہ اور تیرے مقرب اور مختار و منتخب ہیں۔ اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے کہ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ عَمِلْتُ سُوءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِي وَ

نہیں معبود برحق مگر تو، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں نے برائی کی ہے اور اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور

اعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاعْفُرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

اپنے گناہ کا اعتراف کیا لہذا میرے گناہ بخش کیونکہ نہیں گناہ بخشتا مگر صرف تو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ الذَّاكِرِ وَتَرْجُمَانِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو تیری ذات محض کے عبد ہیں اور ترجمان ہیں

حَضْرَتِ دِيْوَانِ الْكِبْرِيَاءِ الْإِلَهِيِّ الْأَقْدَسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

دیوان کبریاء خداوند تعالیٰ و تقدس کی بارگاہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَجْلَى ذَاتِ الْعُظْمَةِ الْإِلَهِيِّ الْأَنْزَهَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

فرما سیدنا محمد پر جو جلوہ گاہ ہیں عظمت وال ذات العظمیٰ کے جو پاکیزہ تر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّ الْقُدْسِ الْأَقْدَسِ لِلذَّاتِ الْإِلَهِيَّةِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو ذات الہیہ کے مقدس محفوظ راز

الْمُصَوَّنِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عِزَّةَ الدَّارِينِ يَا عَزِيزُ اللَّهُمَّ اعْزِرْنِي

ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں دارین میں عزت کا اے عزیز۔ اے میرے رب

بِعِزَّتِكَ يَا عَزِيزُ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الْأَعَزِّينَ

عزت عطا فرما اپنی عزت کے ساتھ اے عزیز۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے اپنے عزت والے بندوں سے بنا

يَا عَزِيزُ اللَّهُمَّ احْكُم بِالْفَضْلِ يَا حَكِيمُ تَحْكُم بِالْعَدْلِ وَتَقْضِي

اے عزیز۔ اے اللہ فضل کے ساتھ فیصلہ فرما اے حکیم تو عدل کے ساتھ حکم فرماتا ہے اور حق کے ساتھ فیصلہ

بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ يَا قَاهِرُ يَا قَهَّارُ يَا قَائِمٌ قَد قَهَرْتَ

فرماتا ہے اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرماتے والا ہے۔ اے قاہر۔ اے قہار۔ اے عمران تو غالب ہے

عِبَادَكَ بِالْفَنَاءِ يَا مُعِيتُ يَا حَسِيبُ يَا خَلِيلُ يَا مُقْتَدِرُ تَفْعَلْ مَا

اپنے بندوں پر فنا کرنے کے ساتھ۔ اے فریادرس۔ اے صاحب یلنے والے۔ اے خلیل۔ اے صاحب اقتدار تو کرتا ہے جو

تُرِيدُ يَا مُحِيطُ يَا رَقِيبُ يَا مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَدَدًا وَوَدَّ بَرْتَ

ارادہ کرے۔ اے احاطہ کرنے والے۔ اے نگران اے کہ جس نے احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا از روئے نعمتی و شمار کے اور تدبیر فرماتی ہے

الْأُمُورَ كُلَّهَا بِحِكْمَتِكَ وَأَمْسَكْتَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ بِقُدْرَتِكَ

تمام امور کی اپنی حکمت سے روک رکھا ہے آسمان و زمین کو اپنی قدرت سے

يَا بَاعِثُ يَا وَارِثُ تَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

اے مردوں کو زندہ کرنے والے۔ اے وارث جو مالک حقیقی ہے زمین اور اس پر کی اشیاء کا اور تو بہترین وارث ہے

وَأَنْتَ تَبْعُثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ لِتَحَاسِبَهُمْ وَأَنْتَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

اور تو اٹھائے گا اہل قبور کو تاکہ ان سے حساب لے اور تو بہت جلد حساب لینے والا ہے

يَا وَاسِعَ الْمُلْكِ وَالْعِلْمِ وَالرَّحْمَةِ لَا يَخْرُجُ مِنْ سُلْطَانِكَ شَيْءٌ

اے وسیع ملک اور علم و رحمت والے تیری سلطنت سے کوئی شئی باہر نہیں اور

وَلَا يُعْجِزُكَ شَيْءٌ وَرَحْمَتُكَ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ يَا حَقُّ يَا مُبِينٌ

نہ کوئی شئی تجھے عاجز کرے والی ہے اور تیری رحمت ہر شئی کو محیط ہے۔ اے حق محض۔ اے واضح و روشن

أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَسُلْطَانُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَ

تو ہی برحق واضح شہنشاہ ہے اور تیرا غلبہ و سلطنت برحق تیرا قول برحق اور

وَعْدُكَ الصِّدْقُ وَلَا تَخْلِفُ مِيعَادَكَ وَلَا تَظْلِمُ عِبَادَكَ يَا

تیرا وعدہ برحق و صادق اور تو وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے۔ اے

ذَاقُوا الْقُوَّةَ الْبَتِّينِ يَا غَالِبُ يَا مُغْنِي أَنْتَ الْغَنِيُّ وَذَحْنُ الْفُقَرَاءِ وَ

پاشیدار قوت والے، اے غالب، اے غنی کرنے والے، تو ہی غنی ہے اور ہم فقراء ہیں۔ اور

أَنْتَ الْقَوِيُّ وَذَحْنُ الضُّعْفَاءِ لَا قُوَّةَ إِلَّا مَنْ قُوَّتُهُ وَلَا غِنَى

تو ہی قوی ہے اور ہم ناتواں ہیں۔ نہیں کوئی قوت والا مگر جس کو تو قوت دے اور ہمیں کوئی غنی

إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتَهُ يَا خَالِقُ يَا خَلَّاقُ أَنْتَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ وَأَنْتَ

مگر جس کو تو غنی کرے اے خالق۔ اے خلاق تو ہی بہترین خالق ہے اور

أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ لَا خَالِقَ لِلْخَلْقِ غَيْرِكَ وَلَا مَدَبِّرَ لِلْخَلْقِ سِوَاكَ

بہترین حاکم۔ نہیں ہے خالق مخلوق کا سوائے تیرے اور نہ مدبر و منتظم ان کا سوائے تیرے

وَأَنْتَ قَيُّومُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ وَمُدَبِّرُ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ وَ

اور تو برپا رکھنے والا ہے تمام آسمانوں اور زمینوں کو اور تدبیر کرنے والا ہے تمام مخلوقات کی اور

مُنُورٌ أَبْصَارٍ بَصَائِرِ الْعَارِفِينَ بِنُورِ الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِينِ وَجَاذِبٌ

منور فرمانے والا ہے عارفوں کی چشمان بصیرت کو نور معرفت اور یقین کے ساتھ اور کشش کرنے

أَسْرَارِ الْأَيْمَةِ وَالْمُحَقِّقِينَ بِجَذْبِ الْقُرْبِ وَالتَّمَكِينِ وَفَاتِحٌ

والا ہے ائمہ اور ارباب تحقیق کے اسرار کو مقام قرب اور تمکین والی کشش کے ساتھ اور کھولنے والا ہے

قُلُوبِ الْمُوَحِّدِينَ بِمِفْتَاحِ حَمْدِ الشَّاكِرِينَ وَجَامِعٌ أَشْتَاتِ

موحدین کے قلوب کو شکر گزاروں کی حمد والی چابی کے ساتھ اور مجتمع فرمانے والا ہے

شَمَلِ الْمُحِبِّينَ فِي حَظَائِرِ قُدْسِهِ بِمَجْمَعِ الْحِفْظِ وَالْيَقِينِ

اہل محبت کی پرگندگیوں کو اپنے مقامات قدس میں ساتھ حفظ و یقین کے عمل جمعیت کے

أَحْمَدًا حَمْدًا أَيْفُوقُ وَيَعْلُو وَيَفْضُلُ حَمْدَ الْحَامِدِينَ حَمْدًا

میں اس کی حمد کرتا ہوں جو فائق اور عالی ہے اور فضیلت والی ہے اہل حمد کی حمدوں سے ایسی حمد کہ

يَكُونُ لِي فِيهِ رِضًا وَفَيْضًا وَحِفْظًا وَحَظًا وَذُخْرًا وَحِزْنًا عِنْدَ

میرے لیے ہوا میں رضا اور فیض اور حفاظت اور نصیب اور ذخیرہ اور پناہ میرے

خَالِقِي وَخَالِقِ الْأَقَالِيمِ وَالْجِهَاتِ وَالْأَقْطَارِ وَالْأَمْصَارِ وَالْأَعْصَارِ

خالق کے نزدیک اور تمام ولایات و جہات اور اقطار و جہانب اور امصار و بلاد اور اعصار و ازمان

وَالْأَمْلَاكِ وَالْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالْأَفْلَاكِ رَبُّ الْعَالَمِينَ رَبُّ السَّمَوَاتِ

ملائکہ اور جنوں اور انسانوں اور آسمانوں کے خالق کے نزدیک جو تمام جہانوں کا رب - تمام آسمانوں

وَالْأَرْضَيْنِ وَرَبُّ الْأَقْرَبِينَ وَرَبُّ الْأَبْعَدِينَ وَرَبُّ الْأَوَّلِينَ وَرَبُّ

اور زمینوں کا رب اور قریب ترین اور بعید ترین کا رب ہے۔ اور اولین و آخرین کا

الْآخِرِينَ وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَرَبُّ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

رب ہے اور ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین کا رب ہے

نَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ يَا هَادِيَ الضَّالِّينَ لَا

ہم تجھ سے توفیق طلب کرتے ہیں دنیاوی اور دینی امور پر۔ اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے ہمارے

هَادِيَ لَنَا غَيْرُكَ وَحَدَاكَ لَا شَرِيكَ لَكَ أَنْتَ الْبَلَدُ الْحَقُّ الْمُبِينُ

سوا کوئی ہادی نہیں تو واحد ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو ہی شہنشاہ برحق واضح و روشن ہے

يَا رَبَّ الْخَلَائِقِ اجْمَعِينَا وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَهَادِيَنَا وَفَهْدِيَنَا

اے رب تمام مخلوق کے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ سیدنا محمد جو ہمارے نبی اور ہادی و

مُحَمَّدًا عَبْدًا لَكَ وَرَسُولًا وَحَبِيبًا نَبِيًّا صَادِقًا الْوَعْدِ وَرَحِيمًا

مددی ہیں وہ تیرے عبد خاص۔ رسول برحق اور تیرے حبیب نبی سچے وعدہ والے اور رحیم و

الْأَمِينُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

امین ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

الَّذِي خَصَّصْتَهُ بِمَحَبَّتِكَ الْخَاصَّةِ وَعِنَايَتِكَ التَّامَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

جنہیں تو نے اپنی محبت خاصہ اور عنایت کاملہ کے ساتھ مخصوص ٹھہرایا۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَمَالِكَ الْجَلِيلِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو تیرے جمال مجسم جلیل

الْجَبِيلِ وَالْحَبِيبِ الْخَلِيلِ وَنُورِكَ الْمُتَجَلِّيِّ فِي كُلِّ ظِلٍّ وَأَصِيلِ

و جمیل اور حبیب و خلیل اور تیرے نور مجسم ہیں جو جلوہ نگیں ہیں ہر عکس و پرتو اور اصل اصیل ہیں

وَالْمُتَجَلِّيِّ فِي كُلِّ مَدْلُولٍ وَدَلِيلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور جلوہ گر ہیں ہر مدلول اور دلیل ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِذِي لَانْهَائِيَّةٍ لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ وَ

محمد و آل محمد پر کہ جن کے حسن و جمال کی انتہاء نہیں اور

لَا غَايَةَ لِفَضْلِهِ وَكَمَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

تو ان کے فضل و کمال کی حدود غایت ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْوَاحِدِ الرَّوْحَانِيِّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ وَ

آپ کی آل پر جو یگانہ اور یکتا اور سراپا روح ہیں۔ اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور

أَشْهَدُ مَلَائِكَتَكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ وَأَشْهَدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ

تیرے ملائکہ کو اور حاملین عرش کو اور گواہ بناتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوق کو

أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

بیشک تو ہی اللہ ہے نہیں معبود برحق مگر تو واحد لا شریک لہ۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَجْمَلِ الْوُجُودِ وَالصُّوَرِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو جمیل ترین وجود اور صورت و شکل والے

وَلَطِيفِ الظَّاهِرِ فِي الْأَحْسَنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور لطیف ترین اور حسین ترین والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْوَاصِلِ فِي كَمَالِ إِلَى كَمَالِهِ وَالْبَالِغِ فِي كُلِّ

آل محمد پر جو ہر کمال میں اتمام کو پہنچے ہوئے ہیں اور ہر

فَضْلِ إِلَى غَايَةِ حُسْنِهِ وَجَمَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فضیلت و شرف میں حسن و جمال کی غایت تک واصل ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقُطْبِ السَّرْمَدِيِّ وَالنُّورِ السَّاطِعِ الْأَزَلِيِّ

و آل محمد پر جو دائمی قطب (اور مدار کائنات) اور ازلی وابدی غالب نور

الْأَبَدِيِّ وَجَبِيْبِ الْمَطْلُوقِ الْأَنْزَلِيِّ وَالنَّبِيِّ الْأَكْمَلِ السَّرْمَدِيِّ اللَّهُمَّ

ہیں اور ازل سے حبیب مطلق اور ہمیشہ کے لیے نبی اکمل ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَنْ عَمَّ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جن کا فضل

فَضْلُهُ وَعَطَائُهُ وَوَسْعُ الْبَرِّيَّةِ جُودُهُ وَنِعْمَانُهُ وَعَمَّ نُورُهُ

و انعام عام ہے اور ان کا جو دو احسان مخلوق کو محیط ہے اور ان کا نور عام ہے



وَ اكْمَلْ ظُهُورَهُ وَ اجَلِّ سِرَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور ان کا ظہور کامل ترین اور سر و باطن جلیل و بزرگ ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ الْاَشْيَاءِ وَ جُودًا وَ اٰخِرِ التَّجَلِّيَّاتِ

اور آپ کی آل کا ظہار پر جو تمام اشیاء مخدقہ سے اول ہیں و جود میں اور آخری تجلی

وَ غَايَةِ الظُّهُورَاتِ فِي عَالَمِ الْاَجْسَامِ ظُهُورًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور غایت و انتہاء میں تمام عالم اجسام کے ظہورات کی از روئے ظہور کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْمُحْتَرَمِ وَ الرَّسُولِ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محترم نبی اور صاحب حشمت

الْمُحْتَشَمِ وَ مِنْ اَفْتَدَى بِهٖ الرَّسُلُ الْكِرَامُ وَ تَمَنَّتْ فِيْ اُمَّتِهٖ اَوْلُو

رسول ہیں اور جن کی رسل کرام نے اقتداء کی اور اولوالعزم عظیم المرتبت رسل نے ان کی امت

الْعَزْمِ الْفِتْحَامُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

سے ہونے کی آرزوی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِيْ لَا يَأْسُ عَلٰى بَابِهٖ لِدَوٰى الْحَاجَّاتِ وَ لَا خِيْبَةٌ فِيْ حَضْرَتِهٖ

پر کہ نہیں ہے شدت و سختی ان کے در و قفس پر حاجتمندوں کے لیے اور نہیں نامرادی ان کی بارگاہ میں

لِاهْلِ الْمُرَادَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

اہل حاجات کے لیے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ مُّزَكِّيْ التُّفُوْسِ مِنَ الْاَدْنٰسِ وَ مُطَهِّرِ الصُّدُوْرِ عَنِ الْاَرْحٰسِ ط

پر جو نفوس کو پاک کرنے والے ہیں میلوں کچیلوں سے اور سینوں کو پاک کرنے والے ہیں نجاستوں سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّبَشِّرًا

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ بشارت دینے والے ہیں

بِسُطُوْعِ نُوْرِ رَسَالَتِكَ الْمَسِيْحِ وَ مُجَبِّرًا بَطُوْعِ نَجْمِ جَلَالَتِكَ اللَّطِيْحِ

آپ کے نور رسالت کے غلبہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خیر دینے والے ہیں آپ کی بزرگی والے ستارے کے طلوع کی سطح

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَوْرِكَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو تیرے عزت والے

الْعَزِيزِ وَشُعَاعِكَ الْغَالِبِ وَرُوحِكَ السَّارِيِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

نور اور غالب شعاع اور مخصوص روح ہیں جو ساری مخلوقات میں اسراریت کئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَلْبِ الْخَلَّارِ تَقِ وَوَاسِطِ الْبِرَايَا

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو تمام خلقات کے لیے مانند قلب و روح ہیں اور تمام مخلوقات کے واسطہ و وسیلہ ہیں

فِي عَالِمِ الْمِثَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

عالم مثال میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا تَوَسَّلَ بِهِ أَحَدٌ إِلَّا وَصَلَ إِلَى مَقْصُودِهِ وَفَا اسْتَشْفَى

پر کہ جس نے بھی ان کو وسیلہ بنایا تو اپنے مقصد تک پہنچا اور جس مریض نے ان

بِهِ مَرِيضٌ إِلَّا شَفِيَ مِنْ مَرَضِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کے طفیل شفا طلب کی اس نے شفا پائی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَقْصُودِ الْمَحْبُوبِ فِي الْكُلِّ وَ

محمد و آل محمد پر جو مقصود و محبوب ہیں تمام عالم میں اور

مِنَ الْكُلِّ فِي عَالِمِ الْإِنْسَانِ الْكَمَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

تمام عالم انسان کامل میں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَبِيبِ الْمَحْبُوبِ وَالصِّفِيِّ

محمد پر اور آل محمد پر جو حبیب و محبوب الہی ہیں اور محب بھی۔ اور اللہ کے منتخب

الطَّالِبِ الْمَطْلُوبِ اللَّهُمَّ أَحْيِ لَنَا الْإِسْمَ وَالْجِسْمَ وَالرَّسْمَ

اور اس کے طالب و مطلوب۔ اے اللہ زندہ فرما ہمارے نام اور جسم اور رسم و نشان کو پاکیزہ

حَيَوَةً طَيِّبَةً أَبَدًا أَدَائِمَةً مَسْتُورًا مَعْمُورًا مَسْرُورًا مَوْفُورًا

ابدی دائمی حیات کے ساتھ درآئنا لیکر ہماری پردہ پوشی کی گئی ہو اور ہمیں آباد و سرور کیا گیا ہو اور واقف و یادگار ہو

بَفَيْضِ فَضْلِ الْفَيَاضِ مُسْتَفِيضُ الْقَلْبِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
فيا من اقدس کے فراداں فیض سے ہمارے دل فیضیاب ہوں۔ وہ ہی عظیم کامیابی ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْحُبِّ الَّذِي الْمُحِبُّ مَعَ الْمَحْبُوبِ حَارِقٌ وَالطَّلَبِ
لے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس محبت کا کہ جس سے محب محبوب کے لیے جلنے والا ہوتا ہے اور ایسی

الَّذِي الطَّالِبُ مَعَ الْمَطْلُوبِ شَارِقٌ وَرَبِطَ الَّذِي الرَّابِطُ بِالرَّبُوبِ بَوَارِقٌ
طلب کا کہ جس سے طالب مطلوب کے لیے خون کے آنسو روتا ہے اور ایسے ربط و تعلق کا کہ ربط والا اپنے تعلق والے کے ساتھ

وَالْخِيَالِ الَّذِي الْمَخِيُولُ بِالْمَخَائِلِ حَوَارِقٌ رَضِينَا بِاللَّهِ تَعَالَى رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ
جیران و مرگردان ہوتا ہے اور ایسے خیال کا کہ خیال والے اپنے نفس خیالی کے ساتھ جلن پلتے ہیں ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے

دِينًا وَبِحَدِيدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا وَبِالْكَعْبَةِ
دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ از روئے نبی و رسول ہونے کے اور قرآن کے ساتھ از روئے امام اور کعبہ کے

قِبْلَةً وَبِالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ فَرِيضَةً وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَانًا وَ
قبلہ ہونے اور نماز و روزہ اور زکوٰۃ و حج کے فرض ہونے پر اور مؤمنین کے بھائی ہونے پر اور

بِالصَّدِيقِ وَبِالْفَارُوقِ وَبِذِي النُّورَيْنِ وَبِالْمُرْتَضَى إِيْمَةً رَضَوْنَا اللَّهُ
صديق اکبر - فاروق اعظم - عثمان ذوالنورین - اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم

تَعَالَى عَلَيْكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِجَوَامِعِ أَسْرَارِ أَسْمَائِكَ وَلَطَائِفِ
کے امام ہونے پر۔ لے اللہ بے شک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے اسما کے جامع اسرار اور تیری صفات

مَظَاهِرِ صِفَاتِكَ وَقِدَامِ وُجُودِ ذَاتِكَ أَنْ تُنَوِّرَ قُلُوبَنَا بِنُورِ هِدَايَتِكَ وَأَنْ
کے لطیف مظاہر اور تیری ذات کے وجود قدیم کے طفیل کہ منور فرمائے ہمارے دلوں کو اپنے نور ہدایت کے ساتھ اور

تَلْهِمْنَا حُبَّ مَعْرِفَتِكَ وَأَنْ تَسْتُرَ عَلَيْنَا بِسِتْرِ حِمَايَتِكَ وَأَنْ تَجْعَلَ أُنْسَنَا
ہمیں اللہ فرمائے اپنی معرفت کی محبت کا اور ہم پر پردہ ٹولے اپنی حمایت کا اور ہمیں اپنے ساتھ

بِكَ وَشَوْقَنَا إِلَيْكَ وَخَوْفَنَا بِكَ حَتَّى لَا نَرْجُو أَحَدًا غَيْرَكَ وَلَا نَخْشَى أَحَدًا
مانوس فرمائے اور اپنی طرت شوق و رغبت اور اپنی ذات کا خوف بخشنے حتی کہ ہم تیرے سوا کسی سے امید نہ رکھیں اور تیرے سوا

سَوَاكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْتَ الْمُحْسِنُ الْبُنْعِمُ الْمُبْضَلُ الْمَسْجِدُ الْقَادِرُ الْقَاهِرُ

سوا کسی سے ڈریں۔ لے اللہ بیشک تو ہی صاحب احسان، صاحب انعام، فضل و حمد عطا کرنے والا، صاحب قدرت،

الْعَظِيمُ الْمُقْتَدِرُ الْقُدُّوسُ الْمَقْدِسُ فِي نُورِ الْقُدْسِ تَرَدَّدِيَتْ بِالْعَزِّ وَالْعُلَاةِ

عظیم، صاحب اقتدار۔ ہدات خود مقدس، طہارت بخشنے والا ہے نور قدس میں ترستے عزت و بزرگی کی چادر اڑھ رکھی ہے

وَتَأَزَّرَتْ بِالْعُظْمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَتَعَشَّيْتُ بِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ وَتَجَلَّتْ بِالْمَهَابَةِ

اور عظمت و کبریائی کی تمہد باندھ رکھی ہے اور پوشیدہ ہو گئی ہے سبب کثرت نور و ضیاء کے اور بزرگی ظاہر فرمائی مہیبت اور نور کے

وَالْبَهَاءِ لَكَ الْمَنُّ الْقَدِيمُ وَالْفَضْلُ الْعَظِيمُ وَالسُّلْطَانُ الشَّامِخُ وَالْمَلِكُ الْبَارِزُ

ساتھ تیرا ہی ہے قدیم احسان اور عظیم فضل، بلند مرتبت سلطنت اور عظیم الشان ملک

وَالجُودُ الْوَاسِعُ وَالْفَيْضُ الشَّامِعُ وَالْقُدْرَةُ الْكَامِلَةُ وَالْحِكْمَةُ الْعَالِيَةُ وَالْحُجَّةُ

اور وسیع جود اور فیض عام، قدرت کاملہ اور حکمت عالیہ اور حجت

الْبَالِغَةُ وَالْعِزَّةُ الشَّامِلَةُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الْإِعْتِمَادَ عَلَيْكَ وَالْإِنْقِيَادَ لِيكَ وَ

بالغہ کاملہ اور محیط عزت۔ لے اللہ ہمیں نصیب فرما اپنی ذات پر اعتماد اور اپنی تابعداری

الْحُبَّ فَيْكَ وَالْقُرْبَ بِنِكَ وَالْأَدَبَ مَعَكَ وَأَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَزَّ

اپنی ذات کی خاطر حب اور اپنا قرب اور ادب اور تو ہی منور فرمانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا عزت

جَارَكَ وَجَلَّ شَأْنُكَ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَانُكَ وَعَظَّمْ شَأْنَكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ سَلِمْنَا

والا ہے تیری پناہ لینے والا اور بزرگتر ہے تیری ثنا اور مقدس ہیں تیرے نام اور عظیم ہے تیری شان اور ہمیں محمود برحق تیرے سوا نہیں سلامتی

وَسَلِمَ وَكَمَلْ إِيْمَانَنَا وَتَمِّمْ عِرْفَانَنَا وَوَجِّهْنَا بِكَلِمَتِنَا إِلَيْكَ وَلَا تَكُنَّا إِلَى

بخش اور ہمارے ایمان کو سالم و کامل بنا اور ہمارا عرفان مکمل فرما اور ہمیں مکمل طور پر اپنی طرف متوجہ فرما اور نہ سوچ ہمیں

أَنْفُسَنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا أَقْلَ مِنْ ذَلِكَ وَشَوْقَنَا إِلَى لِقَائِكَ وَاقْطَعْ عَنَّا كُلَّ

اپنے نفسوں کی طرف پلک بھینکنے کی مقدار اور نہ اس سے کم اور اپنا شوق ملاقات بخش اور کاٹ دے ہم سے ہر وہ شئی

قَاطِعٍ يَقْطَعُنَا عَنْكَ وَقَرِّبْنَا إِذَا أَبْعَدْتَنَا وَأَقْرِبْنَا إِذَا أَقْرَبْتَنَا وَعَلِّمْنَا إِذَا

جو ہمیں تجھ سے قطع کرے۔ اور قریب فرما ناہیں جب دور کر دے۔ اور قریب ہوتا ہم سے جبکہ ہمیں اپنے قریب کرے اور ہمیں علم عطا فرما جبکہ

جَهْلَنَا وَفَهْمَنَا إِذْ أَعَلَّمْتَنَا يَا أَوَّلَ يَا آخِرَ يَا ظَاهِرَ يَا قَادِرَ يَا غَافِرَ يَا عَلِيمَ يَا

ہم جاہل ہوں اور فہم و فراست عطا فرماتا جبکہ علم عطا کرے، اے اول۔ اے آخر۔ اے ظاہر۔ اے قادر۔ اے غافر۔ اے علیم۔ اے

مَوْلَايَ يَا قَادِرَ يَا مَوْلَايَ يَا غَافِرَ يَا لَطِيفَ يَا خَبِيرَ وَأَعِذْ نَفْسِي وَدِينِي وَإِيمَانِي

میرے مولیٰ۔ اے قادر۔ اے میرے مولیٰ۔ اے بخشنے والے۔ اے لطیف۔ اے خبیر اور میں پناہ میں دیتا ہوں اپنے نفس اور دین و ایمان

وَأَهْلِيَّ وَوَلَدِيَّ وَمَالِيَّ وَوَعِيَالِيَّ وَأَخْوَانِي وَذَوِيَّ عَنَّا يَتِيَّ وَجَمِيعَ نِعْمِ اللَّهِ تَعَالَى

اور اہل و اولاد اور مال و عیال اور برادران اور اپنے اہل عنایت کو اور اپنے ہاں موجود اللہ تعالیٰ کی تمام

عِنْدِي بِشِدَّةِ حَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّةِ اللَّهِ وَبَطْشِ اللَّهِ وَجَبْرُوتِ اللَّهِ وَمَوَاسِيْقِ اللَّهِ

نعمتوں کو ساتھ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت اور سخت گرفت کے اور اللہ کے تسلط و غلبہ اور اس کے پختہ عسَدوں

وَطَاعَتِهِ عَلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ مِنْ عَطَاءِ اللَّهِ يَا دَائِمًا بِلَا فَنَاءٍ وَيَا قَائِمًا بِلَا زَوَالٍ

اور طاقت کے جن وانس پر اللہ کی عطا سے ایک جو دائم ہے بغیر فنا کے ایک جو موجود دائم ہے بغیر زوال کے

يَا مُدَبِّرًا بِلَا وَزِيرٍ سَهْلٍ عَلَيْنَا وَعَلَى وَالِدَيْنَا كُلِّ عَسِيرٍ لَّا أَحْصِيُ ثَنَاءً عَلَيْكَ

اے کہ جو مدبر و منتظم ہے بغیر کسی وزیر کے آسان فرما ہم پر اور ہمارے والدین پر ہر مشکل امر کو۔ میں نہیں احاطہ کر سکتا تیری ثناء کا

أَنْتَ كَمَا أَنْتَبَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ عَزَّ جَارَكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ وَعَظُمَ

تو ہے (اس ثناء کا حقدار) جو اپنی آپ کی ہے، عزت والا ہے تیرا پر ٹوسی اور بزرگتر ہے ثناء تیری اور مقدس ہیں نام تیرے اور عظیم ہے

ثَنَائُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ بِقُدْرَتِهِ وَيُحْكِمُ مَا يَرِيدُ بِعِزَّتِهِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

ثناء تیری اور نہیں معبود برحق سوائے تیرے کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے ساتھ اپنی قدرت کے اور حکم فرماتا ہے جو ارادہ کرے ساتھ اپنی عزت کے، آگاہ رہو

تَصْدِيرَ الْأُمُورِ كُلِّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ

اللہ کی طرف ہی تمام امور لوٹتے ہیں، ہر شئی ہلاک ہو گی، ہاں اس کی ذات کے، اس کیلئے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹاؤ گے، پس کفایت کرے گا آپ کو اللہ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ حَسْبِنَا اللَّهُ وَكَفَى سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ دَعَا لَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ الْمُنْتَهَى فَمَنْ

ان کی طرف سے اور وہی سننے جانتے والا ہے کفایت کرنے والا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اور کافی ہے، قبول فرماتا ہے اللہ اس کی جو دعا کرے، نہیں اللہ کے علاوہ

اعْتَصَمَ بِاللَّهِ نَجَّى مَرْحَبًا بِالصَّبَاحِ الْجَدِيدِ وَالْيَوْمِ السَّعِيدِ وَالْمَلِكِينَ الْكَاتِبِينَ

کوئی جگہ نہ رجوع جس نے اللہ کے ساتھ جنگل مارا نجات پائی، خوش آمدید ہے نئی صبح اور سعادت مندوں کے لیے۔ اور دو لکھنے والے

الشَّاهِدِينَ الْعَادِلِينَ حَيَّاكُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي غُرَّةِ يَوْمِنَا هَذَا الْكُتُبُ فِي أَوَّلِ

گواہان عادل ملائکہ کے لیے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے ہمارے اس دن کی ابتداء میں لکھو ہمارے نامہ اعمال کے

صَحِيفَتَنَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاشْهَدُ بَأَنَّ تَشْهَدَانُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گواہ بنو کہ ہم خلوص دل سے گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ

لَا شَرِيكَ لَهُ وَتَشْهَدَانُ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ عَلَى هَذِهِ الشَّهَادَةِ نَحْيًا وَعَلَيْهَا

لا شریک لہ کی اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد اس کے عبد مخصوص اور رسول برحق ہیں۔ اسی شہادت پر زندہ رہیں گے اور اسی پر

نَمُوتُ وَنَبْعَثُ اِنْشَاءُ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرِسْرٍ وَحَدِيثِكَ الَّذِي

میرے گے اور اسی پر اٹھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطفیل تیری وحدت کے سمرار کے جو کہ

هُوَ أَنْتَ وَعَدْتَّ بِهِ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّكْرِ بِخَفِيِّ جَوْلَانِ مَعْرِفَتِكَ بِالْفِكْرِ الْخَفِيِّ

تیرا عین ہے وعدہ دیا تو نے اس کے ساتھ اہل ذکر کے قلوب کو بسبب اپنی معرفت کی مخفی گردش کے ساتھ مخفی فکر کے

أَخْمِسْتِي يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ فِي بَحْرٍ أَنْوَارٍ وَحْدَانِيَّتِكَ وَأَمْلًا قَلْبِي مِنْ أَسْرَارِكَ

مجھے ڈبو دے اے اللہ اے اللہ اپنی وحدانیت کے بحر انوار میں اور بھر دے میرے دل کو اپنے اسرار سے اور مجھے

وَفِكْرِي فِيكَ وَمِنْكَ وَأَسْأَلُكَ الْوُصُولَ بِالسِّرِّ الَّذِي تَدْهَشُ مِنْهُ الْعُقُولُ فَهُوَ

جگہ اور پائیداری عطا فرما اپنی ذات میں اور اپنی ذات کی طرف اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے وصول کا بطفیل اس راہ مخفی کے کہ دہشت زدہ ہوتے ہیں

مِنْ قُرْبِهِ ذَاهِلٌ أَيُّنُوخٌ يَأْمَلُوخٌ بَابِي وَأَمِنْ أَيْ وَأَمِنْ مِهْبَاشِ الَّذِي

اس سے تمام عقول ہیں وہ اس کے قریب غافل ہو جاتے ہیں۔ اے نوح۔ اے طوح بای و آمن ای و آمن مہباش جس کے

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا

یہ ہے ملک و سلطنت تمام آسمانوں اور زمین کی اور وہی عزیز حکیم ہے رب ہے مشرق و مغرب کا، نہیں

إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ

معبود برحق مگر وہی پس اسی کو اپنا وکیل و کار ساز سمجھ۔ فرما دو وہی اللہ یکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے جناسی کو اور نہ

يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

وہ جناسی کیا اور نہیں ہے اس کا کوئی ٹیل اور مشابہ۔

